

اُردو میں اپنی نوعیت کی اولین پیش کش



قدیم و جدید جُغرافیائی نقشوں اور نادر تاریخی تصاویر سے مزیّن

www.KitaboSunnat.com

اطلس سیرت نبوی

مقامات، واقعات، غزوات و سرائیا، قبائل و شخصیات اور محدثین کا تذکرہ

تالیف: ڈاکٹر شوقی ابوخلیل

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کو عالمی ادارہ



معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

اطلس سیرتِ نبوی

مقامات، واقعات، غزوات و سرایا
قبائل و شخصیات اور غنڈین کا تذکرہ

بجوتقوٲ اشاعت برائے دارالسلام مجتہدین

دارالسلام



کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی

© مکتبہ دارالسلام ۱۴۲۵ھ

فہرست مکتبہ الملك فهد الوطنية انشاء النشر

ابوخلیل۔ شوقي

اطلس السيرة النبوية - بالأردنية / شوقي أبوخلیل - الرباط، ۱۴۲۱ھ

۵۱۲ ص ۲۱×۱۵ سم

ردمك: ۰۶-۰۳-۸۹۹-۹۹۶۰

۱- السيرة النبوية - العنوان

ديوي ۳۳۹ ۱۴۲۵/۱۶۱

رقم الإيداع: ۱۴۲۵/۱۶۱

ردمك: ۰۶-۰۳-۸۹۹-۹۹۶۰

سعودی عرب (ہیڈ آفس)

پوسٹ بکس: ۲۲۷۴۳ الرياض ۱۱۴۱۶ سعودی عرب

فون: 4021659: 00966 1 4043432-4033962

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - Riyadh@dar-us-salam.com

Website: www.dar-us-salam.com

1 طریقہ کار الضیاء الرياض فون: 4614483: 00966 1 4644945: فیکس

2 شارع البیہین الملز الرياض فون: 4735220: فیکس 4735221

3 جندہ فون: 6879254: 00966 2 6336270: فیکس

4 الخیر فون: 8692900: 00966 3 8691551: فیکس

شارجہ فون: 5632623: 00971 6 5632624: فیکس

لندن فون: 5202666: 0044 208 5217645: فیکس

امریکہ 1 ہوسٹن فون: 7220419: 001 713 7220431: فیکس

2 نیویارک فون: 6255925: 001 718 6251511: فیکس

پاکستان (ہیڈ آفس و مرکزی شوروم)

36- لوزال، یکیز میٹ سٹاپ لاہور

فون: 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081

فیکس: 7354072: E-mail: darussalampk@hotmail.com

طلس القرآن کے بعد ایکٹ اور فریڈم کش

طلس سیرت نبوی ﷺ

مقامات، واقعات، غزوات و سرایا

قبائل و شخصیات اور محدثین کا تذکرہ

قدیم و جدید جغرافیائی نقشوں اور متادرتاریخی
تصاویر سے مزین معلومات کا مستند ذخیرہ

تالیف:

ڈاکٹر شوقی ابوخلیل

توضیح و اضافہ: محسنہ فاروق

ترجمہ: شیخ الحدیث حافظ محمد امین

www.KitaboSunnat.com


دارالسلام

کتاب و سنت کی اعلیٰ کامی ادارہ



248

1-9-1



قمنا بطبع هذا الكتاب بإذن خاص من دار الفكر المعاصر - دمشق -

یہ کتاب دارالفکر دمشق کی خاص اجازت سے شائع کی جا رہی ہے

فہرست

11	عرض ناشر
15	تقدیم و تصدیق
27	جزیرہ نمائے عرب
38	نبی اکرم ﷺ کے جد امجد ابوالانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام
42	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت
50	نبی کریم ﷺ کے اجداد
57	قریش کے قبائل
59	سرزمین عرب کے بت
61	جاہلیت کی مشہور تجارتی منڈیاں اور میلے
67	زمانہ قبل اسلام کی سلطنتیں
70	عام الفیل 30 اگست 571ء یا 570ء نبی کریم ﷺ کی مبارک پیدائش
79	نبی کریم ﷺ کی جائے ولادت مکہ مکرمہ
83	عبداللہ بن عبدالمطلب کا سفر شام اور وفات
86	آل عبد مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز
90	حضرت محمد بن عبداللہ ﷺ
98	نبی کریم ﷺ کی پرورش سفر اور مقامات سفر
102	جنگ فجار (580ء - 590ء)
108	حلف الفضول
109	حمس "قریش کی بدعت"
115	جہاں پہلی وحی نازل ہوئی
119	ہجرت حبشہ کے مقامات
122	حضرت طفیل بن عمرو ازدی ذوی الجہنم (ذوالنور)

6	فہرست
127	سفر طائف
133	نصیبین (الجزیرہ) سے جنوں کی آمد
136	اسراء..... مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
141	ہجرت سے پہلے (بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ)
145	ہجرت نبوی
151	قباء اور مسجد قباء
154	مدینہ منورہ
170	مدینہ منورہ کی بعض مشہور مساجد
172	حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا سفر (از اصفہان تا مدینہ منورہ)
181	بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تبدیلی قبلہ
191	غزوات و سرایا
193	سریہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عیص کی جانب سے ساحل سمندر کی طرف (رمضان 1 ہجری)
196	سریہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ (ثانیہ الزمرہ) بطن رابغ کی طرف (شوال 1 ہجری)
199	سریہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خرار کی طرف (ذوالقعدہ 1 ہجری)
202	غزوہ وڈان (ابواء) (صفر 2 ہجری)
204	غزوہ بواط رضوی کے علاقے میں (ربیع الاول 2 ہجری)
206	غزوہ سفوان (بدر اولیٰ) (ربیع الاول 2 ہجری)
208	غزوہ ذی العشرہ (جمادی الآخرہ 2 ہجری)
211	سریہ عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ عنہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں (رجب 2 ہجری)
214	غزوہ بدر الکبریٰ (رمضان 2 ہجری)
222	سریہ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ (رمضان 2 ہجری)
224	سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ (شوال 2 ہجری)
226	غزوہ بنو قنیقاع (شوال 2 ہجری)
229	غزوہ سونین (ستوؤں والی جنگ) (ذوالحجہ 2 ہجری)
231	غزوہ بنو سلیم (محرم 3 ہجری)
233	سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ

- 237 غزوہ ذی اترخیل کے علاقے میں (ربیع الاول 3 ہجری)
- 240 غزوہ یحزان (جمادی الاولیٰ 3 ہجری)
- 242 سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ قردہ (نجد) کی طرف (جمادی الآخرہ 3 ہجری)
- 245 غزوہ احد (شوال 3 ہجری)
- 250 غزوہ حراء الاسد (16 شوال 3 ہجری)
- 253 سریہ ابی سلمہ بن عبدالاسد مخزومی رضی اللہ عنہ قطن کی طرف (محرم 4 ہجری)
- 255 سریہ عبداللہ بن اُنیس رضی اللہ عنہ غزہ کی طرف (محرم 4 ہجری)
- 258 سریہ منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ بئر معونہ کی طرف (صفر 4 ہجری)
- 261 سریہ مرہد بن ابی مرہد غنوی رضی اللہ عنہ (صفر 4 ہجری)
- 264 غزوہ بنی نضیر (ربیع الاول 4 ہجری)
- 267 غزوہ بدر آخرہ (ذوالقعدہ 4 ہجری)
- 269 غزوہ ذات الرقاع (محرم 5 ہجری)
- 272 غزوہ دومۃ الجندل (ربیع الاول 5 ہجری)
- 275 غزوہ بنی مصطلق (غزوہ مزہج) (شعبان 5 ہجری)
- 278 غزوہ خندق (غزوہ احزاب) شوال 5 ہجری
- 282 غزوہ بنو قریظہ (ذوالقعدہ 5 ہجری)
- 285 سریہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ فزہ کی طرف (10 محرم 6 ہجری)
- 287 غزوہ بنی لحيان (ربیع الاول 6 ہجری)
- 289 غزوہ ذی قرد (الغابہ) (ربیع الاول 6 ہجری)
- 292 سریہ عکاشہ بن حصن اسدی رضی اللہ عنہ غمر کی طرف (ربیع الاول 6 ہجری)
- 295 سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ذوقصہ کی طرف (ربیع الآخرہ 6 ہجری)
- 295 سریہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ذوقصہ کی طرف (ربیع الآخرہ 6 ہجری)
- 300 سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بنو سلمہ کے خلاف (ربیع الآخرہ 6 ہجری)
- 301 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ عیس کی طرف (جمادی الاولیٰ 6 ہجری)
- 303 سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ طوف کی طرف (جمادی الآخرہ 6 ہجری)
- 304 سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حسی کی طرف (جمادی الآخرہ 6 ہجری)

- 306 سرینہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما وادی القرئی کی طرف (رجب 6 ہجری)
- 308 سرینہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما دومۃ الجندل کی طرف (شعبان 6 ہجری)
- 311 سرینہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما فدک کی طرف (شعبان 6 ہجری)
- 313 سرینہ عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہما خیبر کی طرف (رمضان 6 ہجری)
- 317 سرینہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما خیبر میں انسیر بن زارم یہودی کے خلاف (شوال 6 ہجری)
- 320 سرینہ گرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہما عربینہ کی طرف (شوال 6 ہجری)
- 322 سرینہ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہما سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہما کی معیت میں مکہ کی طرف (6 ہجری)
- 325 غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان (ذوالقعدہ 6 ہجری)
- 329 غزوہ خیبر فدک اور وادی القرئی (محرم 7 ہجری)
- 335 رسول کریم ﷺ کے خطوط شاہان وقت کے نام
- 339 باذان کے قاصدوں کی آمد (صنعا سے مدینہ منورہ تک)
- 343 حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا (ملک مصر کے علاقہ انصنا کی ایک ہستی کفن سے)
- 349 رسول اللہ ﷺ کا قیصر ہرقل کو خط (آغاز 7 ہجری 628ء)
- 353 سرینہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ثربہ کی طرف (شعبان 7 ہجری)
- 356 سرینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نجد کی طرف (شعبان 7 ہجری)
- 360 سرینہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہما فدک کی طرف (شعبان 7 ہجری)
- 362 سرینہ حضرت غالب بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہما وادی نخل کی طرف (رمضان 7 ہجری)
- 364 سرینہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہما یمن اور بھار کی طرف (شوال 7 ہجری)
- 367 عمرۃ القضاء (ذوالقعدہ 7 ہجری)
- 371 سرینہ ابن ابی العوجاء سلمی رضی اللہ عنہما بنو سلمہ کی طرف (ذوالحجہ 7 ہجری)
- 374 سرینہ حضرت غالب بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہما کدید کی طرف (صفر 8 ہجری)
- 374 سرینہ حضرت غالب بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہما فدک کی طرف (صفر 8 ہجری)
- 376 سرینہ حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہما کی طرف (ربیع الاول 8 ہجری)
- 378 سرینہ حضرت کعب بن غیر غفاری رضی اللہ عنہما ذات اطلاق کی طرف (ربیع الاول 8 ہجری)
- 380 غزوہ موتہ (غزوہ حبش الامراء) (جمادی الاولیٰ 8 ہجری)
- 385 سرینہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ذات السلاسل کی طرف (جمادی الآخرہ 8 ہجری)

- 388 سرینہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ "قبلیہ" کی طرف (رجب 8 ہجری)
- 391 سرینہ حضرت ابوقحافہ بن ربیع النزاری رضی اللہ عنہ "خضرہ" کی طرف (شعبان 8 ہجری)
- 392 سرینہ حضرت ابوقحافہ بن ربیع النزاری رضی اللہ عنہ بطن اضم کی طرف (رمضان 8 ہجری)
- 394 فتح مکہ (فتح اعظم) (رمضان 8 ہجری)
- 399 سرینہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف (رمضان 8 ہجری)
- 402 سرینہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یثرب کی طرف (رمضان 8 ہجری)
- 404 سرینہ حضرت سعد بن زید اشجلی رضی اللہ عنہ مظل کی طرف (رمضان 8 ہجری)
- 406 سرینہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جذیمہ کی طرف (شوال 8 ہجری)
- 408 غزوہ حنین (غزوہ ہوازن) (شوال 8 ہجری)
- 412 سرینہ حضرت طفیل بن عمرو دؤی رضی اللہ عنہ ذوالکفین کی طرف (شوال 8 ہجری)
- 413 غزوہ طائف (شوال 8 ہجری)
- 416 سرینہ عقیقہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ تمیم کی طرف (محرم 9 ہجری)
- 418 سرینہ قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تالہ کی طرف (صفر 9 ہجری)
- 420 سرینہ ضحاک بن صفیان کلابی رضی اللہ عنہ کلاب کی طرف (ربیع الاول 9 ہجری)
- 422 سرینہ عاتقہ بن مجزز ملجعی جدہ کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)
- 424 سرینہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ طے کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)
- 426 سرینہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن کی طرف (رمضان 10 ہجری)
- 428 سرینہ عکاشہ بن حصن اسدی رضی اللہ عنہ "چناب" کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)
- 430 غزوہ تبوک (غزوہ غسرہ) رجب 9 ہجری
- 436 سن دؤد (9 ہجری)
- 447 سرینہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نجران کی طرف (ربیع الاول 10 ہجری)
- 448 حجة الوداع (حجة الاسلام) (10 ہجری)
- 455 جيش اسامہ رضی اللہ عنہ بقاء کی طرف (صفر 11 ہجری)
- 458 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء اور عمال
- 472 حدیث تدوین حدیث۔ مراتب حدیث، کتب ستہ اور ان کے مؤلفین۔ علمی اسفار کے نقشوں کی تفصیلات
- 497 سیرت اور مغازی سے متعلق کتب

- 503 کعبہ مشرفہ (البيت، بيت الله، البيت الحرام، البيت العتيق، القبلة)
- 503 مکہ مکرمہ اور مواقیت کا درمیانی فاصلہ (تقریباً)
- 503 مسجد حرام اور حرم کی حدود کا درمیانی فاصلہ
- 511 مسجد حرام کی پیمائش اور گنجائش



عرض ناشر

ادارہ دار السلام جب سے قائم ہوا ہے کتاب و سنت اور دیگر اسلامی علوم کی اشاعت اس کا مطمح نظر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم عہد نو کے تقاضے پیش نگاہ رکھتے ہوئے قرآن مجید، حدیث، سیرت اور عربی زبان و ادب کی تدریس و اشاعت میں ہر نوع کے جدید سائنسی و فنی ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ دینی علوم کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ قرآنی تعلیمات، علم حدیث اور سیرت نبویہ کے حوالے سے عربی میں چھپنے والی ہر اچھی کتاب اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں کے قالب میں ڈھالی جائے یہ 1998ء کی ایک خوبصورت صبح تھی جب میں اپنی فیملی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ بذریعہ کارروانہ ہوا۔ یہ سفر جس سڑک پر جاری تھا اس کو عربی میں طریق سرلیج (ہائی وے) یا طریق الحج بھی کہتے ہیں۔ یہ نئی سڑک کچھ عرصہ پہلے ہی بنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نئی سڑک کم و بیش اسی راستے پر بنائی گئی ہے جس راستے پر رسول اکرم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ طیبہ کے سفر کی لذت ہی زماں ہے میں نے اپنے بچوں کو ہجرت کے واقعات سنا شروع کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد بنی مدینہ کا علاقہ شروع ہوا۔ سراقہ بن مالک اسی جگہ کارہنہ والا تھا۔ ہجرت کے اہم واقعات میں سراقہ بن مالک کا سرخ اونٹوں کے لالچ میں اس مقدس قافلے کا پیچھا کرنا بھی شامل ہے۔

میں نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی، دو دو رنگ سخت پتھریلی زمین تھی۔ میں نے چل پھر کر دیکھا زمین اتنی سخت تھی کہ کسی گھوڑے کا ٹھوکرا کھا کر اس میں دھنس جانا ناممکن تھا۔ میں نے بچوں کو بتایا کہ سراقہ بن مالک کے گھوڑے کا زمین میں دھنسا اللہ کے رسول ﷺ کا معجزہ تھا ورنہ یہ دیکھیں زمین کتنی سخت ہے۔ اس میں گھوڑے کا دھنسا ناممکن ہے۔ بچے بھی خوب دلچسپی سے ان واقعات کو سن رہے تھے اور اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہے تھے۔ میں چشم تصور میں اس چار رکنی قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ جو عبد اللہ بن اریقہ کی رہنمائی میں اس علاقے سے گزرا۔ سراقہ کا روکنا، گھوڑے کا زمین میں دھنسا، سراقہ کا امان طلب کرنا اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا امان نامہ لکھ کر دینا۔ میں اس علاقے میں کھڑا نقشہ بنا رہا تھا۔ کاش ان مقامات کو محفوظ کر لیا جاتا ان کے تفصیلی نقشے ہوتے۔ نو جوان نسل اور ہم جیسے تاریخ کے ادنیٰ طالب علم اس سے فائدہ اٹھاتے۔ مکہ مکرمہ میں کتنی بار تمنا ہوئی کہ اس جگہ کا سراغ لگاؤں جہاں دار ارقم واقع تھا۔ شعب ابی طالب کہاں تھا۔ ابو جہل کا گھر کہاں تھا۔ دار الندوہ کس طرف تھا۔

دار السلام نے جب تاریخ مکہ مکرمہ اور تاریخ مدینہ منورہ شائع کی تو میری خواہش تھی کہ ان کتابوں میں ایسے نقشے شامل ہوں۔ جن میں ان مقامات کی نشاندہی ہو مگر بوجہ ایسا نہ ہو سکا۔ سچ پوچھیں تو باوجود تلاش کے ایسا آدمی نہ مل سکا جو

ہماری اس سلسلہ میں مدد کرتا۔

کم و بیش آٹھ سال قبل مدینہ طیبہ میں الرحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ کے ہمراہ مجھے کعب بن اشرف کے قلعے کے کھنڈرات دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی کے کچھ پاکستانی طلبہ بھی ہمراہ تھے۔ مولانا موصوف نے بڑے عمدہ انداز میں سارا نقشہ بنا کر کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ بیان کیا۔

اس وقت بھی مجھے خواہش ہوئی کہ کوئی ایسی کتاب دستیاب ہو جس میں ان تمام واقعات و مقامات کو نقشوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہو تاکہ سیرت پاک کے واقعات دل و دماغ میں اپنے نقشوں سمیت نقش ہو جائیں۔

چنانچہ ازھائی تین سال پہلے جب عربی کے بلند پایہ شامی مصنف دکتور شوقی ابوخلیل کی شاندار تصانیف ”اطلس القرآن: اماکن، اقوام، اعلام“ (قرآنی اطلس: مقامات، اقوام اور شخصیات کا تذکرہ) اور ”اطلس السیرۃ النبویہ“ میری نظر سے گزریں تو مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ بالترتیب قرآنی آیات و موضوعات اور سیرت کے واقعات کے ساتھ ساتھ خوبصورت چہار رنگ نقشوں سے بھی مزین ہیں اور یہی میری دیرینہ خواہش اور پرانی آرزو تھی کہ اس قسم کی کتاب دستیاب ہو جس میں ان مبارک مقامات کے نقشے ہوں۔ چنانچہ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ دارالسلام ان کتابوں کو اردو اور انگریزی کا جامہ پہنانے کا شرف حاصل کرے گا۔ اس کے لیے کتاب کے ناشر ”دار الفکر: دمشق“ سے رابطہ قائم کیا گیا اور بڑی جگ و دو کے بعد میں نے ”اطلس القرآن“ اور ”اطلس السیرۃ النبویہ“ کے اردو اور انگریزی ایڈیشنوں کی اشاعت کے حقوق حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اطلس القرآن کے ابتدائی صفحات میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ میں یہ حقوق حاصل کرنے میں کس طرح کامیاب ہوا۔ کتابوں کے اردو ترجمے کی نازک ذمہ داری شیخ الحدیث حافظ محمد امین نے اٹھائی اور حق ترجمانی خوب ادا کیا۔ ان کے ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ انداز نہایت سادہ اور دل میں اترنے والا ہے۔ کتاب ترجمہ نہیں تالیف معلوم ہوتی ہے۔

اطلس القرآن اور اطلس السیرۃ النبویہ میں قصص انبیائے کرام، واقعات اقوام عالم اور دیگر سیرت نبویہ کے حوالے شامل کیے گئے نقشوں کو عربی سے اردو میں ڈھالنے کا مرحلہ خاصا دشوار تھا۔ عربی کی جغرافیائی اصطلاحات کے صحیح اردو مترادفات ڈھونڈنا تھے اور مقامات و اماکن کے حوالے سے متن کے ساتھ اضافی توضیحات شامل کرنا تھیں تاکہ قارئین ان نقشوں سے مکاحقہ مستفید ہو سکیں۔ اس کے لیے ایک ایسے صاحب علم کی ضرورت تھی جو عربی سے بھی مناسب واقفیت رکھتا ہو اور دنیا کے قدیم و جدید جغرافیہ و تاریخ پر بھی اسے عبور حاصل ہو۔ یہ اپنی جگہ ایک کٹھن کام تھا کیونکہ قدیم جغرافیائی کتب اور اطلسوں میں دی گئی معلومات دنیا کی جدید جغرافیائی تقسیم سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ مثلاً حاران یا حاران جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور (عراق) سے ہجرت کر کے پہنچے تھے ماضی کے وسیع تر الجزیرہ میں شامل تھا مگر ان دنوں وہ جنوبی ترکی میں واقع ہے نیز ماضی کا الجزیرہ اب عراق، شام اور ترکی تین ملکوں میں بنا ہوا ہے۔ عہد نبوی کا علاقہ بحرین، سعودی عرب کے مشرقی صوبے الاحساء، قطر اور جزیرہ بحرین پر محیط تھا جب کہ آج کی مملکت بحرین صرف جزیرہ بحرین اور ارد گرد کے چند چھوٹے چھوٹے

جزائر پر مشتمل ہے۔ یہ کام واقعی مشکل تھا مگر یہ مشکل کہنہ مشق صحافی جناب محسن فارانی نے حل کر دی جو اردو کے معروف جریدے ”ندائے ملت“ لاہور کے نائب مدیر ہیں اور اس سے پہلے طویل عرصے تک اردو ڈائجسٹ میں ادارتی فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ وہ قدیم و جدید علوم جغرافیہ و تاریخ کے ماہر اور محقق بھی ہیں، اردو اور انگریزی پر کامل عبور رکھتے ہیں اور عربی سے بھی انہیں شغف ہے۔ محسن فارانی اور ان کی معاون ٹیم کی شبانہ روز کاوشوں سے پہلے اطلس القرآن (اردو) منصہ شہود پر آئی اور اب اطلس السیرۃ النبویہ (اردو) آپ کے سامنے ہے۔

اردو اطلس السیرۃ النبویہ (سیرت نبوی کا اطلس) میں نبی ﷺ کی سیرت کے واقعات، غزوات اور سرایا کو چہار رنگ نقشوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ مقامات و اماکن کی رنگین تصاویر اور اضافی توضیحات و تشریحات دی گئی ہیں۔ اس کی تیاری میں دارالسلام شعبہ تحقیق و تصنیف کے علمائے کرام حافظ اقبال صدیق مدنی، حافظ عبدالرحمن ناصر اور پروفیسر محمد ذوالفقار نے معاونت کی اور عربی مراجع و مصادر سے معلومات اور حوالے تلاش کرنے میں مدد دی۔ ترجمہ شدہ مسودے پر نظر ثانی کے فرائض حافظ عبدالرحمن ناصر اور حافظ محمد آصف اقبال نے انجام دیے۔ کمپوزنگ، نقشوں کی تیاری اور پروف ریڈنگ کے مراحل خوش اسلوبی سے طے پائے اور پروف ریڈنگ کا فریضہ محسن فارانی، مولانا محمد عبدالجبار، حافظ محمد آصف اقبال، حافظ اقبال صدیق مدنی اور عثمان نیب صاحب نے مل کر نبھایا۔ ساتھیوں کے تعاون اور شب و روز کی محنت شاقہ سے بھرا اللہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس سے پہلے اردو میں اس کی مثال نہیں ملتی بلکہ اضافی جغرافیائی و تاریخی توضیحات شامل کرنے اور متن اور نقشوں میں پائی جانے والی اغلاط کی تصحیح اور اشکالات دور کرنے کے بعد اس کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ اضافی توضیحات و تشریحات میں مقامات و اماکن، ہر سریہ کے امیر، عمال نبوی اور حروب و زہ کے سالاروں کا تعارف شامل کیا گیا ہے، نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش، عام طور پر مشہور ”اور“ کے بجائے ”سکوئی“ کا مستند حوالوں سے تعین کیا گیا ہے اور متعلقہ نقشے میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ جناب محسن فارانی نے اطلس السیرۃ النبویہ کے نقشوں میں پروف کی اغلاط درست کرنے کے علاوہ بعض نقشوں کی تصحیح بھی کی ہے اور بعض نئے نقشے بنوا کر شامل کتاب کیے ہیں مثلاً:

① اطلس السیرۃ النبویہ (عربی) میں نبی ﷺ کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت کا راستہ (طریق الحجۃ) درست نہیں دکھایا گیا، چنانچہ اس کی جگہ ایک اور درست تر نقشہ شامل کیا گیا ہے۔

② جزیرہ نمائے عرب کی جدید سیاسی تقسیم کے حوالے سے ایک نقشہ شروع میں دے دیا گیا ہے۔

③ عبد نبوی کے بحرین اور موجودہ بحرین کا فرق واضح کرنے کے لیے ایک الگ نقشہ دیا گیا ہے۔

④ حرم منیٰ اور مسجد نبوی کے رقبوں میں مختلف زمانوں میں ہونے والی توسیعات کو واضح کرنے کے لیے دو نئے رنگین نقشے پیش کیے گئے ہیں۔

اطلس القرآن (اردو) کی طرح اطلس السیرۃ النبویہ (اردو) کے نقشوں میں بھی ”سودان“ کے انگریزی تلفظ

”سوڈان“ کے بجائے اصل عربی تلفظ کی پیروی میں اسے ”سودان“ ہی لکھا گیا ہے۔

اطلس السيرة النبوية (اردو) کی تیاری کے فنی مراحل، کمپوزنگ، ڈیزائننگ وغیرہ میں محمد عامر رضوان، محمد ندیم کامران اور ضیاء الدین نے اسے خوب سے خوب تر بنانے میں بھرپور محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزم حافظ عبدالعظیم اسد سئلہ اللہ تعالیٰ مدیر دارالسلام لاہور بھی میرے شکریے کے بجا طور پر مستحق ہیں جن کی نگرانی و اہتمام میں یہ سارا کام تکمیل کو پہنچا۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ ہماری ان کاوشوں کو پسند فرمائیں تو ارحم الراحمین سے ہمارے حق میں قبولیت و مغفرت کی دعا ضرور فرمائیں۔

میرا اس کتاب کو شائع کرنے کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دلی محبت کا اظہار ہے۔ زہے نصیب کہ مجھے اور اس کتاب پر دن رات کام کرنے والی ٹیم کو قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ میں امت مسلمہ کے افراد سے بالعموم اور نوجوان طبقہ سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ وہ سیرت پاک کا خوب دل جمعی اور کثرت سے مطالعہ کریں۔ اور اس کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ میں تاریخ و جغرافیہ، تاریخ کے ماہرین سے بھی عرض گزار ہوں کہ اگر انہیں اس کتاب میں کوئی سقم، کوئی علمی غلطی یا کمزوری نظر آئے تو براہ کرم ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی ضرور اصلاح کر دی جائے گی۔

خادم کتاب و سنت

عبدالملک مجاہد

مدیر دارالسلام۔ الریاض لاہور

ذی الحجہ 1424ھ فروری 2004ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم



۱۔ مدینہ منورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

28 شعبان 1422ھ / 14 نومبر 2001ء بدھ کے دن شام کے وقت میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا عجیب سا سکون و اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل میں ان آیات کریمہ کا تصور آ رہا تھا:

وَمَا تَشَاوَرُ اُولٰٓئِكَ اِلَّا فِي غِبَابٍ مِّنَ الْحَبْرِ
 وَمَا يُعْلِمُ الْغَيْبُ اِلَّا سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

”اُن قرآنی کریم کی مدد نہیں کرو گے تو نبی کو کوئی فتنہ نہ پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا اور وہ دونوں شخص غار میں چھپے ہوئے تھے اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا: ”غم نہ کر اللہ ہم سے ساتھ ہے“ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سکون و اطمینان نازل فرمایا اور ان دیکھے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات مبنی میں ملادی اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند و بالا رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“ (التوبة: 40/9)

ترجمہ: اُن لوگوں نے

وَمَا تَشَاوَرُ اُولٰٓئِكَ اِلَّا فِي غِبَابٍ مِّنَ الْحَبْرِ
 وَمَا يُعْلِمُ الْغَيْبُ اِلَّا سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

”جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ ضد پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات پر پکا کر دیا۔ درحقیقت مومن ہی تقویٰ والی بات کے حق دار اور اہل ہیں اور اللہ تعالیٰ جیتے و بخوبی جانتے والا ہے۔“ (الفتح: 26/48)

پھر مجھے وہ شعر یاد آئے جن میں اسی سکینت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے:

حَاسَتْ النُّفُسُ بِالْمُؤْمِ وَالْكَفَرِ
 كَيْفَ لَا تَسْكُنُ النُّفُوسُ اَرْبَابًا

”ان نفسوں کی وجہ سے مضطرب تھا مگر جب ہم مدینہ منورہ میں فروکش ہوئے تو سکون آ گیا۔ سکون کیوں نہ آتا جب

کہ ہم اس شخصیت کے دیار میں پہنچ گئے تھے جن پر سکینت نازل کی گئی!“

تو مصطفیٰ حبیب کائنات ﷺ کے احترام و اشتیاق کے تصور سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے عجب و غریب سکون محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی دعائیں الہام کیں۔ ان میں سے ایک مجھے اب بھی یاد ہے:

”اے اللہ! تیرے اس عظیم محبوب ﷺ کی کوئی تاریخ نہیں اور نہ ہم ان کی تاریخ لکھتے ہیں کیونکہ تاریخ تو گزشتہ واقعات کا نام ہے بلکہ ہم آپ ﷺ کی سیرت طیبہ لکھتے ہیں تاکہ ہم اسے اسوہ اور نمونہ بنا سکیں اور سیرت طیبہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اے میرے پروردگار! مجھے اس پاکیزہ سیرت کے خدام میں شامل فرما تاکہ مسلمان مجھ سے اس بارے میں وہ علم حاصل کریں جس میں میں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی ہے اور وہ ہے سیرت طیبہ کی تحقیق و تحریر۔“

میں دمشق لوٹ آیا۔ کئی دن یہ حالت رہی کہ جب بھی حبیب کائنات مصطفیٰ ﷺ کا خیال آتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ خصوصاً میری واپسی کے بعد پوسٹ گریجویشن کے طلبہ کے سامنے میرا پہلا لیچر اس موضوع پر تھا: ”سیرت نبویہ: ہم کس شخصیت کی بات کرتے ہیں؟“ میں نے دوران لیچر طلبہ سے کہا:

”ہم اس کائنات کی منتخب شدہ افضل ترین شخصیت ﷺ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ علماء نے کہا ہے: اسماء و القاب کی کثرت کسی شخصیت کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں نے اس کی طرف بھرپور توجہ کی ہے۔ خصوصاً عربی کلام میں انہی چیزوں کے نام زیادہ ہیں جن کی اہمیت زیادہ ہے جیسے:

گھوڑے کو ”فرس“ کے علاوہ ”مُطْلَمٌ“ ”طُمُوح“ ”شَيْظَم“ ”سَلْهَب“ ”طَمْر“ وغیرہ کہا جاتا ہے۔

اونٹ کو ”اہل“ کے علاوہ ”فَحْل“ ”مُضْعَب“ ”ظُفُون“ ”زُخُول“ ”ناضِح“ ”دُرُوس“ وغیرہ کہا جاتا ہے۔

تیر کو ”سُہْم“ کے علاوہ ”صَادِر“ ”زَالِج“ ”طَانِش“ ”صَانِب“ ”شَاظِف“ ”مَارِق“ وغیرہ کہا جاتا ہے۔

بادل کو ”نَخَاب“ کے علاوہ ”عَمَام“ ”عَارِض“ ”عَنَان“ ”هَيْذَب“ ”مُكْهَفَر“ ”صَب“ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔

آج ہم حضرت محمد ﷺ کے بارے میں کلام کریں گے جو ”الامین“ کے لقب سے مشہور تھے، حضرت احمد بن حنبلہ کے بارے میں جو کل جہان کے لیے ہادی و رہنما تھے جو تمام بنو آدم کے سردار تھے نبی رحمت ﷺ کے بارے میں، حضرت خاتم النبیین کے بارے میں، حضرت مصطفیٰ مقرر ﷺ کے بارے میں، حضرت یحییٰ بن اسماعیل کے بارے میں جو دنیا میں رہنما اور آخرت میں شفاعت کرنے والے ہیں، جوش کوثر کے مالک ہیں، مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں، سراج منیر ہیں، نذیر و بشیر ہیں۔

ہم ایسی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں جو صورت کے لحاظ سے کامل ترین تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی عقل کامل و دافرتھی انتہائی ذہین تھے، حواس قوی اور مضبوط تھے، زبان مبارک فصیح تھی، آپ کی سکناات و حرکات معتدل تھیں، عادات و خصائل خوبصورت تھیں، بہت حلیم و بردبار تھے، قدرت رکھنے کے باوجود درگزر فرماتے تھے، انتہائی صابر و صبر و تحمل اور باحیا تھے، شجاعت، جود و سخا اور شرافت کے پیکر تھے۔ خالص محبت فرمانے والے، ہر ایک کی خیر خواہی کرنے والے، بہترین سوک

رکھنے والے تمام مخلوقات کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آنے والے لوگوں کے ایمان کی خواہش رکھنے والے باوقار سابقہ تعلقات کا لحاظ رکھنے والے انتہائی بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تواضع کے پیکر انتہائی انصاف پسند امانت دار یا کبار باوقار اعلیٰ جو انہرہ تھے۔ سچی زبان والے خوبصورت انداز والے دنیا سے بے رغبت اللہ سے ڈرنے والے اس کے فرمانبردار ڈٹ کر عبادت کرنے والے اس کے شکر گزار اور ہر وقت اس کی طرف رجوع کرنے والے اللہ کا حق خوب ادا کرنے والے سچا اور سچا یقین رکھنے والے اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ رکھنے والے اور اس سے بھرپور محبت کرنے والے اور تمام اخلاق و فضائل کے جامع تھے۔ آپ ﷺ کا خلق قرآن کی سچی تصویر تھا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے اور جہاں اللہ ناراض ہوتا تھا وہاں آپ ﷺ بھی ناراض ہو جایا کرتے تھے۔

1- حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی کے بارے میں مذکور ہے انہوں نے کہا:

﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ ﴿١﴾ ”رب کریم! میں تیرے پاس جلدی جلدی آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔“ (طہ: 84/20) جب کہ قرآن مجید حضرت محمد ﷺ کے بارے میں یوں مدح سرا ہے: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ ﴿٢﴾ ”تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔“ (الضحیٰ: 93/5) دونوں کا فرق واضح ہے۔

2- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٣﴾ ”موسیٰ نے کہا: میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ بلاشبہ وہ غفور و رحیم ہے۔“ (القصص: 28/16) جب کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں فرمایا:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۖ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿٤﴾

”ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے اپنی نعمت آپ پر مکمل فرمائے اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔“ (الفتح: 48/21) دونوں مقاموں میں واضح فرق ہے۔

3- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے:

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ﴿٥﴾ ”موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! میرے لیے میرا سیدہ کھول دے۔“ (طہ: 25/20) جبکہ حضرت مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں قرآن یوں گواہ افشاں ہے: ﴿أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ﴿٦﴾ ”کیا ہم نے آپ کا سیدہ کھول نہیں دیا؟“ (الانشراح: 94/1) دونوں مقامات میں فرق روز روشن کی طرح واضح ہے۔

4- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں آیا ہے کہ انہوں نے کہا:

﴿وَلْيَسِّرْ لِي أُمُورِي﴾ ﴿٧﴾ ”اے اللہ! اور میرے لیے میرا کام آسان فرما۔“ (طہ: 26/20) جب کہ نبی اکرم الطاہر

الامین ﷺ کے بارے میں یوں ارشاد ہے: ﴿وَلْيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى﴾ ”اور ہم آپ کے لیے آسانی مہیا کریں گے۔“ (الاعلیٰ: 8/87) فرق خود ہی دیکھ لیجیے۔

5- حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب رحیم سے زمین پر کلام کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيبًا﴾ ”ہم نے موسیٰ کو کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے قریب لا کر سرگوشیاں کیں۔“ (مريم: 52/19)

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

”جب موسیٰ وہاں آئے تو انہیں وادی کے دائیں کنارے سے اس مبارک علاقے میں درخت سے آواز دی گئی: اے موسیٰ! میں اللہ ہوں، سب جہانوں کو پالنے والا۔“ (القصص: 30/28) اور رسول اللہ نسل آدم کے سردار ہادی عالم ﷺ نے اپنے رب تعالیٰ سے آسمانوں پر کلام کیا۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۚ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ﴾

”نبی کریم (ﷺ) کو قرآن کی تعلیم قوتوں والے طاقتور فرشتے نے دی۔ وہ اپنی اصلی شکل میں سامنے آیا۔ اس وقت وہ بلند افق پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور نیچے آیا حتیٰ کہ دو کمانوں بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر آ گیا تو اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ نبی مکرم کے دل نے جو دیکھا صحیح بیان کیا۔“ (النجم: 53/5 تا 11) فرق خود دیکھ لیجیے۔

6- حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف ان کی قوم بنی اسرائیل اور اس وقت کے ظالم بادشاہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون سے کہا:

﴿فَارْسِلْ مَعَنِيَ ابْنِي إِسْرَءِيلَ ۚ وَلَا تَحْبِرْهُمُ﴾ ”(اے فرعون!) بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیفیں نہ دے۔“ (طہ: 47/20)

اور مزید فرمایا:

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا تَشْخِذُوا مِنْ دُونِي وَيَكِيدُوا ۚ﴾

”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہادی بنایا، نیز فرمایا میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔“ (بنی اسرائیل: 2/17) جبکہ نبی الصادق الامین ﷺ کو سب لوگوں کے لیے ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ بنا کر بھیجا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلَامًا لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ”ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔“ (سبا: 28/34) نیز فرمایا:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝﴾ ”یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے لیکن تمہیں اس حقیقت کا پتہ کچھ دیر بعد لگے گا۔“ (ص: 38/87-88)

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ”اور ہم نے آپ کو سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ (الانبیاء: 21/107) نیز ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ”کہہ دیجیے: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔“ (الأعراف: 7/158) دونوں مقامات کے درمیان مشرق و مغرب کا فرق ہے۔

7- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے:

﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝﴾ ”میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری نگرانی میں ہو۔“ (طہ: 20/39) اور حضرت محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا: ﴿وَأَصْبَحَ لِحُكْمِ رَبِّكَ قَالَ كَ بَاعَ عَيْنَانَا﴾ ”اپنے رب کے حکم پر کاربند رہیے“ آپ ہر لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔“ ان الفاظ میں استغراق پایا جاتا ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے لہذا دونوں مقامات میں بہت فرق ہے۔

8- ”رؤف“ اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں قرآن مجید میں کئی دفعہ ان کا ذکر ہے۔ مگر سورہ توبہ میں یہ دو وصف رسول اللہ ﷺ کی بابت فرمائے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ”بلاشبہ تمہارے پاس تمہاری نسل میں سے ایک عظیم رسول تشریف لا چکا ہے جس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت شاق گزرتی ہے اور تمہارے مفاد کا وہ بہت خواہش مند ہے۔ وہ ایمان والوں کے لیے رؤف رحیم (بہت شفیق و مہربان) ہے۔“ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمائے حسنیٰ میں سے یہ دو نام آپ ﷺ کو عطا فرمادیے۔

9- کسی شخص کی زندگی میں اس کی زندگی کی قسم اٹھانا اس کی زندگی کے عظیم الشان ہونے کا ثبوت ہے۔ ظاہر ہے وہ زندگی قسم اٹھانے والے کے نزدیک بہت پیاری اور بلند و بالا ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جاتی کیونکہ وہ نہ صرف عربوں بلکہ تمام جہانوں کے لیے مبارک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ﴾ ”تیری حیات طیبہ کی قسم! یہ لوگ اپنی مدہوشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔“ (الحجر: 15/72)

10- قرآن مجید میں حبیبِ اعظم ﷺ کو انتہائی پیارے الفاظ سے خطاب فرمایا گیا ہے مثلاً: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، يَا أَيُّهَا الْمَوْمِلُ اور يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ جب کہ باقی انبیاء کو ان کے ذاتی نام سے پکارا گیا ہے مثلاً: يَا اَدَمُ، يَا نُوحُ، يَا مُوسَى، يَا دَاوُدُ، يَا زَكَرِيَّا، يَا عِيسَىٰ وَغَيْرِهِ۔

11- گزشتہ انبیاء کے معجزات وقتی تھے۔ واقع ہونے کے بعد ختم ہو جایا کرتے تھے اور اب وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں جبکہ

حضرت محمد ﷺ کا معجزہ ”قرآن کریم“ دائمی اور ناقیامت باقی رہنے والا ہے جس کے عجائب و نکات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ نیز اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ”ہم نے اس ”ذکر“ کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“ (الحجر: 9/15)

12- اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ”اور بلاشبہ آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔“ (القلم: 3/68) نیز فرمایا:

﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَطْنًا غَلِيظًا لِّقَلْبِكَ لَفَلَطْنَا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بہت نرم ہیں۔ اگر آپ درشت مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے لہذا ان سے درگزر کیا کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استغفار کیا کریں اور باہمی معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ البتہ جب فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کے بھروسہ پر ڈٹ جائیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔“ (آل عمران: 159/3) اس آیت میں نبی کریم ﷺ کی رافت و رحمت اجاگر کی گئی ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَقَوْلٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ ”پس آپ ان (کافروں) سے منہ پھیر لیجئے آپ پر کوئی ملامت نہیں۔“ (الذاریات: 54/51) اگر آپ ﷺ کوئی کوتاہی کرتے تو آپ کو ضرور ملامت ہوتی۔

یہ اس شخصیت کی عظمت کے چند پہلو ہیں جن کی مبارک سیرت طیبہ کے بارے میں ہم یہ اٹلس پیش کر رہے ہیں نیز جن پر ”اللہ کا آخری پیغام“ نازل ہوا۔ اس پیغام کی چند خصوصیات ہیں:

1- آسمانی الہی عقیدہ: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ”ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور ہم نے آپ کو خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“ (بنی اسرائیل: 105/17) نیز فرمایا:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۚ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۚ مَبْلُغًا عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

”یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ روح الامین (جبریل علیہ السلام) نے اسے آپ کے قلب سلیم پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ یہ کتاب فصیح عربی زبان میں ہے۔“ (الشعراء: 192/26-195)

یعنی عقائد جلد یا بدیر ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن آسمانی الہی عقیدہ ”اسلام“ پھیلتا اور چڑھتا ہی جاتا ہے۔

2- اللہ تعالیٰ کے قانون کے گرد گھومنے والا عقیدہ: اگرچہ جس شخصیت پر یہ پیغام نازل ہوا ہے وہ اس کائنات کی منتخب

اور برگزیدہ شخصیت ہے مگر اس عقیدے کا مرکز اللہ تعالیٰ اور شریعت ہے۔ خود وہ شخصیت بھی اس عقیدے کی پابند ہے اور وہ باوجود انتہائی بلند مرتبہ ہونے کے مقام بشریت ہی میں ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کو اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ ”کہہ دیجیے میں تو تم جیسا انسان ہوں۔ مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔“ (الکہف: 18/110) نیز فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

”کہہ دیجیے میں اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں کلی غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سے فوائد سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف مومنین کو ڈرانے اور خوش خبری دینے والا ہوں۔“ (الاعراف: 188/7) حتیٰ کہ اس کائنات کے سب سے بلند اور اونچے مقام پر پہنچ کر بھی آپ مقام عبودیت ہی پر رہے۔ یہ مظاہرہ اسراء اور معراج کے موقع پر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ ”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔“ (بنی اسرائیل: 1/17)

اس آیت کریمہ میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نبی کا نہ حبیب کا نہ ظلیل کا بلکہ ﴿بَعْدِي﴾ ”بندے“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ اسلامیہ کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے ساری کائنات کا خالق و محافظ ہے جو ایک ہے، یکتا ہے۔ یا پھر اس عقیدے کا مرکز اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ سنت مطہرہ تو دراصل اسی کتاب کریم کی تفصیل اور تشریح ہے۔

3- آخری پیغام جس کا معجزہ ہمیشہ باقی رہے گا: یہ آخری پیغام قرآن مجید ہے۔ جب مشرکین مکہ نے وحی معجزے طلب کیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرمایا:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾

”یہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اترتے؟ کہہ دیجیے: معجزات تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نیز یہ کتاب مومن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصیحت ہے۔“ (العنکبوت: 29/51-50)

یہ قیامت تک جاری و ساری اور باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٠﴾

”ہم انہیں زمین و آسمان کے کناروں بلکہ ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حق ہے تو یہی۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب کریم ہر چیز کو جانتا بوجھتا ہے۔“

(خمس السجدۃ: 41/53)

4- جذبات کی بجائے عقل سے خطاب کرنے والا پیغام: یہ پیغام تعصب اور جبر و اکراہ سے پاک انتہائی واضح ہے اسرار و رموز کی بھول بھلیوں میں نہیں ڈالت۔ یہ عقل پر پابندی لگاتا ہے نہ سوچ بچار سے بے بہرہ کرتا ہے۔ سچا دین وہی ہے جو عقل انسانی کے دوش بدوش چلے۔ یاد رہے عقل کی غذا علم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ بلاشبہ اس قرآن میں سوچ بچار کرنے والوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔“ (الرعد: 13/4) اسی کی بابت مزید فرمایا: ﴿لَفَصْلٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ”ہم عقل استعمال کرنے والوں کے لیے آیات کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔“ (الروم: 30/28)

یہ ایسا عقیدہ ہے جو عقل سلیم کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ عقیدہ دراصل عقل استعمال کرنے والوں سوچ بچار کرنے والوں تدبر و تفکر کرنے والوں عقل مند اور ذہین لوگوں کا ہے۔ اگر قرآن مجید آج یا کل کسی قاضی کو تلاش کر لے کہ وہ وحی الہی کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کا مرجع عقل ہی ہوگا۔ اگر قرآن مجید کسی سے بحث کرے گا تو عقل کے مطابق ہی کرے گا۔ اگر ناراض ہوگا تو عقل سے بے بہرہ لوگوں ہی سے ناراض ہوگا اور اگر راضی ہوگا تو عقل مندوں ہی سے راضی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْفِئًا وَقُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ﴾ إِنَّمَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّاتٍ لَهُ هُوَ إِلَهُكُمْ لَا يُدِيرُ كَلِمَةً بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٥١﴾

”کہہ دیجیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ خدا را ایک ایک دود کر کے کھڑے ہو جاؤ پھر سوچو غور و فکر کرو۔ آخر تمہارا یہ نبی مجنون تو نہیں! وہ تو تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔“ (سبا: 34/46)

5- عالم گیر انسانی پیغام: یہ پیغام کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں۔ یا ایہا الناس کے الفاظ کل انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں۔ تقابلی فضیلت کا پیمانہ اس حقیقت سے ماوراء نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٢﴾

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ باقی رہے اقوام و قبائل وہ تو ہم نے اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ علم و خبر رکھنے والا ہے۔“ (الحجرات: 49/13)

مزید فرمان الہی ہے:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلِتَعْلَمَ نَبَاَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝﴾ ”یقیناً یہ قرآن سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے لیکن تمہیں اس کی حقیقت کچھ دیر بعد معلوم ہوگی۔“ (ص: 38/87/88)

نیز فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝﴾ ”اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ (الانبیاء: 21/107)

نیز فرمایا ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ”کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔“ (الأعراف: 7/158)

یہ عالمگیر انسانی پیغام ہے۔ تسامح اور درگزر اس کی مستقل خصوصیت ہے۔ وہ باقی شریعتوں کو ختم کر دینے کا داعی نہیں بلکہ بات چیت اور افہام و تفہیم کا علم بردار ہے۔ اسلام نے اپنے ادوار حکومت میں بہت سے عقائد اور دینوں کو باقی رکھا ہے اور ان کا برقرار رکھنا اللہ کی مشیت سے ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَرِثُ الْوَنُوعَ مَخْتَلِفِينَ ۝﴾ ”اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو زبردستی ایک امت (امت مسلمہ) بنا دیتا لیکن لوگوں میں اختلاف باقی رہے گا (تاکہ امتحان ہو سکے)۔“

(ہود: 11/118)

اسلام کا ابدی اعلان کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”دین میں جبر و اکراہ نہیں“ (البقرة: 2/256) ہر متعصب کے خلاف واضح حجت ہے جو آزادی عقیدہ کا قائل نہیں۔ اسلام زبردستی کرتا ہے نہ خون ریزی اور نہ اپنا عقیدہ کسی پر تھوپتا ہے بلکہ اس کی بجائے وہ اچھے انداز سے بلکہ انتہائی احسن انداز سے بات چیت اور افہام و تفہیم کا قائل ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝﴾

”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور دھیمے خوب صورت و عطف و نصیحت کے ساتھ بلائیے اور اگر کبھی بحث کرنی پڑے تو انتہائی خوب صورت، مہذب انداز میں کیجیے۔ بلاشبہ آپ کا رب گمراہوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ہدایت والوں کو بھی۔“ (النحل: 16/125)

البتہ تسامح و درگزر اور ضعف و عجز کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ شرافت کی قدر نہیں کرتے بلکہ وہ اس وسعت ظرف کو اسلام کے خلاف بدزبانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

بات کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن نہ تو درشتی سے کام لیا جائے نہ کسی پر زبردستی اپنی رائے تھوپ لی جائے اور نہ اشتعال کا مظاہرہ کیا جائے بلکہ تسامح اور درگزر کو لازم پکڑا جائے کیونکہ حساب اللہ کے ذمے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے:

﴿فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلافات

کا واضح فیصلہ فرمائے گا۔“ (البقرة: 113/2)

جن عقائد کی بنیاد بغض اور کینے پر ہو انتقامی کارروائی انہیں نیست و نابود کر دیتی ہے اور جن عقائد کی بنیاد محبت پر ہو حسن سلوک ان کی حفاظت کرتا ہے۔

6- روح اور مادے کے درمیان بہترین توازن: اسلام میں روح مادہ کی مخالف نہیں اور مادہ روح کا دشمن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت تلاش کر اور دنیوی حصے کو بھی فراموش نہ کر۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور زمین میں فساد نہ کر۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں فرماتا۔“ (القصص: 77/28)

دین اسلام میں روح اور مادے کے درمیان بہترین توازن ہے۔ روح بھی سلامت اور مادی تقاضے بھی برقرار۔ متوازن اور مطمئن زندگی اس کا مطمح نظر ہے۔ اس دین میں پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور پلید چیزیں حرام، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ كَذَلِكَ نَفْضِلُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝﴾

”کہہ دیجیے کس نے اللہ کی پیدا کردہ زینت کو اور ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں حرام کیا ہے؟ کہہ دیجیے وہ چیزیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم علم والے لوگوں کے لیے آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔“ (الاعراف: 32/7)

7- ہر دور اور مقام کے لیے ہمیشہ یکساں قابل عمل پیغام: یہ پیغام فطرت انسانیت کے مطابق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

”اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف متوجہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ فطرت انسانیت کے مطابق ہے۔ یاد رکھو اللہ کی فطرت نہیں بدلتی۔ یہ بالکل سیدھا اور مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔“ (الروم: 30/30)

فطرت سے مطابقت اس لیے ہے کہ یہ دین بشری تقاضوں اور ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے اور اس نے جنسی تعلق کو

باہمی معاہدہ کا رنگ دے دیا ہے جس پر خاندانی زندگی کی بنیاد ہے۔ گویا اسلام نے فطری تقاضا بھی پورا کیا اور نسب کی حفاظت بھی کی اور معاشرے کی پہلی اینٹ ہی سے اصلاح کر دی۔

یہ ”معتدل دین“ ہے جس میں کامل اعتدال پایا جاتا ہے۔ اس میں افراط ہے نہ تفریط، کوئی تضاد ہے نہ تضاد اور اس میں طبقاتی جنگ ہے نہ نسبی تفاخر۔ ہر انسان کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے اور انسانیت کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ دین تمام اخلاقی پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ نتیجتاً انسانی معاشرہ عزت اور اطمینان و سکون سے بہرہ ور ہے۔

8- اس پیغام کو بھیجنے والے نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے: اس میں تبدیلی ممکن ہے نہ تحریف اور اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ یہ آج بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے یہ اتر ا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ”بے شک ہم ہی نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“ (الحجر: 9/15)

اس کائنات میں بہت سے نظریات مٹ گئے۔ بہت سی شریعتیں متروک ہو گئیں۔ بے شمار عقائد نیا مسیبا ہو گئے لیکن اسلام روز بروز بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے کیونکہ یہ اخوت انسانیت کا علم بردار ہے۔ اس میں آسانی ہے تنگی نہیں۔ یہ بات چیت اور انہام و تفہیم کا قائل و فاعل ہے۔ یہ عقل کو مخاطب کرتا ہے، علم و عقل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور دوسرے کی بات بھی سنتا ہے۔

اسلام تمام مذاہب کی جگہ سنبھالنے والا ہے اس کا انداز تبلیغ بہت دلکش اور لطیف ہے اس کی سوچ صاف ستھری ہے یہ معروضی حقائق تسلیم کرتا ہے باتوں سے زیادہ عمل کا قائل ہے زندگی کے حقائق کا سامنا کرتا ہے۔ غرض ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے۔

میں نے طلبہ سے کہا: ”امید ہے تم جان چکے ہو گے کہ ہم سیرت النبی کی تدریس میں کس شخصیت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں؟ اور تمہیں اس شخصیت کی عظمت اور اہمیت معلوم ہو چکی ہوگی نیز آپ حضرات نبی کریم ﷺ پر نازل ہونے والے پیغام کے امتیازات بھی سمجھ چکے ہو گے۔“

چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک خوب صورت خیال ذہن میں آیا کہ میں سیرت کی تحریر شدہ کتابوں سے ایک سیرت مرتب کروں جس کی وضاحت نقوش کی مدد سے کی جائے۔ ان نقوش میں تمام متعلقہ مقامات، شہروں اور ان اطراف و اکناف کی تفصیل ہو جن کو آپ ﷺ نے اپنی تشریف فرمائی سے رونق بخشی یا جن کی طرف آپ نے قصد سفر فرمایا۔ اس سیرت کی ابتدا آپ ﷺ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوگی پھر آپ کی پیدائش، بعثت سے پہلے کے واقعات، بعثت کے بعد کے واقعات، ہجرت اور آپ کی وفات کی تفصیل ہوگی۔

یہ اٹلس صرف سیرت کی ایک کتاب ہی نہیں بلکہ یہ مختلف نقشے اور تصاویر ہیں جو آپ کی سیرت طیبہ کو محیط ہیں۔ اگر مجھ سے پہلے کسی نے ایسا کام کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل فرمائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کسی شخص نے

سیرت طیبہ کو اس طرح نقوش کی مدد سے اول تا آخر پیش نہیں کیا۔ میں نے مختلف مقامات پر مختصر نوٹ بھی تحریر کیے ہیں جن سے ضروری وضاحت مقصود ہے یا ان میں کوئی نئی تحقیق پیش کی گئی ہے۔ یہ اٹلس اسلامی اٹلسوں کے سلسلہ کی چوتھی پیش کش ہے جو یکے بعد دیگرے پیش کیے گئے ہیں۔ دوسرے اٹلس اسلامی عرب تاریخ کا اٹلس، اسلام کی حکومتوں کا اٹلس اور قرآن کا اٹلس ہیں۔ ہر کام کے اول و آخر میں تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ بہترین مددگار اور بہترین کارساز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیش کش کو لوگوں کے لیے مفید بنائے۔ وہی نیتوں کو پورا کرنے والا ہے۔

ڈاکٹر شوقی ابو خلیل

دمشق۔ شام

یکم محرم الحرام 1423ھ

14 مارچ 2002ء

جزیرہ نمائے عرب

شبه جزیرۃ العرب (جزیرہ نمائے عرب) اسلامی تحریک کا ابتدائی مرکز رہا ہے۔ قدیم زمانہ سے عربوں کا وطن ہے۔ یہ براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کو تین سمندروں نے گھیر رکھا ہے۔ مغرب میں بحیرہ قلزم، جنوب میں بحیرہ عرب اور خلیج عدن، مشرق میں خلیج عربی (خلیج فارس) اور خلیج عمان اور شمال میں شام کا صحراء ہے۔ علمائے جغرافیہ نے طبعی لحاظ سے جزیرہ نمائے عرب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے:

۱- تہامہ: یہ وہ ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ احمر (بحیرہ قلزم) کے ساتھ ساتھ شمال میں بیخ سے لے کر جنوب میں نجران تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے کو سخت گرمی اور جس کی وجہ سے ”تہامہ“ کہا جاتا ہے۔ تہامہ (التہام) سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی سخت گرمی اور جھس ہے۔

۲- کوہستان سراة: یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جزیرہ نمائے عرب کے مغرب میں اور تہامہ کے نشیبی علاقے کے مشرق میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی وادیاں ہیں۔ یہ سلسلہ خلیج عقبہ سے یمن تک وسیع ہے۔ شمال میں اسے مدین کے پہاڑ، جنوب میں عسیر کے پہاڑ اور درمیان میں حجاز کہا جاتا ہے جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں۔ اس علاقے کو حجاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تہامہ اور نجد کے درمیان حائل ہے۔ (حجر کا لغوی معنی رکاوٹ ہے۔) ۳- سطح مرتفع نجد: یہ یمن اور جنوبی عراق کے درمیانی علاقے کا نام ہے۔ اس کے مشرق میں علاقہ عروض ہے۔ اس علاقے کو نجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سطح سمندر سے کافی بلند ہے۔ (نجد کا لغوی معنی بلندی ہے۔)

۴- یمن: جزیرہ نمائے عرب کے انتہائی جنوب مغرب میں پہاڑی علاقہ ہے جو مشرق میں حضرموت، مہرہ اور عمان سے ملا ہوا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کی سب سے اونچی چوٹی یہیں پائی جاتی ہے جو صنعاء کے جنوب مغرب میں 3750 میٹر بلند ہے۔

۵- عروض: یہ یمامہ، عمان اور بحرین پر مشتمل ہے۔ اس علاقہ کو ”عروض“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یمن اور نجد کے سامنے (مشرق میں) واقع ہے۔


عرب کے شمالی علاقوں میں بارشیں سردیوں میں ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت کم۔ یمن، عسیر اور عمان میں موسم گرما کی موسمی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں حتیٰ کہ یمن اور عسیر کے بعض علاقوں میں بارش کی مقدار 500 ملی میٹر تک پہنچ جاتی ہے البتہ عمان میں اس سے کم بارش ہوتی ہے۔ خط سرطان جزیرہ نمائے عرب کو خط استواء کے شمالی جانب 23.5 درجہ عرض بلد پر کاٹتا ہے اس لیے اس کے اکثر علاقوں میں عموماً گرمی ہوتی ہے، خصوصاً موسم گرما میں تو اچھا کو پہنچ جاتی ہے۔ جزیرہ نمائے عرب میں آج کل سات حکومتیں قائم ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے ان کی ترتیب یوں ہے:

ملک	رقبہ	دارالحکومت
مملکت سعودی عرب	2,248,000 مربع کلومیٹر	ریاض
جمہوریہ یمن	472,099 " " "	صنعا
سلطنت عمان	306,000 " " "	مسقط
متحدہ عرب امارات	83,000 " " "	ابوظہبی
کویت	17,818 " " "	کویت
قطر	11,437 " " "	دوحہ
بحرین	694 " " "	منامہ

اس طرح جزیرہ نمائے عرب کا مجموعی رقبہ 3,139,048 مربع کلومیٹر بنتا ہے



تجزیرہ نمائے عرب کی موجودہ سیاسی تقسیم اور ہمسایہ ممالک



0 300
0 200

1967ء تک رقبہ (مربع میل)

1949ء تک رقبہ

امارات متحدہ عربہ

کویت عربہ

بحرین عربہ

عمان عربہ



دارالحکومت



شہر



پاکستان فضائی قوت



تفصیلی پیمائش



شہر



ریاست

جزیرہ نمائے عرب اور اس کے مضافات

جزیرہ نمائے عرب: خشکی جس کے تین طرف سمندر ہو جزیرہ نما کہلاتی ہے چنانچہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں بحیرہ احمر (بحیرہ قلزم) واقع ہیں جبکہ چوتھی جانب یعنی شمال میں عراق اور اردن ہیں۔ اہل جغرافیہ کے مطابق لفظ عرب دراصل ”عربہ“ تھا جس کے معنی صحراء اور بادیہ (جنگل) کے ہیں چنانچہ عربی میں اہل بادیہ کو اعراب کہتے ہیں اور عربہ کے معنی بدویت کے ہیں۔

البحرین: سعودی عرب کا مشرقی ساحل عہد نبوی میں البحرین کہلاتا تھا جس میں موجودہ جزائر بحرین اور قطر بھی شامل تھے۔ اس کا دار الحکومت دارین تھا جو موجودہ ظہران کے جنوب میں ساحل پر واقع تھا۔ ان دنوں امارت بحرین، خلیج عربی (خلیج فارس) کے اندر سعودی عرب اور قطر کے مابین واقع جزائر کا مجموعہ ہے جس کا دار الحکومت منامہ ہے۔ عہد نبوی میں البحرین کے حکمران کو نبی کریم ﷺ نے دعوت اسلام دی تھی۔ آج کل سعودی عرب میں واقع بحرین کا علاقہ الاحساء کہلاتا ہے۔

بحیرہ احمر (Red sea): براعظم افریقہ اور جزیرہ نمائے عرب کے مابین واقع اس سمندر کو بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں۔ اس کے مشرق میں سعودی عرب اور یمن اور مغرب میں مصر، سودان اور اریتریا واقع ہیں۔ اریتریا اور سودان سے متصل ایتھوپیا (حبشہ) کا ملک ہے۔ ماضی قدیم اور حال میں 1993ء تک اریتریا حبشہ میں شامل رہا ہے۔

بحیرہ روم: یورپ، ایشیا اور افریقہ کے مابین واقع یہ سمندر بحیرہ ایض بھی کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے Mediterranean Sea (عربی میں البحر المتوسط) کہتے ہیں۔ اس کے مشرقی ساحل پر شام، لبنان اور فلسطین واقع ہیں جبکہ صہیونی یہودیوں نے فلسطین کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل کا نام دے رکھا ہے۔

بحیرہ عرب: اس کے شمال میں یمن، عمان اور پاکستان واقع ہیں۔ مشرق میں بھارت اور مغرب میں ساحل افریقہ (صومالیہ وغیرہ) ہے۔ اس کے شمال مشرق میں خلیج عمان اور شمال مغرب میں خلیج عدن واقع ہیں۔ خلیج عمان، آبنائے ہرمز کے ذریعے خلیج فارس سے متصل ہے اور آبنائے باب المندب خلیج عدن کو بحیرہ احمر سے ملاتی ہے۔

صحرائے شام: ماضی میں بادیہ شام (صحرائے شام) ملک شام میں شامل تھا مگر آج کل یہ جغرافیائی طور پر مغربی عراق، جنوب مشرقی شام اور شمال مشرقی اردن پر محیط ہے۔

شام: ماضی کا وسیع تر بلاد الشام یا شام ان دنوں محدود ہے اور عربی میں السوریا اور انگریزی میں Syria کہلاتا ہے جس کا دار الحکومت دمشق ہے۔ اردو میں اسے اب بھی شام کہتے ہیں۔

ربع الحالی اور حضر موت: نباتات اور انسانی آبادیوں سے خالی یہ صحرائی علاقہ جزیرہ نمائے عرب کے ایک چوتھائی حصے

(ربیع) پر مشتمل ہے۔ اس کے جنوب میں حضرموت ہے۔ ربیع الخالی سعودی عرب میں شامل ہے جبکہ حضرموت، یمن کا علاقہ ہے اور ماؤت بن قحطان سے منسوب ہے اس کے معنی ہیں ماؤت یا موت کا شہر۔ یہیں قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے۔

حبشہ یا حبشہ (ایتھوپیا): یہ سودان کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ ماضی میں یہ بحیرہ احمر کے ساحل تک پھیلا ہوا تھا لیکن آج کل اریتریا، جبوتی اور صومالیہ اسے بحیرہ احمر اور خلیج عدن سے جدا کرتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں حبشہ کا دار الحکومت اسکوم تھا مگر آج کل ادیس ابابا صدر مقام ہے۔ ”حبشہ“ ہی کی گجڑی ہوئی شکل ”ابلی سینیا“ ہے۔ دوسری جنگ عظیم (1939-45ء) تک اسے ابلی سینیا کہا جاتا تھا مگر ان دنوں یہ ایتھوپیا کہلاتا ہے۔

ایشیائے کوچک: اناطولیہ یا ایشیائے کوچک (Asia Minor) کو آج کل ایشیائی ترکی کہتے ہیں کیونکہ ترکی کا تھوڑا سا علاقہ یورپ میں بھی ہے جس میں قدیم رومی سلطنت کا دار الحکومت قسطنطنیہ واقع ہے جسے عثمانی ترکوں نے 1453ء میں فتح کر کے اسلامبول (اسلام کا قلعہ) کا نام دیا جو پونے پانچ صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت رہا اور ان دنوں وہ استنبول کہلاتا ہے۔ عثمانیوں سے پہلے ایشیائے کوچک کا بڑا حصہ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے جنگ ملازکرد (1071ء) میں رومی شہنشاہ دیوجانوس رومانوس کو شکست دے کر اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔

قبرص (سائپرس): بحیرہ روم کا یہ جزیرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ مختلف ادوار میں یہ رومیوں، عثمانیوں اور آخر میں برطانویوں کے قبضے میں رہا۔ 1961ء میں اسے آزادی ملی۔ 1974ء سے ایک تہائی شمالی قبرص جہاں ترک مسلمان بستے ہیں ترکی کی فوج کے زیر حفاظت ایک آزاد جمہوریہ ہے۔ بقیہ قبرص یونانی نژاد عیسائیوں کے تسلط میں ہے۔

یونان: اسے انگریزی میں Greece (گریس) کہتے ہیں۔ یورپ کا یہ ملک ایک جزیرہ نما اور بہت سے چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ آئیونیا (Ionia) کہلاتا تھا جس کی نسبت سے عرب پورے ملک کو یونان کہنے لگے۔ اس کے دو بڑے جزیرے کریٹ (آفریطس) اور رودس صدیوں تک عرب مسلمانوں اور عثمانیوں کے قبضے میں رہے۔

سیناء: یہ ایک جزیرہ نما ہے جو مصر میں شامل ہے۔ اسکے جنوب مغربی حصے میں کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اسکے مشرق میں خلیج عقبہ، مغرب میں خلیج سوز اور جنوب میں بحیرہ احمر (قلزم) واقع ہیں اس لیے اسے جزیرہ نما کہتے ہیں۔

یمن: جزیرہ نمائے عرب کا جنوب مغربی حصہ قبل مسیح کے زمانے میں اور اس کے بعد سبھا کہلاتا تھا اور عہد نبوی میں اسے یمن کہتے تھے اور یہی نام آج تک معروف ہے۔ یمن کے شمال میں بحر ان اور عسیر (سعودی عرب کے صوبے) ہیں۔ شمال مشرق میں ربیع الخالی ہے۔ مشرق میں عمان، جنوب میں بحیرہ عرب اور خلیج عدن اور مغرب میں بحیرہ احمر (قلزم) واقع ہیں۔ صنعاء دار الحکومت ہے اور عدن، حدیدہ، مخا اور مگلا بندرگاہیں ہیں۔ یمن کا مشرقی حصہ حضرموت کہلاتا ہے۔ تیسری دور (115 ق م تا 525ء) میں ”مارب“ قوم سبا کا دار الحکومت تھا۔ حمیریوں نے وادی شیوان (مشرقی یمن) میں سدہ مارب (قرآن میں انحر) تعمیر کیا تھا جس کے آثار یورپی مہم جوہالوے نے 1875ء میں دریافت کیے۔

المجد فی الاعلام میں لکھا ہے: ”سعودی مملکت کا صوبہ حجاز نجد کے مغرب میں بحیرہ احمر پر واقع ہے۔ یہ شمال میں خلیج عقبہ سے لے کر جنوب میں (صوبہ) عسیر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 4 لاکھ مربع کلومیٹر اور آبادی 30 لاکھ ہے۔ اس کا صدر مقام مکہ ہے اور مدینہ طائف، تبوک اور جدہ بڑے شہر ہیں۔“

جدہ اور بنیخ، حجاز کی بڑی بندرگاہیں ہیں۔ ”حجاز کی چھوٹی بندرگاہوں میں خلیج عقبہ پر واقع ہل اور مقنا ہیں اور بحیرہ احمر کے ساحل پر یوملح، ضبا، الوجہ اور ام لج۔۔۔۔۔ مدینے سے نجد جانے والا بڑا راستہ نخلستان حنا کیہ کے بعد دو شاخوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک شاخ (مرک) مشرق کی سمت میں القصیم کو چلی جاتی ہے اور دوسری حائل کو۔ مکہ مکرمہ سے مشرق کو جانے والا راستہ السیل الکبیر، قاعیہ اور وادی سے گزرتے ہوئے الریاض کو جاتا ہے۔۔۔۔۔ مدینہ کو دمشق سے ملانے والی حجاز ریلوے لائن کو پہلی عالمگیر جنگ میں نقصان پہنچا تھا۔

حجاز کے اندر مکہ مکرمہ اور طائف کے نواح میں چار قدیم قبیلے اب تک موجود ہیں: بنو ذیل، بنو ثقیف، بنو فہر اور بنو سعد بن بکر۔ نبی ﷺ یحییٰ میں بنو سعد کی دائی حلیمہ بنت خدیجہ کی گمرانی میں رہے۔ ادھر بنو یحییٰ اور بنو نجیدہ کے مرکز علی الترتیب الیہ اور بنو غایض ہیں۔ قریش مکہ میں صرف بنو شیبہ ہیں جو کعبہ کے موروثی متولی ہیں۔ دیگر قبائل سب منتشر ہو چکے ہیں۔ تاریخ میں حجاز کی خود مختار سلطنت کا سرکاری نام صرف دس برس سے کم عرصے کے لیے رہا یعنی شاہ احسین بن علی کے عہد حکومت (1334 تا 1343ھ) میں۔ 1344ھ/1925ء سے پورا حجاز سعودی مملکت میں شامل ہے۔“

(اروودائرہ معارف اسلامیہ جلد 7)

یاد رہے شریف مکہ حسین بن علی ہاشمی نے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا اور حجاز میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا تھا۔


بیچتا ہے ہاشمی ناموس و سن مصطفیٰ

خاک و خوں میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش

”شہابی حجاز میں“ ماہِ اَن صالِح کا قدیم نام الحَجَر ہے۔ یہیں آج سے چھ ہزار سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم

شہود آباد تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بناتی تھی۔..... مدائن صالح، مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے کا سب سے بڑا اسٹیشن تھا جس کی سب سے بڑی عمارت اب تک جوں کی توں موجود ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک پرانا ترکہ قلعہ ہے۔ اس کے اندر ایک پرانا کنواں ہے جو اب خشک پڑا ہے۔ مقامی لوگوں کے بقول اسی کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔
(سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ ”سفر نامہ ارض القرآن“)
ان دنوں حجاز تین صوبوں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور تبوک میں بٹا ہوا ہے۔





بحر اے نخود ہری

الربع الخالی: ریگستان جو جزیرہ نمائے عرب کے ایک چوتھائی حصے پر پھیلا ہوا ہے



دعائے غریب (مسجد غریب) میں شیخ کا داد کا خیمہ پاکستان




دعائے غریب (جوان) میں اسی طرح کے خیموں کے آگے (دائیں جانب)





↑ سعودی عرب کی جنوب مغربی سطح مرتفع

↓ حجاز کے جنوب میں الباحہ کے پہاڑی سلسلے کی گزرگاہیں



نبی اکرم ﷺ کے جد امجد ابوالانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق میں پیدا ہوئے اور کلدانی شہر ”اور“ میں رہائش پذیر رہے۔ ان کے والد کا نام آزر بن ناحور تھا۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ دراصل یہ آپ کا چچا تھا۔ عربی لوگ چچا کو باپ کہہ دیتے ہیں۔ یہ کوفہ کے مضافاتی علاقے کی ایک بستی کوئی کے رہنے والے تھے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کوئی بابل یا وراء میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ کوئی میں پیش آیا۔ جب حکومت اس میں ناکام ہو گئی تو آپ الجزیرہ کے شمال میں واقع شہر حران تشریف لے گئے اس کے بعد فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہؑ بھی تھیں۔ اور ان کی بیوی بھی تھی۔ اس علاقہ میں قبط پڑا تو آپ شاہان میکسوس (چرواہے بادشاہوں) کے زمانہ میں مصر چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ واپس جنوبی فلسطین آ گئے۔ پھر اتفاق رائے سے دونوں الگ الگ رہنے لگے تاکہ ہر ایک کو اپنے جانوروں کے لیے وافر گھاس اور پانی مل سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام بحیرہ مردار کے جنوب میں رہنے لگے۔ بحیرہ مردار کو بحیرہ لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بصریہ کے مقام پر فروکش ہو گئے۔ کافی عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اس ”بے آب و گیاہ وادی“ میں چھوڑ کر واپس فلسطین آ گئے۔ مکہ میں زم زم کا چشمہ جاری ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ پھر کداء کے راستہ سے وہاں بنو خزیمہ آ کر آباد ہو گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین ہی میں فوت ہوئے اور الخلیل (حبرون) میں مدفون ہوئے۔ بعض مؤرخین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو عرب مستعربہ یا عرب متعربہ قرار دیا ہے۔ یہ عدنانی ہیں۔ انہوں نے ان کو متعربہ یا مستعربہ اس لیے قرار دیا کہ ان کی رائے کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام سریانی یا عبرانی زبان بولتے تھے۔ جب قحطانی نسل کے بنو جرہم مکہ مکرمہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے لگے تو حضرت اسماعیل کی شادی ان میں ہو گئی۔ اس طرح آپ اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سیکھ لی۔ گویا وہ اصل عرب نہ تھے بلکہ بعد میں عربی بنے لہذا انہوں نے آپ کو عرب مستعربہ قرار دیا ہے۔ عربوں کی اکثریت انہی میں سے ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے وسط میں یا حجاز کے علاقوں میں صحرائے شام تک رہتے ہیں البتہ آخر میں ”مأرب“ کا بند ٹوٹنے کے بعد یعنی عرب بھی انہی کے علاقوں میں رہنے لگے۔ لیکن یہ ”عرب مستعربہ یا متعربہ“ والی بات ایک داستان اور کہانی ہے جسے بعض مؤرخین نے بیان کر دیا اور یہ بات رواج پا گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور خالص عربی دور تھا۔ اس کا سریان اور یہود

کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں اور علمی طور پر وہ دور قوم ابراہیم، قوم یعقوب (اسرائیل)، قوم موسیٰ، یہودیوں اور عبرانیوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔^①

586 ق م میں جب بخت نصر یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا اور یہودیوں نے اپنی کتاب تورات کو دوبارہ مدون کیا تو ان کے بنیادی مقاصد دو تھے:

⑤ اپنی تاریخ کو عظیم الشان ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو تمام انسانی نسلوں میں سے برتر اور اعلیٰ ثابت کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے بھی سب قوموں میں سے منتخب قرار دے کر پسند فرمایا ہو۔ ظاہر ہے یہ مقصد بھی پورا ہو سکتا تھا جب وہ اپنے آپ کو کسی عظیم الشان قدیم شخصیت کی طرف منسوب کریں، جن کی شہرت اپنے دور اور مابعد میں چہار دانگ عالم میں پھیل چکی ہو۔ یہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس لیے یہودیوں نے بڑی چالاکی اور مہارت کے ساتھ تاریخ کو اپنے دل پسند مقاصد کے مطابق مدون کیا اور اس کو مذہبی رنگ بھی دے دیا تاکہ لوگ آسانی سے اسے قبول کر سکیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی تاریخ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جوڑ دیا اور قوم موسیٰ کو بنی اسرائیل کا نام دے دیا، حالانکہ یہ لوگ حضرت اسرائیل (یعقوب) علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال بعد ظہور پذیر ہوئے۔

⑥ ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ فلسطین کو اپنا اصل وطن ظاہر کریں حالانکہ تورات میں یہ بات صراحت اور تاکید کے ساتھ مذکور ہے کہ علاقہ فلسطین حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے، جو حوٰن میں پیدا ہوئے اور وہیں پھلے پھولے ان کے لیے یہ اجنبی علاقہ تھا۔

دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آرمی عربی قبائل کی طرف منسوب ہیں اور یہ قبائل تو اسرائیلیوں، موسویوں اور یہودیوں سے کئی صدیاں قبل کے تھے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور خالص اور مستقل عربی دور تھا جس کا دور یہود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس طرف واضح اشارہ فرمایا ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَاِلَّا نَجْمِلُ لَآءٍ مِنْۢ بَعْدِ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ ۙ هَآءِنتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَّجْتُكُمْ فِیْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِیْمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ۙ مَا كَانَ لِاِبْرٰهِيْمَ یَهُودِیًّا وَلَا نَصْرَانِیًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ ۙ ﴿٤٠﴾

”اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جبکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تم عجیب لوگ ہو کہ ان چیزوں کے بارے میں تو جھگڑتے ہی ہو جن کا تمہیں علم ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جانتا

① مفصل العرب والیہود فی التاریخ، ص: 86 وما بعد۔ اٹلس القرآن، ص: 41 وما بعد

نبی اکرم ﷺ کے جدا امجد ابوالانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام

ہے اور تم نہیں جانتے۔ سن لو! ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔“

(آل عمران: 3/65'66'67)


لہذا حضرت محمد بن عبداللہ ﷺ کا نسب ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ خالص مسلمان تھے۔



از آنجا که

ابو العزیز - خلیل الرحمن

قریباً 1800 سال



حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت

عراق: یہ ملک ایران، ترکی، شام، اردن، سعودی عرب اور کویت کے درمیان واقع ہے۔ اسے عراق کا نام دیا گیا کیونکہ یہ دجلہ اور فرات کے کناروں پر آباد ہے۔ اس کے جنوب میں خلیج فارس ہے۔

بابل: قدیم عراق میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر بابل کا شہر واقع تھا۔ ان دنوں الجبلہ نامی شہر کے شمال میں بابل کے کھنڈر موجود ہیں۔ 586 ق م میں بابل میں بخت نصر حکمران تھا جس نے پہلی باریکل سلیمانی (بیت المقدس) مسمار کیا تھا۔

دجلہ: یہ دریا مشرقی ترکی کے پہاڑوں سے نکل کر جنوب کو بہتا ہوا عراق میں داخل ہونے سے پہلے کچھ دور تک ترکی اور ملک شام کی سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پھر شمالی اور مشرقی عراق میں سے گزرتا ہے۔ عراقی کردستان میں دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر موصل کا شہر ہے اور اس کے بالمقابل مشرق میں قدیم تاریخی شہر نینوہ (نینوی) کے کھنڈر ملتے ہیں۔

خلافت عباسیہ کا صدر مقام اور موجودہ عراق کا دارالحکومت بغداد دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ القرنہ کے مقام پر دجلہ اور فرات ملتے ہیں اور دونوں کے ملاپ سے شط العرب بنتا ہے جو عراق ایران سرحد بناتا ہوا فاد کے قریب خلیج فارس میں گرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین کی جائے پیدائش تکریت، معتمم باللہ کا دارالخلافہ سامراء، ساسانی دارالحکومت مدائن (سلمان پاک) کوٹ اور العمارة دجلہ کے کنارے واقع ہیں۔ بصرہ شط العرب کے جنوب میں ہے۔

فرات: یہ دریا شمال مشرقی ترکی میں ارارات کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف بہتا ہے۔ پھر جنوب کا رخ اختیار کر کے شام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے وسط میں سے گزرتا ہوا قصبہ ابوکمال کے آگے عراق میں داخل ہوتا ہے اور پھر جنوب مشرق کو بہتا ہے۔ حدیث 'رمادی'، 'فلوجہ'، 'مسیب'، 'عباسیوں کا پہلا دارالحکومت ہاشمیہ (انبار)'، 'کوفہ السماوہ اور

الناصریہ دریائے فرات کے کنارے واقع ہیں۔ نجف، کوفہ کے جنوب میں دریا سے ہٹ کر ہے اور کربلا مزید شمال میں فرات سے چالیس پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، البتہ وادی الابیض نامی سیلابی ندی اس کے نزدیک سے گزرتی ہے۔

الجزیرہ: دو ابہ دجلہ و فرات (میسوپوٹیمیا) کا شمالی حصہ الجزیرہ کہلاتا ہے جبکہ جنوبی حصے کو السواد کہا جاتا ہے۔ الجزیرہ اب شام، عراق اور ترکی میں بٹا ہوا ہے۔

حاران: ماضی میں حران یا حاران، ملک شام کی حدود میں تھا، آج کل یہ جنوبی ترکی میں دریائے فرات کی معاون ندی خلیج کے کنارے پر واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سے ہجرت کر کے بابل کے راستے حران گئے تھے۔

حلب: شمالی شام کا یہ شہر انگریزی میں Aleppo کہلاتا ہے۔ حلب سے دمشق آنے والی شاہراہ پر حماة اور حمص کے تاریخی شہر واقع ہیں۔ حران سے فلسطین پہنچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔

المقدس : اسے بیت المقدس اور یروشلم (Jerusalem) بھی کہتے ہیں۔ رومیوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس مقدس شہر میں مسجد اقصیٰ، قبۃ الصخرہ اور یہودیوں کے بقول یسکلی سلیمانی کی ایک دیوار کے آثار ہیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ جون 1967ء سے اس پر اسرائیلی قابض ہیں۔ مدین: سعودی عرب کا وہ ساحلی علاقہ جو بحیرہ قلزم اور خلیج عقبہ سے متصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین یا مدیان سے منسوب ہے۔ یہیں اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی مبعوث کیا گیا تھا۔

ایسہ: خلیج عقبہ کی بندرگاہ عقبہ (اردن) کے مغرب میں ایسہ بنی اسرائیل کا تاریخی شہر ہے جہاں نافرمان یہودیوں کے بندر بن جانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آج کل اسے ایلات کہتے ہیں اور یہ خلیج عقبہ کے ساحل پر واحد بندرگاہ ہے جو اسرائیل کے تسلط میں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفری مقامات کے فاصلے

اور سے بابل	225 کلومیٹر تقریباً
بابل سے حران	900 کلومیٹر تقریباً
حران سے حلب	300 کلومیٹر تقریباً
حلب سے القدس	600 کلومیٹر تقریباً
القدس سے الخلیل	35 کلومیٹر تقریباً
الخلیل سے مصر	500 کلومیٹر تقریباً
الخلیل سے مکہ المکرمہ	1450 کلومیٹر تقریباً

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کوئی تھی؟ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش جنوبی عراق کا شہر اور تھا جبکہ درست بات یہ ہے کہ آپ کی جائے پیدائش بابل کے شمال مشرق میں واقع سکوفسی نامی قصبہ تھا، البتہ آگ سے صحیح سلامت نچ نکلنے کے بعد آپ اور چلے آئے تھے اور وہیں سے حران اور پھر فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ بعض ان کی جائے پیدائش بابل یا الور کا قرار دیتے ہیں جبکہ قصص القرآن میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر فدان آرام میں پیدا ہوئے تھے۔ اور معجم البلدان میں لکھا ہے: ”فدان آرام الجزیرہ (شمالی میسوپوٹیمیا) میں حران کے نواح میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ یہاں پیدا ہوئے۔ اور صحیح تر یہ ہے کہ ان کی جائے پیدائش بابل کی سرزمین میں ہے۔“

سکوفسی: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کوئی بابل کے شمال مشرق میں تھا۔ بابل سے اس کا فاصلہ تقریباً 40 کلومیٹر بنتا ہے۔ معجم البلدان میں کوئی کے ذیل میں لکھا ہے: ”یہ نہر کوئی کے کنارے واقع تھا جو بنو ارفخشذ بن سام بن نوح میں کوئی نامی شخص سے موسوم تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بونا بنت کرنا بن کوئی کے دادا تھے۔ نہر کوئی فرات سے نکالی گئی پہلی نہر تھی۔ مشہور تابعی حضرت عبیدہ سلمانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”ہم کوئی کے بطنی ہیں۔“ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول مروی ہے کہ ”ہم خاندان قریش، بطن کوئی کی ایک شاخ ہیں۔“ اس سے ان

کی مراد یہ تھی کہ قریش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو کوئی کے غلطی تھے۔ عہد فاروقی میں فتح قادسیہ کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حکم پر زہرہ بن جوہر نے کوئی کے تاریخی شہر پر حملہ کیا اور وہاں کے حاکم شہر یار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ مقامی روایت کے مطابق یہ وہی جگہ تھی جہاں عمرو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بابل سے کوئی جا کر اس کی زیارت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اور پھر یہ آیت پڑھی:

﴿وَبَلِّغْ الْأَبْرَارَ نُبًّا وَلَهُمَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

”ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان اولتے بدلتے رہتے ہیں۔“

اُور: بابل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق کے شہر ”اُور“ میں پیدا ہوئے تھے اور پھر وہیں سے آپ نے 7 ان کی طرف ہجرت کی تھی۔ دریائے فرات کے دائیں کنارے پر واقع ”اُور“ عراق کا ایک قدیم ترین شہر تھا جسے چوتھی ہزاری ق م (4000 B.C.) میں سُمیری قوم نے آباد کیا تھا۔ تیسری ہزاری میں یہ شہر اپنے عروج کو پہنچا۔ 2000 ق م کے لگ بھگ خوزستان (فارس) کے علما میوں نے اسے بڑی حد تک تباہ کر دیا۔ سترھویں صدی ق م میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے۔ کلدانی بادشاہوں کے عہد (626 ق م تا 539 ق م) میں ”اُور“ نے ایک بار پھر شہرت حاصل کی تھی کہ ایرانی شہنشاہ کوروش کبیر (خوسرئوس اعظم یا ذوالقرنین) نے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اُور بتدریج زوال کی نذر ہو گیا۔ (آکسفورڈ انگلش ریفرنس ڈکشنری) کلدانی حکمرانوں کی نسبت سے اسے ”اُور کلدانیہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ انگریز محقق لیونارڈ وولے نے 1922-34ء میں ”اُور“ کے کھنڈر دریافت کیے جو انصاریہ شہر کے بالمقابل دریائے فرات کے جنوب میں تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ بابل سے ”اُور“ تقریباً 225 کلومیٹر جنوب میں ہے۔

”اُور“ ان دنوں قُلُ الْمَقْبَرِ کہلاتا ہے۔ (المجد فی الاعلام)

الخلیل: الخلیل یا حمرون غرب اردن (مغربی کنارہ) کے علاقے میں ہے جس پر غاصب اسرائیلیوں نے جون 1967ء کی جنگ سے قبضہ کر رکھا ہے۔ 1993ء کی ابتدا میں ایک جنوبی یہودی نے الخلیل کی مسجد ابراہیمی میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے 67 مسلمان شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے تھے۔ الخلیل کی آبادی 75 ہزار سے زیادہ ہے۔ الخلیل کو حمری اور مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ یہ جبل نصرة کی سطح مرتفع کے درمیان ایک نہایت زرخیز وادی میں واقع ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 8)

الخلیل بیت المقدس سے 35 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ یہ اس وقت بھی آباد تھا جب تقریباً چار ہزار برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تھے اور انہی کے لقب سے الخلیل موسوم ہے۔ یہاں ایک غار (مغارہ ملکیلہ) میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی اسی غار میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق ان انبیائے کرام کی قبروں پر قبہ نما چھت بنادی۔ حضرت سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام، رقبہ زوجہ اسحاق علیہ السلام اور ایلیا زوجہ یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی اسی غار کے اندر ہیں۔ تورات کے مطابق حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صوحار الحیتی سے زمین کا ایک ٹکڑا چار سو نفرتی درہموں میں خریدا تھا اور اس میں حضرت سارہ کو دفن کیا تھا۔ 513ھ میں صلیبی بادشاہ بردویل کے عہد میں اس جگہ زمین دھنس گئی تھی اور فرنگیوں کی ایک جماعت بادشاہ کی اجازت سے غار میں داخل ہوئی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو اس حالت میں پایا کہ ان کے کفن بوسیدہ ہو چکے تھے وہ غار کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان کے سروں پر قدیم یلیس تھیں اور سر کھلے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے انہیں نئے کفن پہنائے اور پھر اس جگہ کو بند کر دیا۔

(معجم البلدان، جلد 2، از یاقوت حموی بذیل ”حمر ون“ اور ”خلیل“)




الخليل (فلسطين) کی مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک منارہ






سید مختار علی شاہ (رحمہ اللہ)
www.KitaboSunnat.com

کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ



ان کی ماں ام المومنین خدیجہ بنت خویلد تھیں

بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان



نبی کریم ﷺ کے اجداد

حضرت محمد ﷺ کا سلسلہ نسب عبد اللہ سے عدنان تک معلوم اور مستند ہے مگر عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اس میں مختلف آراء ہیں۔ اس سلسلے میں نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عدنان تک چالیس پستیں بیان کی جاتی ہیں۔ عدنان سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک سلسلہ نسب کی شخصیتوں کے مختصر احوال درج ذیل ہیں:

عدنان: یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبہ کو چڑے کا غلاف پہنایا۔ عدنان، عدن (قیام کرنا) سے ماخوذ ہے، یوں عدنان کے معنی ہوئے ”قیام کرنے والا“۔ یہ چھٹی صدی قبل مسیح میں بخت نصر کے ہم عصر تھے۔

معد: اس نام کے معنی ”طاقتور“ کے ہیں۔ بخت نصر کے دور میں ان کی عمر 12 سال تھی۔ بخت نصر نے جب عرب پر حملہ کیا تو اس نے معد کو قتل کرنا چاہا مگر اس کے لشکر میں شامل ایک نبی کے یہ کہنے پر چھوڑ دیا کہ ”اس کی اولاد میں نبوت ہوگی۔“

نزار: معنی ہیں ”یگانہ روزگار“۔ ان کی پیدائش کے وقت معد نے ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی اس لیے انہیں یہ نام دیا۔

مضر: جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا۔ ان کے سفید رنگ کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا جو کہ مضیرہ سے ماخوذ ہے اور ”مضیرہ“ کے معنی ہیں ”سفید دودھ“۔

الیاس: معنی ہیں ”شجاع“۔ جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے بنو اسماعیل کو دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر کاربند کیا۔ اہل عرب ان کی حکمت و دانائی کی تعریف کرتے تھے۔

مضر کہ: بلاذری اور شاطبی کے بقول ان کا اصل نام عمرو تھا۔ مضر کہ کے معنی ہیں ”پالینے والا“۔ ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کر بھاگے ہوئے گمشدہ اونٹ پال لیے تھے۔

خزیمہ: یہ ”خزیمہ“ کی تصویر ہے جس کے معنی ہیں کھجور کی طرح کا درخت جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ خزیمہ اعلیٰ اخلاق والے تھے اور ملت ابراہیمی پر فطرت ہوئے۔

کنانہ: اس کے معنی ہیں ”ترکش“ اور کنانہ ترکش کی طرح اپنی قوم کے لیے پردہ اور مامن تھے۔ یہ بہت معزز اور علم و فضل والے تھے جس کی وجہ سے اہل عرب ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان سے خواب میں پوچھا گیا کہ جاہ و شہرت، تعمیرات اور مال و متاع میں سے کون سی چیز چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ”تمام چیزیں اے رب!“ یوں یہ تمام اوصاف قریش کو ودیعت ہوئے۔

نَضْر: ان کے چہرے کی نصرت (تروتازگی) اور خوبصورتی کے باعث ان کا یہ نام پڑا۔ ایک قول کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا۔

مَالِک: ان کی کنیت ابو حارث اور ان کی والدہ عاتکہ تھیں۔ ان کا مشہور قول ہے: ”اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت چہرے اپنے بیویوں کو چھپا لیتے ہیں۔ جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔“

فِہْر: معنی ہیں ”بتحقیق کے برابر پتھر۔“ ان کی کنیت ابو غالب تھی۔ ایک قول کے مطابق فہر ہی کا لقب قریش تھا۔ قرش ایک سمندری حیوان (غالباً وھیل) کا نام ہے جو تمام بحری حیوانات پر غالب رہتا ہے۔ یوں قوت و طاقت کے وصف کی بنا پر ان کا نام قریش (طاقتور) پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کا نام قریش رکھا تھا جبکہ فہر ان کا لقب تھا۔

غالب: ان کے دوسرے بیٹے تیم الا درم کی نسبت سے ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ایک جز ا ناقص ہونے کے باعث تیم کو الا درم کہا جاتا تھا۔ غالب کا بہن بھی تھے۔

لُؤی: ایک قول کے مطابق ان کا نام لؤی (ست) سے مشتق ہے اور دوسرے قول کی رو سے لواء (پرچم) سے ماخوذ ہے۔ یہ بڑے بردبار اور حکمت والے تھے۔ ان کے یہ قول مشہور ہیں:

”جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی اور مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔“

”جس پر نیکی کی جائے اسے چاہیے کہ اس کا تذکرہ کرے اور نیکی کرنے والے کو چاہیے کہ لوگوں میں چرچا نہ کرے۔“

کعب: لفظ ”کعب“ کے معنی ہیں ”ٹخنہ“ اور قدم پر ٹخنے کی اونچائی کے باعث یہ شرف و عزت کے معنی بھی دیتا ہے۔ کعب کی شرف و عزت عرب میں اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی وفات سے برسوں کا تعین کیا جانے لگا اور یہ سلسلہ عام الفیل تک جاری رہا۔ ایک قول کے مطابق کعب ہی نے یوم عروبہ کا نام بدل کر یوم جود رکھا۔ ان کی کنیت ابو ہنئیس تھی۔ ان کا زمانہ نبی کریم ﷺ سے 560 سال پہلے تھا۔ انہوں نے خطبے میں سب سے پہلے ”امابعد“ کا استعمال شروع کیا۔ ان کے بیٹے عدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جد امجد تھے۔

مُرہ: اس نام کے ایک معنی ”قوی“ ہیں اور تلخ مزاج شخص کو بھی ”مُرہ“ کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو یفطہ تھی۔ ان کے بیٹے تیم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جد امجد تھے۔ یفطہ کی نسل سے بنو مخزوم تھے۔

کلاب: یہ شکار کے بہت شوقین تھے اور کتوں کے ساتھ کسی علاقے سے گزرتے تو لوگ کہتے ہلذہ کلاب ابن مرہ (یہ ابن مرہ کے کتے ہیں) اس طرح ابن مرہ کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلاب باب مفاعلہ کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں باہم دشمنی کرنا۔ ان کی کنیت ابو زہرہ تھی۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سونے سے آراستہ دو تلواریں کعبے کے اندر رکھیں۔

قُصی: ان کا اصل نام زید تھا۔ یہ شیر خوار تھے جب ان کے والد کلاب فوت ہو گئے اور ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے ربیعہ بن حرام قضاعی سے شادی کر لی جو انہیں شام لے گئے۔ یوں زید اپنے اصل گھر سے دور ہونے کے باعث قُصی

کہلائے جو قصبہ (دور ہونے والا) کا اسم تصغیر ہے۔ بڑے ہوئے تو آل ربیعہ سے جھگڑا ہوا اور ان سے غریب الذیاد ہونے کا طعن بن کر قصی نے والدہ سے اپنی ولایت کی حقیقت پوچھی اور پھر ان کی اجازت سے مکہ چلے آئے۔ بطحا پر قابض بنو خزاعہ میں حبیبی نامی خاتون سے ان کی شادی ہوئی اور ان کے سر خلیل بن حبشیہ کی وفات پر اس کے بیٹے ابو عبیدان خزرجی نے کعب کی تولیت قصی کے ہاتھ سچ دی۔ قصی نے تولیت کعب ملنے پر مکہ میں دارالندوہ قائم کیا جہاں قریش جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے۔ قافلے بھی یہیں سے روانہ ہوتے۔ نکاح وغیرہ کی رسوم بھی وہیں ادا ہوتیں۔ اس کے علاوہ سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانے) اور رقادہ (حاجیوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرنے) کے مناصب تفویض کیے۔ ان کے ایماء پر قریش نے رقادہ کے لیے ایک سالانہ رقم مقرر کی۔ قصی نے چری حوض بنوائے جن میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا۔ حجاج کے لیے پانی باہر سے لایا جاتا اور اس میں کھجور کا شیرہ اور انگور نچوڑ کر اسے اور خوش ذائقہ بنایا جاتا۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ کعب کی تولیت اور مکہ کی حکومت حاصل ہونے پر قصی نے قریش کو تمام اطراف سے بلا کر مکہ میں آباد کیا۔ انہوں نے کعبہ شریف اور مکانات کے درمیان جگہ کا نام المفروش رکھا جسے اب حرم یا مطاف کہا جاتا ہے۔ قصی کا زمانہ 431ء تا 473ء تھا۔ انہوں نے مرتے وقت سقایہ اور رقادہ کے منصب اپنے بیٹے عبدالدار کو سونپ دیے اگرچہ وہ اس قدر ان کا اہل نہ تھا۔

عبد مناف: قصی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی۔ ان کا اصل نام مغیرہ اور لقب عبد مناة تھا۔ بعد میں قصی نے عبد مناة بن کنانہ سے مشابہت کے باعث ان کا لقب بدل کر عبد مناف کر دیا۔ مناف کے معنی ہیں شرف کا مقام اور مناف دور جاہلیت کا ایک بت بھی تھا اس نسبت سے وہ عبد مناف کہلائے۔ ان کی کنیت ابو شمس تھی۔ انہوں نے قصی کی بنا کردہ عمارت مکمل کیں۔ عبد مناف کے بھائی عبدالعزیٰ کے بیٹے اسد تھے جن کی پوتی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے نبی ﷺ کی شادی ہوئی۔

ہاشم: عبد مناف کے بیٹوں میں یہ نہایت صاحب صولت اور با اثر تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد سے سقایہ اور رقادہ کے مناصب عبدالدار سے واپس لے لیے۔ ہاشم کا نام عمرو الغلا اور ہاشم لقب تھا اور کنیت ابو نضلہ تھی۔ ”ہاشم“ کے معنی ہیں روٹی کا چورا کرنے والا۔ وہ شدید قحط کے سال میں فلسطین گئے۔ وہاں سے آنا اونٹوں پر لدوا کر مکہ لائے اس کی روٹیاں پکوائیں پھر ان کا چورا بنا کر خرید تیار کیا اور مکہ والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ انہوں نے قیصر روم سے خط کتابت کر کے فرمان جاری کروایا کہ قریش کے مالی تجارت پر کوئی محصول نہ لیا جائے۔ نجاشی حبش سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ قریشی تاجر انگورہ (انقرہ) جاتے تو قیصر روم عزت سے پیش آتا۔ ایک بار ہاشم تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ راستے میں یرشب کے میلے میں ایک حسین عورت سلیمی نامی دیکھی جو بنو نجار سے تھی۔ ہاشم کی خواہش پر سلیمی نے ان سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد شام چلے گئے اور غزہ (فلسطین) میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئے۔ بعد میں سلیمی سے ان کا بیٹا شیبہ پیدا ہوا جس نے آنھ برس یرشب میں پرورش پائی۔ پھر ہاشم کے بھائی

مطلب بھیجنے کو مکہ لے آئے۔


عبدال مطلب: چونکہ شیبہ کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی اس لیے ان کا نام عبدال مطلب یعنی ”مطلب کا غلام“ مشہور ہو گیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہہاں زمزم جو ایک مدت پہلے ریت سے اٹ کر گرم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے جاری کیا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ دس بیٹوں کو اپنے سامنے جو ان دیکھ لیں گے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ آرزو پوری ہوئی تو دس بیٹوں کو لے کر کعبہ آئے اور پجاری سے قرعہ ڈالنے کو کہا۔ اتفاق سے قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبداللہ کی بہنیں رونے لگیں کہ ان کے بدلے دس اونٹ قربان کر دیجیے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا مگر پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ عبدال مطلب نے اب دس کے بجائے بیس اونٹ کر دیے یہاں تک کہ تعداد بڑھاتے بڑھاتے سو اونٹ ہو گئی، تب اونٹوں پر قرعہ آیا۔ یوں سو اونٹ قربان کرنے پر عبداللہ بچ گئے۔ یہ واقعہ کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر وہ ساء قریش نے پیش کی تھی۔ عبدال مطلب کی کنیت ”ابو حارث“ اور ابوالمطلب تھی۔ ان کا انتقال 578ء یا 579ء میں ہوا۔

عبدال مطلب بڑے خوبصورت، طویل قامت، دانشور اور فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ وہ طہ ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ جبل حرا پر عبادت میں گزارتے۔ غرباء اور مساکین حتیٰ کہ وحشی جانوروں اور پرندوں کو کھانا کھلاتے۔ شراب نوشی، محرم عورتوں سے نکاح اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے سخت متنفر تھے۔ حلیم میں ان کے بیٹھنے کے لیے خالی جگہ بچھا رہتا تھا جس پر کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھتا تھا۔

عبدال مطلب کے بارہ بیٹوں میں سے پانچ نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کے باعث شہرت پائی۔ وہ تھے: ابولہب، ابوطالب، عبداللہ اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم۔ ابولہب گورے اور آتشیں رخسار تھے اس لیے انہیں باپ نے یہ نام دیا تھا۔ عبدال مطلب کے دوسرے بیٹوں کے نام ضار، قثم، زبیر، مقوم، حارث، عبدالکعبہ اور الغیداق تھے۔ عبدال مطلب نے اپنے یتیم پوتے اور عبداللہ و آمنہ کے بیٹے کا نام محمد ﷺ رکھا اور آپ کی آٹھ سال پرورش کی۔

عبداللہ: اونٹوں کے نام قرعہ نکلنے پر عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبدال مطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ انہوں نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے ان کی شادی کر دی۔ خود عبدال مطلب نے بھی وہب کی صاحبزادی بالہ سے نکاح کر لیا جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یوں حمزہ نبی کریم ﷺ کے خالہ زاد بھائی بھی ٹھہرے۔ ایک روایت کے مطابق آمنہ سے شادی کے وقت عبداللہ کی عمر 17 برس سے کچھ اوپر تھی۔ وہ تجارت کے لیے شام گئے تو واپسی پر یشرب میں بیمار رہ کر فوت ہو گئے۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برکہ اور کنیت آمنہ امین تھی۔ عبداللہ کی وفات کے ایک ماہ بعد 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571ء کو حضرت محمد ﷺ کی ولادت ہوئی۔ (رحمۃ اللعالمین از قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری ص 35)





بنو مُضَر اور بنو کِنانہ

کنانہ: بنو کِنانہ بن نَحْوَیہ بن مُدْرکہ بن الیاس بن مُضَر، ایک بڑے عرب قبیلے کا نام ہے جس کی خیمہ گاہیں آغاز اسلام کے وقت مکے کے گرد و نواح کے اس علاقے میں تھیں جو شہر کے جنوب مغرب میں تہامہ سے لے کر شہر کے شمال مشرق تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور عرب نسابوں کی نظر میں ان کی خاص اہمیت کا سبب یہ حقیقت تھی کہ قریش اور پھر نبی ﷺ کا نسب اسی قبیلے کِنانہ سے جاملتا ہے۔

چونکہ بنو کِنانہ حرم کعبہ کے پڑوس میں رہتے تھے اس لیے انہوں نے زمانہ قبل از اسلام میں شہر مکہ کی تاریخ میں کچھ کم اہم حصہ نہیں لیا اور اس قبیلے کے افراد نے ہی اس وقت آخری فیصلہ دیا جب خاندان قریش (کے سردار قُصَی) نے شہر کی حکومت بنو خزاعہ سے خریدی تھی چنانچہ انہیں کے شیخ عمر بن عوف کو آخری فیصلہ دینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا جو قریش کے حق میں صادر ہوا۔ اسی فیصلے کے باعث اسے الشُّدَّاح (کھینچنے والا) کا عرف ملا، کیونکہ اس نے اس جھگڑے کو کچل دیا تھا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 411/17، 412)

بنو کِنانہ میں بنو بکر، بنو مُدْجِل، بنو لیث، بنو مُضَرہ اور بنو حارث (جن سے احابیش ہیں) شامل ہیں۔


بنو نَحْوَیہ، بنو مُدْرکہ اور بنو مُضَر: بنو اسد اور قارہ نبی ﷺ کے ساتھ نَحْوَیہ میں جمع ہوتے ہیں۔ عَظْل بن ہون بن خزیمہ اور دیش بن ہون بن خزیمہ دونوں قبیلوں کو ملا کر قارہ (یا عَظْل و قارہ) کہا جاتا ہے۔

مُدْرکہ میں آپ ﷺ کے ساتھ بنو ہذیل ملتے ہیں۔ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ایک ممتاز فرد ہیں۔ بنو قُحَیم اور مَزَنہ آپ ﷺ کے ساتھ الیاس میں ملتے ہیں۔ نیز آپ ﷺ کے ساتھ بنو قیس عیسیٰ بن مُضَر میں جمع ہوتے ہیں۔ عطفان، ہوازن، سلیم اور مازن اسی قیس کی اولاد ہیں۔ بنو بکر اور بنو ذبیان بھی قیس عیسیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو فزارہ ذبیان کی شاخ ہیں اور عدوان اور بابلہ، قیس عیسیٰ کے ذیلی قبیلے ہیں۔ رعل، ذکوان اور عصبہ بنو سلیم کی شاخیں ہیں۔

(مختصر سیرۃ الرسول (اردو) ص 27، 28)



نسب قریش فہر (قریش)



قریش کے قبائل

بنو غالب، بنو محارب اور بنو حارث: نبی کریم ﷺ کے جد امجد فہر (قریش) کے تین بیٹوں سے بنو غالب کے علاوہ بنو محارب اور بنو حارث کا سلسلہ چلا۔ فہر (قریش) کے پوتے لؤی بن غالب کی پشت سے بنو کعب، بنو خزیمہ، بنو حارث اور بنو عامر مشہور ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بنو حارث بن لؤی میں سے تھے۔


بنو عدی، بنو سہم اور بنو حنظلہ: کعب بن لؤی کے تین فرزند تھے: عدی، مرہ اور بُضیع۔ بنو عدی میں آگے چل کر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب بن نفیل رضی اللہ عنہ نے شہرت پائی۔ بھیس کی اولاد میں بنو سہم اور بنو حنظلہ نامور ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نسب نبی کریم ﷺ کی آنھویں پشت میں کعب بن لؤی پر جاتا ہے۔ مکہ کی شہری ریاست میں سفارت اور فصل مقدمات کے شعبے بنو عدی کو حاصل تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاذید بن عمرو بن نفیل اپنے زمانے میں دین ابراہیمی کے واحد موجد تھے۔

بنو تیم اور بنو کلاب: مرہ بن کعب کے تین فرزند کلاب، تیم اور یفطہ تھے۔ بنو تیم میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے یوں ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نسب ان کی آنھویں پشت میں مرہ پر نبی کریم ﷺ سے مل جاتا ہے۔ کلاب بن مرہ کے بیٹے قحطی رسول کریم ﷺ کے پانچویں جد امجد تھے۔

بنو زہرہ، بنو عبدالدار اور بنو اسد: قحطی بن کلاب کے چار بیٹے تھے: عبدالعزیٰ، عبدمناف، عبدالدار اور زہرہ۔ بنو زہرہ میں آمنہ بنت وہب بن عبدمناف بن زہرہ نبی کریم ﷺ کی والدہ محترمہ تھیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے سے تھے۔ بنو عبدالدار کے پاس سقایہ اور رفاہ کے مناصب رہے۔ عبدالعزیٰ کے بیٹے اسد تھے۔ بنو اسد میں ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھتیجے تھے۔

بنو عبد شمس اور بنو اُمیہ: عبدمناف بن قحطی کے چار فرزندوں عبد شمس، نوفل، ہاشم اور المطلب کی اولاد میں بنو عبد شمس اور بنو ہاشم مشہور ہوئے۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ ابوسفیان بن حرب بن اُمیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد عفان بن ابی العاص اور ابوسفیان بن حرب باہم بیچا زاد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ ارویٰ نبی کریم ﷺ کی پھوپھی ام حکیم بیضاء بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی تھیں۔





سرزمین عرب کے بُت

(1) سُوَاع: قرآن مجید کی سورۃ نوح میں دُیُوثُ یَعُوق اور نَسْرَ نَامِی بتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے یعنی قوم نوح ان پانچوں بتوں کو پوجتی تھی۔ اس کے غرقاب ہونے کے ایک عرصہ بعد قبیلہ خزاعہ کے سردار عَمْرُو بن لُحَی نے شام میں بت پرستی ہوتے دیکھی اور چند بت ساتھ لے آیا۔ پھر اس نے مذکورہ پانچوں بتوں کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں ان کی پوجا ہونے لگی۔ عہد اسلام سے پہلے یثرب کے مغرب میں ینبع کے قریب زباط کے مقام پر سِوَاع کی پوجا ہوتی تھی نیز دُومۃ الجندل میں قبیلہ ہذیل کے لوگ بھی اسے پوجتے تھے۔ سِوَاع کی شکل عورت کی تھی۔

(2) العُزَی: یہ نام اعز کی تائید اور تفصیل کا صیغہ ہے جبکہ اعز بمعنی عزیز اور عُزَی بمعنی عزیزہ لیا گیا ہے۔ مکہ سے چند میل دور وادی نخلہ میں ببول کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بت عزی کا تھا۔ عزی کا بت حرم کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا۔ وادی نخلہ میں بنو کنانہ عزی کو پوجتے تھے اور اسے توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔

(3) اللات: طائف میں بنو ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ ”لات“ کے معنی ہیں ”ستو گھولنے والا“ یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستھ پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لُحی کے ایماء پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش سونے سے پہلے لات اور عزی کی پوجا پاٹ کرتے اور انہی کی قسم کھایا کرتے تھے۔

(4) منات: یہ بت قدیم ترین تھا اور بحیرۃ احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مثلث میں نصب تھا۔ لات منات اور عزی عرب کے سب سے بڑے بت تھے اور ان تینوں کے نام سورۃ نجم میں آئے ہیں۔ اس کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لُحی نے کیا تھا۔ بنو زید اور غسان منات کا حج بھی کرتے تھے۔ اوس اور خزرج حج کے بعد منات کے پاس آکر احرام اتارتے تھے۔ فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بت کو منہدم کر دیا۔

(5) نسر: حمیر (یمن) کے علاقے میں نجران کے پاس قبیلہ ذی الکلاع کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج کل نجران سعودی عرب کا شہر اور صوبہ ہے جو سرحد یمن کی طرف واقع ہے۔ نسر پرندے (گدھ) کی شکل کا بت تھا۔

(6) وُدّ: یہ بت دُومۃ الجندل میں نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے۔ قریش بھی اس بت کو پوجتے تھے۔ لغوی لحاظ سے وُدّ اور وُدّ دونوں ایک ہی بت کے نام ہیں۔ قریش کا مشہور کہادر عمرو بن عبد وُدّ تھا جو غزوہ احزاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔

(7) یَعُوق: یہ بھی ان پانچ بتوں میں شامل تھا جو جدہ میں دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لُحی کے تابع ایک جن نے ان

بتوں کا اسے پتہ دیا اور وہ انہیں کھود کر تہامہ لے آیا اور حج کے دنوں میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یعوق یمن میں ارجب کے مقام پر نصب تھا، بنو ہمدان و خولان اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا تھان صنعا سے دور اتوں کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع تھا۔ یعوق کے معنی ہیں ”مصبیت روکنے والا“ اور اس کی شکل گھوڑے کی تھی۔

(8) یغوث: یہ بت اکہ (یمن) میں نصب تھا اور بنو ندج اور ہمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ طے کی شاخ نعم مراد اور بنو غطفیف بھی اسے پوجتے تھے۔ یغوث کے معنی ہیں ”فریاد کو پہنچنے والا“ اور اس کی شکل شیر کی تھی۔

(9) اساف: یہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا اور عمرو بن لُحی نے زمزم کے پاس رکھ دیا تھا۔ لوگ اس کا طواف کرتے اور ساتھ قربانی بھی کرتے تھے۔ اساف (مرد) اور ناکلہ (عورت) کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے تھے اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ لوگوں نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مردہ پر رکھ دیا تھا مگر ابن لُحی نے حرم میں ان کی پوجا شروع کر دی۔

(10) ذوالخلصہ: یہ بت بتالہ کے مقام پر نصب تھا اور دوس، شعم اور بجیلہ قبائل اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے تھان کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔

(11) ذوالشری: یہ دوس اور ازد قبائل کا دیوتا تھا اور عمیر کے علاقے میں اس کی پوجا ہوتی تھی۔ شری تہامہ میں ایک پہاڑی مقام تھا۔ دراصل بنطیوں میں ذوالشری اور خریس دیوتاؤں کا جوڑا تھا۔ ادوم (اردن) کے ایک پہاڑی مقام کا نام بھی شری تھا اور یہاں بھی ذوالشری کو خصوصاً پترا (بطراء) میں پوجا جاتا تھا۔

(12) ذوالکفین: یہ قبیلہ دوس کا دیوتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم ﷺ کی اجازت سے واپس گئے اور جا کر ذوالکفین کو جلادیا۔

(13) ہبل: قریش کے اس سب سے بڑے دیوتا کا نام دراصل ”ہبل“ کی تحریف ہے۔ ”ہبل“ اہل شام کا دیوتا تھا اس سے منسوب ہبلک شام کا قدیم شہر ہے۔ ہبل کے لغوی معنی قوت کے ہیں اور مجازاً آقا کے معنی لیے جاتے ہیں اسی لیے قرآن میں ”ہبل“ شوہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بت قریش کو انسانی صورت کی شکل میں ملا تھا جو سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ لوٹا ہوا تھا قریش نے وہ سونے کا بنا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ میں نصب تھا۔ فال کے پانسے اسی کے آگے ڈالے جاتے تھے۔ قریش جنگوں میں اُغْلُ ہبل (ہبل کی جے) کا نعرہ لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے توڑ دیا۔



جاہلیت کی مشہور تجارتی منڈیاں اور میلے

ذوۃ الجندل : یہ بازار یکم ربیع الاول سے ۱۵ ربیع الاول تک منعقد ہوتا تھا۔ پھر نرم پڑ جاتا اور کچھ نہ کچھ آخر ماہ تک جاری رہتا تھا۔ پھر لوگ آئندہ سال تک کے لیے اپنے اپنے قبائل میں واپس چلے جاتے۔ بنو طے بنو جدیلہ اور بنو کلب اس کے ارد گرد رہتے تھے۔

مشقّر : یہ منڈی ہنجر کے قریب بحرین میں لگتی تھی اور جمادی الآخرہ کے شروع سے آخر ماہ تک جاری رہتی تھی۔ اس منڈی میں فارس کے لوگ سمندری سفر کر کے اپنا تجارتی سامان لے کر آتے تھے۔ عبدالقیس اور تمیم کے قبائل اس کے ارد گرد مقیم تھے۔

صَحَار : یہ منڈی عُمان میں رجب کی پہلی تاریخ سے 5 دن تک لگا کرتی تھی۔

دَبَا : یہ منڈی رجب کے آخری دن لگتی تھی۔ اس میں سندھ، ہند اور چین کے تاجر شریک ہوتے تھے۔

بِشْحَر : یہ منڈی مہرہ کے علاقے میں اس پہاڑ کے سائے میں منعقد ہوتی تھی جس پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ بنو محارب اس کے ارد گرد رہتے تھے۔

سُوقِ عَدَن : یہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ سے شروع ہو کر دس دن تک جاری رہتا تھا۔

سُوقِ صَنْعَاء : یہ نصف رمضان سے آخر ماہ تک جاری رہتا تھا۔

رَابِیَہ : یہ بازار کندہ قبیلہ کے قریب حضر موت میں لگتا تھا۔ یہ عکاظ کی منڈی کے عین ساتھ ذوالقعدہ کے نصف سے آخر ماہ تک رہتا تھا۔


عُکَاظ : یہ بازار عرفات کے قریب لگتا تھا اور یہ عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی تھی۔ اس میں قریش، غطفان، ہوازن، بنو اسلم اور دوسرے مختلف قبائل شریک ہوتے تھے۔ یہ منڈی ذوالقعدہ کے نصف سے آخر ماہ تک جاری رہتی تھی۔

ذُو الْمَجَاز : یہ منڈی بھی عکاظ کے قریب ہی لگتی تھی۔ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہو کر یوم ترویہ (8 ذوالحجہ) تک جاری رہتی تھی۔ پھر لوگ مٹی کو چلے جاتے تھے۔ ذوالمجاز کے شمال میں مَجَنہ کی منڈی بھی لگتی تھی۔

نَطَاة : یہ منڈی خیبر میں لگتی تھی اور یوم عاشوراء (10 محرم) سے آخر محرم الحرام تک جاری رہتی تھی۔

جَبْجُر : یہ بھی یمامہ میں عاشوراء سے محرم کے آخر تک لگتی تھی۔





جاہلیت میں عرب کی مشہور منڈیاں اور میلے

دومة الجندل: یہ میلہ شمالی سعودی عرب میں صحرائے نفود کے شمال میں موجودہ قصبہ الجوف کے قریب دومة الجندل میں منعقد ہوتا تھا۔ تبوک کی مشہور چھاؤنی دومة الجندل سے تقریباً سواتین سو کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ غزوہ تبوک (9ھ) کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کے ہمراہ دومة الجندل کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دومة الجندل کے حکمران اکیدر بن عبد الملک کو نیل گائے کا شکار کرتے پایا اور اسے گرفتار کر کے نبی ﷺ کی خدمت میں تبوک لے آئے۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی اور 2 ہزار اونٹ، 8 سو غلام، چار سوزر ہیں اور 4 سونیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اکیدر نے جزیہ دینے کا بھی اقرار کیا۔ (معجم البلدان)

المُشَقَّر: یہ میلہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرقی علاقہ البحرین میں اس جگہ لگتا تھا جہاں آج کل سعودی عرب کے صوبہ الاحساء اور امارت قطر کی سرحدیں ملتی ہیں۔ المُشَقَّر الیمامہ سے تقریباً 200 کلومیٹر مشرق میں تھا۔
صُحار: یہ میلہ خلیج عُمان کے ساحل پر نخلستان بومیعی کے مشرق میں لگتا تھا جس میں سمندر پار کے تاجر بھی شریک ہوتے تھے۔ صُحار ان دنوں عُمان کا صدر مقام تھا۔

ذَبَا: اس نام کا میلہ صُحار سے تقریباً پونے 2 سو کلومیٹر شمال میں خلیج عُمان کے ساحل پر منعقد ہوتا تھا۔ صُحار اور ذبَا دونوں سلطنت عُمان میں واقع ہیں۔

الشَّحْر: یہ مہرہ کے جنوب مغرب میں ساحل بحر پر واقع ہے۔ الشَّحْر کے معنی وادی کا نشیب ہیں۔ شحر کے ساحل سے حاصل ہونے والا عذیر شحار میں عبر الشحری کہلاتا تھا۔ مکلا کی بندرگاہ سے شحر 65 کلومیٹر مشرق میں ہے (معجم البلدان) شحر کا میلہ مہرہ کے شمال میں لگتا تھا۔

عدن: یہ جنوبی یمن کی مشہور بندرگاہ ہے اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع ہے۔ عدن 1840ء سے لے کر 1967ء تک انگریزوں کے تسلط میں رہا اور آزادی کے بعد مملکت جنوبی یمن کا دار الحکومت رہا حتیٰ کہ شمالی و جنوبی یمن کے اتحاد سے پھر متحدہ یمن وجود میں آگیا۔ عہد جاہلیت میں عدن میں بھی ایک میلہ لگتا تھا۔

صنعاء: حمیری بادشاہوں کے بعد دور جاہلیت میں صنعاء یمن کا دار الحکومت تھا اور یہاں ایک مشہور میلہ منعقد ہوتا تھا۔ آج بھی صنعاء متحدہ یمن کا دار الحکومت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جرمن ماہرین آثاریات نے یہاں ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے تعمیراتی آثار دریافت کیے تھے۔

عُکاظ: یہ بقول واقدی نخلہ اور طائف کے درمیان وادی اُمیداء میں واقع تھا۔ اصمعی کے بقول کھجوروں کے جھنڈ کا نام

عکاظ تھا۔ یہاں منعقد ہونے والے میلے میں تمام عرب کے لوگ جمع ہوتے اور شعر و شاعری اور ایک دوسرے پر عزت و شرف اور کمالات میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ جنگ فجار بھی یہیں برپا ہوتی تھی۔ ان دنوں عکاظ کے نام سے مکہ سے ایک روز نامہ بھی نکلتا ہے۔

رابیہ: عربی میں رابیہ میلے کو کہتے ہیں۔ حضرموت میں یہ میلہ غالباً ایک میلے کے پاس لگتا تھا۔ ذوالمجاز: یہ مقام عرفات سے ککب کی جانب ایک فرسخ یعنی تقریباً سو اتمین میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں منعقدہ میلہ آٹھ دن رہتا تھا۔

النطاة: یہ مدینہ کے شمال میں خیبر کی ایک بستی میں ایک قلعہ کا نام تھا جہاں کھجوروں کی آپاشی کے لیے کنواں بھی تھا۔ اس جگہ بیس اکیس دن میلہ لگتا تھا۔

الحجر: یمامہ کا یہ شہر بنو حنیفہ کا مسکن تھا۔ یہیں بعد میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ میلہ بھی بیس اکیس دن رہتا تھا اور ہر سال یوم عاشورہ سے آخر محرم تک لگتا تھا۔



زمانہ جاہلیت میں عرب کے مختلف بازاروں (میلوں) کا نمونہ



زمانہ قبل اسلام کی سلطنتیں

فارس کی ساسانی سلطنت: آتش پرست پارسیوں کی یہ سلطنت فارس (پارس)، کرمان، مکران، خراسان، سیستان، آذربائیجان، السواد اور الجزیرہ (عراق)، کردستان وغیرہ پر مشتمل تھی۔ اصطخر، شیراز، اہواز، نہاوند، ہمدان، مدائن (طیسفون) اور موصل اس کے مشہور شہر تھے۔

ساسانی خاندان کا سب سے مشہور حکمران نوشیروان عادل (متوفی 579ء) تھا جس کے عہد میں نبی کریم ﷺ کی ولادت ہوئی۔ نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز کو رسول اللہ ﷺ نے دعوت اسلام دی مگر اس نے آپ ﷺ کا نامہ مبارک چاک کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق ساسانی سلطنت کھڑے کھڑے ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں سلطنت فارس کا دار الحکومت مدائن فتح ہو گیا۔ آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد شاہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مارا گیا۔

بازنطینی سلطنت: اسے مشرقی رومی سلطنت یا صرف ”روم“ بھی کہتے ہیں۔ اس کا دار الحکومت قسطنطنیہ (قدیم بیزنطیم) تھا اور ایٹائے کوچک، شام، فلسطین، مصر وغیرہ اس میں شامل تھے۔ انطاکیہ (Antioch)، حلب، حماہ، حمص، دمشق، بیرتس، طرابلس الغرب، قلمرو، یروشلم (القدس)، اسکندریہ، عین الشمس (ہیلو پولس)، افسوس، طرابلس الشام، ایلہ، قیصریہ وغیرہ سلطنت روم کے قابل ذکر شہر تھے۔ سلطنت روم جس کا پہلا دار الحکومت روم (اطلی) تھا دراصل بحیرہ روم کے ارد گرد کے علاقوں پر محیط تھی اس نسبت سے یہ سمندر بحیرہ روم کہلاتا ہے اگرچہ اسے بحیرہ شامی، بحیرہ کبیر اور بحیرہ متوسط بھی کہا جاتا ہے۔ بحیرہ متوسط (Mediterranean) نام اس وجہ سے پڑا کیونکہ یہ سمندر اس وقت کی معلوم دنیا یعنی براعظم ایشیا، براعظم یورپ اور براعظم افریقہ کے وسط میں واقع تھا۔ Medi بمعنی وسط اور Terra کے معنی ہیں زمین اور ان کے ملاپ سے Mediterranean مشہور ہوا۔

سلطنت کندہ: یہ اندرون عرب کی ایک وسیع سلطنت تھی جو جنوبی عرب (حضر موت) اور یمن سے لے کر شمال میں دومۃ الجندل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مشرق میں یمامہ شمال مشرق میں منازہ (لحی قبائل کا علاقہ)، شمال میں غسانہ اور مغرب میں مختلف عرب قبائل کے علاقے حجاز اور عسیر واقع تھے۔ کندہ کا دار الحکومت الفاؤ تھا جو سلطنت کندہ کے جنوب مغرب میں عسیر کی سرحد کے قریب تھا۔ آج بھی الفاؤ سعودی عرب کا مشہور قصبہ ہے۔ سلطنت کندہ میں سٹے، ثعلبہ، غطفان، ہلال، سعد، جدیل، ہوازن اور ہذیل کے قبائل اور نجد کا علاقہ شامل تھے۔ یمامہ اور دومۃ الجندل کے شہر بھی سلطنت کندہ میں واقع تھے۔ دار الحکومت الفاؤ جو نجران سے تقریباً 180 کلومیٹر شمال مشرق میں اور ریاض سے تقریباً 700 کلومیٹر جنوب

مغرب میں ہے اس تجارتی شاہراہ پر واقع تھا جسے یمن اور حضرموت سے یمامہ، خلیج اور شام جانے والے قافلے استعمال کرتے تھے۔ امرؤ القیس اسی علاقے کا شاعر تھا۔ 1972ء میں جامعہ الریاض کی ایک ٹیم نے الفاؤ کے کھنڈر دریافت کیے جن میں بازار، شاہی قصر، معبد اور بڑی آبادی کے آثار شامل ہیں۔

مناذرہ: یہ جنوب میں یمامہ سے لے کر شمال میں دریائے فرات کے ساتھ ساتھ لُحیوں کا علاقہ تھا جس کے شمال مغرب میں غسانہ اور مغرب میں کندہ کی سلطنت تھی۔ یمن اور بحرین کی طرح مناذرہ بھی فارس کی ساسانی سلطنت کے ماتحت تھا۔ عبد نبوی میں یہاں نعمان بن منذر حکمران تھا۔ اس میں لُحی، بنو شیبان اور تنوخ (مسیحی) اور تمیم اور بکر بن وائل بت پرست قبائل آباد تھے۔ مناذرہ کا دار الحکومت حیرہ تھا جو دریائے فرات کے مغرب میں اور نجف کے جنوب میں واقع تھا۔ عہد صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حیرہ فتح کر لیا تو نعمان بن منذر عدائن بھاگ گیا۔

غسانہ: غسانی قبائل کا علاقہ شمال مشرق میں دریائے فرات سے لے کر جنوب مغرب میں ایلہ اور تبوک تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کا دار الحکومت نصری تھا جو شام میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں تغلب، قضاہ اور بنو کلب قبائل آباد تھے۔ غسانی حکمران مسیحی تھے اور سلطنت روم کے باجگزار تھے۔ 6ھ میں شریحیل بن عمرو غسانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا جس کے باعث جمادی الاولیٰ 8ھ میں جنگ موتہ لڑی گئی۔ جبکہ بنو انیسہ غسانی نے اسلام قبول کیا مگر کچھ عرصہ بعد عہد فاروقی میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک برحق فیصلے پر ناراض ہو کر پھر عیسائی ہو گیا اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں سے قسطنطنیہ چلا گیا جہاں اس کا انتقال کفر پر ہوا۔

یمامہ: علاقہ یمامہ بحرین اور کندہ کے درمیان واقع تھا اس کا دار الحکومت حنجر تھا۔ یہاں بنو حنیفہ اور عبد قیس آباد تھے جو بت پرست تھے۔ یمامہ کا حکمران ہوذہ بن علی نصرانی تھا جس نے 6ھ میں اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور 8ھ میں کفر پر مرم گیا۔ یمامہ ہی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں قتل ہوا۔

البحرین: یہ علاقہ یمامہ اور خلیج فارس کے درمیان واقع تھا اور اس میں موجود قطر اور امارت بحرین (جزیرہ) بھی شامل تھے۔ اس کا دار الحکومت دارین تھا۔ عبد نبوی میں یہاں منذر بن سادی حکمران تھے جو حلقہ گروش اسلام ہو گئے۔ ان دنوں البحرین (سعودی عرب) کو الاحساء کہتے ہیں۔

عثمان: یہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے درمیان واقع ہے جس میں ان دنوں آج کے متحدہ عرب امارات کے مشرقی علاقے بھی شامل تھے۔ یہاں بت پرست ازداور دیگر قبائل آباد تھے جو مجوسی تھے۔ مسقط، صُحار اور ذبایہاں کے ساحلی شہر تھے۔ نعمان پردو بھائی جیفر اور عبد پسران جلدی حکمران تھے اور وہ دونوں حضرت عمر دین عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے۔

یمن: یہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب مغربی حصے پر مشتمل ہے۔ قبل از اسلام یمن میں حارث، خولان، مراد، کہلان، عک اور ہمدان نامی قبائل آباد تھے۔ صنعا، مأرب، منا اور عدن مشہور شہر تھے۔ بیشتر اہل یمن مذہباً یہودی تھے۔ دیگر قبائل بت پرست تھے۔ نجران، مأرب اور ہمدان کے علاقے میں عیسائی آباد تھے اور جنوبی یمن میں مجوس بھی تھے۔

تدیم یمن (سبا) کا دارالحکومت مأرب تھا جو موجودہ دارالحکومت صنعاء کے شمال مشرق میں تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قوم سبا (1100 ق م تا 115 ق م) قحطان کے پوتے عبد شمس سبا بن یارب سے منسوب تھی۔ سبا کا اصل مرکز حکومت جزیرہ نمائے عرب کے جنوب مغرب میں یمن کا مغربی حصہ تھا لیکن رفتہ رفتہ اس کا دائرہ مشرق میں حضرموت تک وسیع ہو گیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد (950 ق م) میں سبا پر ملکہ (ملکیتس) حکمران تھی جس کا ذکر سورۃ نمل میں آتا ہے۔ سبا کے بادشاہ بھمر نے تقریباً 800 ق م میں شہر مأرب کے جنوب میں وادی اذینہ میں ایک آبی بند تعمیر کیا تھا جو 115 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا تھا۔ اس کی ایک تہائی دیوار اب بھی باقی ہے۔ اس بند کو حجازی عرب ”سد“ اور یمنی عرب ”غریم“ کہتے ہیں۔ (تاریخ ارض القرآن، از علامہ سید سلیمان ندوی ص 201, 200)

سورۃ سبا میں نسل الغریم (بند کا سیلاب) سے تباہی مچنے کا ذکر ہے۔

550 ق م تک سبا (یمن) پر ”مکارب“ یعنی ”کاہن بادشاہ“ حکمران رہے۔ پھر ملوک سبا کا دور شروع ہوا جو 115 ق م تک حکمرانی کرتے رہے۔ ان کے بعد یمن کے مغربی قبیلہ حمیر نے 115 ق م میں قوت حاصل کی جو سبا ہی کی ایک شاخ تھا۔ بعد میں حمیری سلطنت میں تمام یمن، حضرموت، نجد اور تہامہ تک شامل ہو گئے۔ آخر کار 525ء میں آخری حمیری بادشاہ ذونواس نے اکسومی حبشیوں سے شکست کھائی۔ حبشی تقریباً 72 برس یمن پر حکمران رہے۔ 598ء میں ایرانی یہاں قابض ہو گئے، چنانچہ 66 (628ء) میں جب نبی اکرم ﷺ نے شاہان وقت کو دعوت اسلام دی، اس وقت شہنشاہ فارس خسرو پرویز کی طرف سے باذان یمن کا گورنر تھا۔

8ھ (630ء) میں یمن میں اسلام کو فروغ ملا۔ عباسی خلافت کمزور ہونے پر یہاں زیدی، مہدی، رسولی اور صلحی خانوادے برسر اقتدار رہے۔ 1750ء میں عثمانی تسلط قائم ہونے کے باوجود یمن نیم خود مختار رہا۔ 1839ء میں برطانیہ نے اس پر قبضہ جمالیا۔ 1962ء میں شمالی یمن (دارالحکومت صنعاء) آزاد ہو گیا، تاہم جنوبی یمن (دارالحکومت عدن) کو 1967ء میں آزادی ملی۔ 1990ء میں دونوں یمن متحد ہو گئے۔



عام الفیل

30 اگست 571ء یا 570ء

نبی کریم ﷺ کی مبارک پیدائش

یمن میں بنو حمیر کے بعد حبشیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ جب یہ حکومت ابرہہ اشجریہ کو ملی تو اس نے صنعاء میں غمد ان کے قریب ایک عظیم الشان گرجا بنایا جس کو ”قلیس“ کہا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں اس جیسا کوئی گرجا نہ تھا۔ اسے سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا اور بہترین لکڑی استعمال کی گئی تھی جس پر سونے سے کام کیا گیا تھا۔ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے حج کو اس گرجے کی طرف پھیر دے اور کعبہ کی طرف حج کرنے کو باطل قرار دے دے۔ جب عربوں میں یہ بات پھیلی تو بنو کنانہ کے ایک آدمی کو سخت غصہ آیا۔ وہ اس گرجے میں گیا اور رات کے وقت آنکھ بچا کر قضاے حاجت کر دی۔ پھر بھاگ کر اپنے علاقے میں آ گیا۔

ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ سخت غضب ناک ہوا۔ اس نے قسم اٹھائی کہ وہ بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دے گا۔ اس سال کو عام الفیل (ہاتھی والا سال) کہا گیا۔^① وہ صنعاء سے براستہ شعم طائف پہنچا۔ وہاں سے اس نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجا جو مکہ والوں کے جانور ہانک کر لے آیا۔ ان جانوروں میں سردار عبدالمطلب بن ہاشم کے بھی دو سوانٹ شامل تھے۔ یہ جانور ابرہہ کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ایک اور شخص مکہ مکرمہ بھیجا اور اس سے کہا: ”وہاں کے سردار اور معزز آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔“ وہ شخص آیا تو اسے بتایا گیا کہ وادی مکہ کے سردار عبدالمطلب ہیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں: ”میں تم سے لڑنے نہیں آیا۔ میں تو صرف بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔“

عبدالمطلب کہنے لگے: ”اللہ کی قسم! ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا قابل احترام گھر ہے جسے اس کے غلیل ابراہیم (علیہ السلام) نے بنایا تھا۔ اگر اللہ نے اس کی حفاظت نہ کی تو وہ جانے کیونکہ یہ اس کا گھر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ابرہہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔“ یہ کہہ کر سردار عبدالمطلب ابرہہ کے قاصد کے ساتھ اس کی طرف چل پڑے۔ جب سردار عبدالمطلب کے لیے بادشاہ سے اجازت طلب کی گئی تو اسے بتایا گیا: ”یہ قریش کے سردار ہیں۔“ اس نے انہیں دربار میں بلا لیا۔ جب اس کی نظر ان پر پڑی تو بہت مرعوب ہوا۔ اس نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو تخت سے نیچے بٹھائے اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ حبشی انہیں اس کے برابر تخت پر بیٹھے ہوئے

① السيرة النبوية: 40/1 والروضة الأنف: 63/1 والسيرة النبوية الصحيحة: د. اکرم ضياء العمری: 96/1 و محمد ”رسول

دیکھیں! لہذا وہ تخت سے اتر اور قالین پر بیٹھ گیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھالیا۔ اور پوچھا ”فرمائیے! کیسے آئے؟“ سردار عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کا قصہ چھیڑ دیا۔

ابرہہ کہنے لگا: ”جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں بہت متاثر ہوا تھا پھر جب میں آپ سے ہم کلام ہوا تو میں آپ سے بے پروا اور مستغنی ہو گیا ہوں۔ تعجب ہے کہ آپ مجھ سے اپنے دو سو اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کی بات نہیں کرتے جس پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے دین کا مدار ہے جبکہ میں اسے گرانے آیا ہوں؟“ عبدالمطلب کہنے لگے: ”اونٹوں کا مالک میں ہوں جبکہ اس گھر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خود اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔“

ابرہہ نے عبدالمطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبدالمطلب قریش کے پاس واپس آئے اور انہیں پوری بات بتائی۔ چونکہ ابرہہ کے لشکر کی تعداد قریش سے بہت زیادہ تھی اس لیے سردار عبدالمطلب نے لوگوں کو مکہ خالی کر کے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں پناہ حاصل کرنے کا مشورہ دیا تا کہ وہ لشکر کی زد سے بچ سکیں۔ پھر انہوں نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا اور بہت سے دیگر قریشی سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنے لگے اور ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف مدد مانگنے لگے حتیٰ کہ سردار عبدالمطلب ^① نے کعبہ کا کنڈا پکڑ کر یہ شعر پڑھے:

لَا هُمْ إِلَّا الْعَبْدَانِ نَعَزْخَلَهُ فَاَنْفَعُ جَلَالِكُ
لَا يَغْلِبُنَّ صَالِيْنَهُمْ وَمَعَالَهُمْ غَدُوًّا مَعَالِكُ
إِنْ كُنْتَ قَارِكُهُمْ وَقَبْ لَتَنَا قَامَرًا بِذَلِكَ

”اے اللہ! ابرہہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب غالب نہ آئے اور نہ ان کی قوت تیری قوت کو مات دے۔ اگر تو نے ان کو ہمارا قبلہ تاراج کرنے دیا تو پھر تیری مرضی۔“

جب ابرہہ نے مکہ میں داخلے کی تیاری کی اور بیت اللہ تاراج کرنے کے عزم سے اپنے بڑے ہاتھی کو تیار کیا تو عجب صورت حال پیدا ہوئی کہ جب وہ ہاتھی کو مکہ کی طرف چلاتے تو ہاتھی بیٹھ جاتا اور اس سے مس نہ ہوتا لیکن جب کسی اور طرف رخ کرتے تو بھاگنے لگتا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کی صورت میں پرندوں کے

① آپ کی والدہ سلمیٰ بنت زید تھیں جن کا تعلق بنو نجار (مدینہ منورہ) سے تھا۔ سردار عبدالمطلب مستجاب الدعوات شخص تھے۔ اپنے دسترخوان سے قصداً پرندوں اور جانوروں کے لیے خوراک بچا لیتے تھے اور پہاڑوں پر لے جا ڈالتے تھے اسی بنا پر ان کو (طعمہ الطیر) ”پرندوں کو کھانے والا“ اور (فیاض) ”صد سے زیادہ غنی“ کہا جاتا تھا۔ ناگہانی مصائب میں قریش ان سے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ عام معاملات میں بھی وہی ان کے مرجع و ماویٰ تھے۔ وہ قریش کے باکمال اور فعال سردار تھے۔ 120 سال عمر گزاری۔ ہمیشہ اپنے بیٹوں کو ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ آخری عمر میں بتوں کی پوجا بھی چھوڑ دی تھی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ چاہہ زمزم کا انکشاف انہی کے ہاتھوں ہوا۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا مقدس کام انہوں ہی نے شروع کیا۔ نبی کریم ﷺ ان کی زندگی میں چھوٹے ہی تھے۔ اس وقت بھی وہ آپ کی انتہائی تعظیم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: ”میرے اس بیٹے کو بڑی شان حاصل ہوگی۔“ کیونکہ انہوں نے کاجنوں اور رانہوں سے آپ ﷺ کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔

سردار عبدالمطلب واقعہ فیل سے آٹھ سال بعد فوت ہوئے۔ (الطبری: 14/2)

جھنڈ بھیج دیے۔ ہر پرندے کے پاس تین تین کنکر تھے، ایک چوچ میں اور دو بچوں میں۔ یہ کنکر پنے اور مسور کے برابر تھے۔ پرندے لشکر کے اوپر آتے تو کنکر گرا دیتے اور جس کو بھی کنکر لگ جاتا وہ مر جاتا تھا۔ سب کو کنکر نہیں لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا جس نے ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر کی نذر کر دیا۔ جو بچ گئے وہ ابرہہ کے ساتھ یمن کی طرف بھاگے۔ خود ابرہہ کا یہ حال تھا کہ اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا اور اسی طرح وہ ذلیل ہو کر مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا یکسوم 571ء میں بادشاہ بنا۔ اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر عربوں نے اس کو بطور تاریخ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ ۝۱ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ ۝۲ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۚ ۝۳ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۚ ۝۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝۵﴾

”کیا آپ نہیں جانتے؟ کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کھنکر کی کنکریاں پھینکتے تھے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔“ (الفیل: 105/1-5)

حبشیوں کی اس ہزیمت و ذلت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو ہر قسم کی شکست و ریخت سے محفوظ کر لیا۔ یہی بیت اللہ چند سال بعد تمام روئے ارض کے مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔






عام الفیل (ابرہہ حبشی کا حملہ)

(571ء یا 570ء)

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟“
(الفیل: 1/105)



عام اقلیل

تیسری حکومت سبا (115 ق م تا 525ء) کی حدود مملکت جنوبی عرب سے شروع ہو کر بتدریج شمالی عرب اور افریقہ تک وسیع ہو گئی تھیں۔ چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں نجران میں یمن کے حمیری یہودی فرماں روا ذنواس نے عیسائیوں پر جو ظلم کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور سن 525ء میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ بعض مورخین کے بقول اسی حبشی فوج میں ابرہہ بھی تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابرہہ اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ رفتہ رفتہ وہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ لکھتا تھا۔ یمن میں پوری طرح اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے ان کے پیش نظر تھا، یعنی عرب میں عیسائیت پھیلانا اور عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا۔

ابرہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دار السلطنت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جسے عرب مورخین القلیس یا القلیس اور یونانی میں Ekklesia کہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علی الاعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب (حجازی) نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبہ کو ڈھانہ دوں۔

اس کے بعد ابرہہ 570ء یا 571ء میں ساٹھ ہزار فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے سردار ذنوفر نے پھر خشم کے علاقے کے سردار نفیل بن حبیب نعمی نے مقابلہ کیا، مگر وہ شکست کھا گئے۔ ابرہہ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف کا ایک سردار مسعود وفد لے کر اس سے ملا اور کہا: ”ہمارا بت کدہ وہ معبود نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں وہ تو مکہ میں ہے اس لیے آپ ہمارے معبود کو چھوڑ دیں۔ ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو رہنما فراہم کیے دیتے ہیں۔“ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی اور بنی ثقیف نے اورغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ تین کوس رہ گیا تو ”الْمُغَمَّس“ نامی مقام پر پہنچ کر اورغال مر گیا۔ عرب مدتوں اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سالہا سال تک طعنے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ الْمُغَمَّس سے ابرہہ نے اپنے مقدمۃ الجیش کو آگے بڑھایا اور وہ اہل تہامہ اور

قریش کے بہت سے موبیشی لوٹ لے گیا جن میں رسول اللہ ﷺ کے دادا عبدالمطلب کے بھی دو سوانٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک اہلچلی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر (کعبہ) کو ڈھانے آیا ہوں اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبدالمطلب تھے۔ اہلچلی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچالے گا۔ اہلچلی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجہ اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا: ”میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔“ ابرہہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبدالمطلب نے کہا: ”آپ جانیں اور وہ جانے۔“ دوران گفتگو عبدالمطلب نے یہ بھی کہا: ”یہ اللہ کا گھر ہے۔ آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔“ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔

قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے چنانچہ عبدالمطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ ابن ہشامؒ سیہلی اور ابن جریر نے عبدالمطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں:

لَا هُمْ إِلَّا الْعَبْدَانِ نَعُ زَحْلَهُ فَاْمْنَعُ جَلَالَكَ
 ”الہی! بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما“
 لَا يَفْلِيَنَّ صُلَيْبُهُمْ وَمَحَالُهُمْ غَدَا وَمَحَالُكَ
 ”کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے“
 اِنْ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَ قَبْ لَنَنَاقُ امْرَ مَابَذَالِكَ
 ”اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر“
 وَ انْصُرْنَا عَلَى آلِ الصَّلْبِي ب وَ غَا بِدِيهِ الْيَوْمَ الْاَلَكُ
 ”صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما“
 يَارَبِّ لَا اَرْجُو لَهُمْ بَوَاكَا يَارَبِّ فَاْمْنَعُ مِنْهُمْ جَمَاعَا

”اے میرے رب! تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب! ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔“

إِنَّ غِلْدَ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَ اَمْنَعُهُمْ أَنْ يُخَرَّبُوا قَرَاكَ
”اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے۔ اپنی ہستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک“

یہ دعائیں مانگ کر عبدالمطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ کے مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے آگے تھا، یکا یک بیٹھ گیا، بہت کوشش کی مگر وہ نہ ہلا..... اتنے میں پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی جس سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی مخصب کے قریب محسّر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ ﷺ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، جبکہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت ربیع الاول میں تقریباً 50 دن بعد ہوئی تھی۔ (مختص از تفہیم القرآن 462/6-469)

خشعم: جبل سراء (طائف اور نجران کے درمیان) میں خشم بقول امام نووی ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس نسبت سے یہاں آیا، قبیلہ بھی خشم کہلاتا تھا۔ ابرہہ الاشرم صنعاء سے چل کر خشم کے راستے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ طائف: یہ عرب کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے اور اچھی آب و ہوا اور زرخیزی و شادابی کے لیے مشہور ہے۔ سطح سمندر سے 1700 میٹر بلند ہونے کے باعث یہ زمانہ قدیم سے اہل مکہ کا مصیف یعنی گرمائی پہاڑی مقام رہا ہے۔ اب سعودی حکومت کا گرمائی صدر مقام بھی طائف ہی ہے۔ یہ مکہ کے جنوب مشرق میں 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 1982ء میں یہاں مسلم سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ طائف کا انار دنیا کا بہترین انار ہے جو نہایت میٹھا، رسیلا اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ طائف، توثیق کا شہر تھا۔ ان میں سے معرکہ جسر (عراق 13ھ) کے سپہ سالار اسلام ابو عبیدہ ثقفی شہید ہوئے، مختار ثقفی، حجاج بن یوسف اور فاتح سندھ محمد بن قاسم یحییٰ نے تاریخ میں شہرت پائی۔

مقمس: یہ مکہ سے دو میل کے فاصلے پر عرفات سے پرے طائف کی جانب واقع ایک مقام ہے۔ یہاں ابورغال کی قبر ہے جس نے اصحاب فیل کی مکہ پر چڑھائی کرنے میں رہنمائی کی تھی۔ اسے یہاں موت نے آلیا اور اس کی غداری کے باعث لوگ اس کی قبر پر کنکریاں پھینکتے ہیں۔

یمن اور سبا: دیکھیے ”زمانہ قبل اسلام کی سلطنتیں“

صنعاء: سید سلیمان ندوی ”تاریخ ارض القرآن“ (ص 165) میں لکھتے ہیں کہ سبا کا موجودہ نام صنعاء ہے۔ 525ء میں جب حبشہ (اکسوم) کے عیسائی بادشاہ نے آخری حمیری حکمران ذونواس کو شکست دے کر یمن میں اپنا گورنر مقرر کر دیا تو اس

نے صنعاء کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 543ء میں ابرہہ یمن کا گورنر ہوا جسے نکلا ہونے کے باعث ابرہہ الاشرم کہا جاتا ہے۔ اس نے اگست 570ء میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف یلغار کی مگر نامراد ٹھہرا اور ہلاک ہوا۔ صنعاء اسلامی دور کے آغاز سے یمن کا دارالحکومت رہا اور آج بھی جمہوریہ یمن کا دارالحکومت ہے۔

ان دنوں بھی صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2196 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ ایک تجارتی و زرعی مرکز ہے۔ اسلام سے پہلے یہاں غمدان نے دو محلات تعمیر کیے تھے۔ ابو بلی عہد (1174ء تا 1250ء) میں اس کی ضخیم فصیل تعمیر ہوئی۔ یہ صوبائی دارالحکومت بھی ہے جس میں صنعاء عمران الجوف، حوث، محویت، ریحہ، کوکبان اور حراز کے اضلاع شامل ہیں۔ (السنجد فی الاعلام)

شبوہ: یمن میں مشرق کی طرف حضرموت ہے، ایک زمانے میں اس کے دارالحکومت کا نام سباثا (Sabbatha) تھا جو اب تک حضرموت کا ایک مشہور قصبہ ہے۔ یہ عود (بخورات) کی تجارت کے لیے زمانہ قدیم سے مشہور تھا۔

(تاریخ ارض القرآن)

شبوہ، حضرموت میں واقع ہے اور ماژب سے تقریباً 150 کلومیٹر مشرق میں ہے۔



نبی کریم ﷺ کی جائے ولادت مکہ المکرمہ

مکہ مکرمہ مملکت سعودی عرب میں حجاز کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ بقول سید سلیمان ندوی ”یہ مقدس شہر ایک مرد ضعیف (ابراہیم علیہ السلام) کا بنا کردہ ایک نوجوان پیغمبر (اسماعیل علیہ السلام) کی ہجرت گاہ اور ایک یتیم نبی (محمد ﷺ) کی جائے ولادت ہے۔“ مکہ سطح سمندر سے تقریباً 330 میٹر بلند ہے۔ شہر اس سلسلہ میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبا اور شمالاً جنوباً تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر چوڑا ہے۔ شہر مکہ کو اس لحاظ سے حرم کہتے ہیں کہ یہ حرمت اور عزت والا مقام ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈھائی ہزار برس پہلے یہ مقام کاروان تجارت کی ایک منزل گاہ تھا۔ سترھویں صدی ق م میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو حکم ربی سے یہاں لا کر آباد کیا۔ باپ بیٹے نے اللہ کے نام پر یہاں ایک عبادت گاہ بنائی جسے کعبہ کہا جانے لگا۔ اس مقدس عمارت کی ساخت مکعب نما ہے، لہذا یہ کعبہ کہلائی کیونکہ عربی میں چھ یکساں مربع پہلوؤں والا پانسا مکعب یا کعبہ کہلاتا ہے۔ فرزند ان اسماعیل کی اولاد ایک مدت یہاں بالادست رہی۔ کعبہ کی تولد انہی کے پاس تھی۔ اس کے بعد قطفانی قبیلے بنو جرہم نے غلبہ حاصل کر لیا اور بنو اسماعیل کو مکہ سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے ابھی تک بت پرستی میں بنو جرہم کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر قضیہ نے جو بنو اسماعیل میں سے عدنان کی پندرہویں پشت میں تھے 440ء میں دوبارہ مکہ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے یہاں مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی اور درج ذیل عہدے قائم کیے:

① رفادہ (حجاج کی ضیافت) ② سقاہ (حاجیوں کو پانی پلانا) ③ حجابہ (غلاف کعبہ کا اہتمام اور چوکیداری)

④ قیادہ ⑤ قومی نشان لواء (پرچم) ⑥ قومی مجلس جسے ندوہ یا دارالندوہ کہتے تھے۔

امور مملکت اور حکومتی عہدے ایک ایک شیخ خاندان کے سپرد کیے گئے۔ شہر کے علاوہ بنو اسماعیل شہر کے آس پاس بھی آباد تھے۔ مکہ کے جنوب کی پہاڑیاں قبیلہ ہذیل کا مسکن تھیں۔ جنوب کی طرف وادی القرئی کے اطراف میں قبائل کنانہ رہتے تھے۔ مکہ کے پاس جبل حبشی کے دامن میں حبشی قبائل آباد تھے۔ (تاریخ ارض القرآن ص 82)

بکہ اور مکہ: مکہ کا قدیم اور اصل نام بکہ ہے جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”پہلا متبرک گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ تھا۔“ یہ شہر تہامہ کے مشرق میں جدہ سے تقریباً 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ کو بلد الامین ام القرئی بیت الحقیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ (ام القرئی کی نسبت سے مکہ میں ایک جدید یونیورسٹی کا

نام بھی ام القرنی ہے۔) یا قوت حموی معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں حرم کعبہ کی عمارت کا نام مکہ تھا، بعد میں پورے شہر کو مکہ کہا جانے لگا۔ مکہ معظمہ جغرافیائی لحاظ سے 21 درجہ 38 دقیقہ عرض بلد شمالی اور 40 درجہ 9 دقیقہ طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 300 میٹر ہے۔ مکہ وادی ابراہیم میں ہے جو دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان ہے۔ شمال میں جبل ثقیفان اور شعب بنی عامر ہیں۔ جنوب میں جبل حدیدہ اور جنوب مغرب میں جبل عمر ہے۔ جنوب میں غار ثور کی سمت جبل کدی ہے۔ مشرق میں شعب ابی طالب اور جبل حرا ہیں۔ پھر مزید مشرق میں جبل خندہ اور شمال مشرق میں جبل ابی قنیس واقع ہیں۔ مکہ معظمہ کا وسط بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے جو انقشاویہ، شعب علی، الشامیہ اور الحکیہ کی پہاڑیوں کے درمیان تقریباً 200 میٹر مربع کی وادی ہے جس کے چاروں جانب اونچے پہاڑ ہیں۔ ان میں اونچی نیچی آبادی ہے۔

مکہ شہر کے وہ علاقے جو بیت اللہ سے بھی نشیب (گہرائی) میں ہیں، مسفلہ (نشیبی) کہلاتے ہیں اور فراز والے علاقوں کو المعلیٰ (اونچے) کہا جاتا ہے۔ المعلیٰ کی طرف ہی الحجون کا علاقہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی ﷺ المعلیٰ کی جانب ہی سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے آٹھ سال پہلے 622ء میں جب نبی ﷺ مکہ چھوڑ کر جانے لگے تھے تو آپ نے شہر کی جانب رخ کر کے فرمایا تھا:


”اے مکہ! مجھے تمام شہروں سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے مگر تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔“


کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ اس کی نہ چھت تھی نہ کواڑ اور نہ چوکھٹ تھی۔ جب قصی بن کلاب کو کعبہ کی تولیت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تنھوں کی چھت ڈالی۔ سب سے پہلے یہاں قبیلہ جرہم آکر آباد ہوا اور بنو جرہم ہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔

حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے غلاف چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسعد تنبع تھا۔ نبی کریم ﷺ کی عمر جب 35 برس تھی اور سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا، قریش نے اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کیا لیکن دس سال بعد 74ھ میں حجاج بن یوسف نے پھر اسے قریش کی بنیادوں پر تعمیر کر دیا۔ شعبان 1039ھ میں موسلا دھار بارش سے کعبہ زمین بوس ہو گیا تو عثمانی خلیفہ مراد خاں نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرایا، چنانچہ کعبہ کی موجودہ عمارت عثمانی تعمیر ہے۔ اس کی اونچائی 15 میٹر لمبائی تقریباً 12 میٹر اور چوڑائی تقریباً 11 میٹر ہے۔

صفا اور مروہ: یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پانی کی تلاش میں سعی (بھاگ دوڑ) کرتی رہی تھیں اور انہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے حاجی ان دونوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔







جبل الاحمر

وادی قاطعہ کا راستہ گڈاء

میں نے

آبار
(کنوئیں)

شعب
بنی عامر

جنگل ابا قیس

جیل و قیدیگان

الْحَجُّونَ

شیخ ابی طالب

غَارِ

جبل الخضر

بیل عمر

١٢

پیشکش

قدیم قلعہ

مکرم

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں
(شیخ محمد سعید فارس کی کاوش نقشہ)

عبداللہ بن عبدالمطلب کا سفرِ شام اور وفات

عبداللہ سفرِ شام سے واپسی پر بصری سے دومۃ الجندل، تہما اور خیبر سے ہوتے ہوئے یثرب پہنچے تھے جہاں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔

بُصْرَی: جنوبی شام کا یہ قدیم شہر اردن کی سرحد سے 19 میل شمال کی جانب اس سڑک پر ہے جو مغرب میں واقع درعا کو مشرق میں سلخہ سے ملاتی ہے۔ بصری کے معنی بلند قلعہ کے ہیں۔ اسے بصری الشام بھی کہتے ہیں۔ بابل میں اسے ”اوومکا“ اور ”بصورہ“ کہا گیا ہے۔ 106ء میں قدیم نبطی سلطنت کے سلطنت روم سے الحاق کے بعد بصری صوبہ عرب کا صدر مقام بن گیا۔ بازنطینی عہد میں اسے بوستر کہا جانے لگا۔ ان دنوں بصری بطریق اٹلاکیہ کے تحت استقامی کا مرکز تھا۔

(اردو دائرۂ معارف اسلامیہ جلد 4)

عہد نبوی میں بصری الشام رومی سلطنت کے تحت غسانی حکومت کا صدر مقام تھا۔ صلح حدیبیہ (6ھ) کے بعد نبی کریم ﷺ نے حاکم بصری شُرَیخیل بن عمرو غسانی کو بھی اسلام کی دعوت دی مگر اس بد بخت نے موتہ کے مقام پر سفیر نبوت حارث بن عیرازدیؓ کو شہید کر دیا جس کے نتیجے میں جنگ موتہ کا واقعہ پیش آیا۔ بصری دمشق سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب میں ہے۔

مجم البلدان (یا قوت حموی) جلد اول میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے عراق سے آکر 13ھ میں بصری اور حوران کا پورا علاقہ فتح کیا۔ اردو دائرۂ معارف اسلامیہ کے مطابق ”ابو غانم کے قرامطہ نے بصری کو تاخت و تاراج کر دیا تھا مگر سلجوقیوں نے اس کی مساجد کی تعمیر نو کے علاوہ شہر کو مستحکم کیا۔ پھر ایوبی عہد میں تعمیر نو کا کام ہوا۔ تاریخوں نے یہاں جو تباہی پھیلائی اس سے بصری قعر گمنامی میں گر گیا تاہم مملوک سلطان بصرس نے قلعہ بصری کو پھر مستحکم بنایا۔ یہ دمشق سے عثمان (فلاڈلفیا) کی شاہراہ پر اہم شہر ہے۔ چنانچہ بصری کے برکتہ الحاج (حاجیوں کا تالاب) کی دیواروں پر آج بھی حجاج کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں باقی ہیں۔“

دومۃ الجندل: عہد نبوی میں یہاں اُسَیدِ رحمران تھا۔ حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے ذوم کے نام پر اس کا نام ذومہ رکھا گیا اور پھر کے قلعے کے باعث دومۃ الجندل کہلایا۔ یہ دمشق سے سات منزلوں کے فاصلے پر وادیِ سرحان کے جنوب میں تھا۔ صحرائے نفود (سعودی عرب) کے شمال میں آج کل اس کے کھنڈر موجود ہیں۔ وہیں منذہ عمر بن خطابؓ بھی ہے۔ قیماء: یہ خیبر سے اڑھائی سو کلومیٹر شمال میں چھوٹا سا قصبہ ہے۔ مدینہ سے اس کا فاصلہ تقریباً چار سو کلومیٹر ہے۔ دومۃ الجندل سے چل کر عبداللہ کا قافلہ تیما میں ٹھہرا تھا۔ تیما سے کاروانی راستہ الاسافیہ کی طرف جاتا ہے اور شمال میں القلیبہ

کی طرف سے سڑک تبوک کو جاتی ہے۔

خیبر: عبرانی زبان میں خیبر کے معنی ہیں ”قلعہ“۔ دوسری صدی عیسوی میں فلسطین سے جلاوطن ہونے کے بعد یہودیوں نے یہاں آکر سات قلعے تعمیر کیے تھے، لہذا انہیں خیبر بھی کہتے تھے۔ قلعے یہ تھے: (1) حصن ناعم (2) قیوس (3) حصن شق (4) حصن نطاة (5) حصن سلام (6) حصن وطح (7) حصن کتبہ۔ 3ھ میں یہود مدینہ بنو نضیر بھی جلاوطن ہو کر خیبر جا کر بسے تھے۔ 7ھ میں غزوہ خیبر پیش آیا اور یہ ساتوں قلعے فتح ہو گئے۔

مدینہ منورہ سے خیبر 184 کلومیٹر شمال میں ہے۔ تقریباً 100 کلومیٹر تک راستہ تنگ اور پُر چڑ دروں میں سے گزرتا ہے۔ اس مسافت میں حرہ یعنی آتش فشانی سے جلی ہوئی چٹانیں ہیں۔ خیبر سے پندرہ بیس کلومیٹر پہلے صحرا ختم ہو جاتا ہے اور سرسبز زمین ہے جہاں ثوب ویل سے کاشتکاری ہوتی ہے۔ دس بارہ کلومیٹر زرخیز زمین کے بعد پھر چٹانیں (حرہ) اور پہاڑیاں ہیں جہاں سڑک کے دائیں جانب یہودیوں کے قلعوں کے کھنڈر واقع ہیں۔


یثرب: عبداللہ شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ دومۃ الجندل، حِمْیاء اور خیبر کے راستے یثرب پہنچے۔ اس وقت بیمار تھے۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ میں اپنے ماموں بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہروں گا۔ وہاں وہ مہینہ بھر بیماری کی حالت میں رہے۔ قافلے کے مکہ پہنچنے پر عبدالمطلب کو خبر ملی تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو گئے تھے اور انہیں دارالنائبہ میں دفن کیا گیا۔

الابواء: مدینہ سے مکہ کی شاہراہ پر خجفہ سے 23 میل دور ابواء واقع ہے۔ مستورۃ ابواء سے 28 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ آج کل اسے خریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابواء میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر ہے جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ابواء کا علاقہ 12 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ شمال کی جانب سے اسے پہاڑ نے گھیر رکھا ہے اور جنوب میں تقریباً 500 میٹر تک سیاہ نیلے ہیں۔ تاریخ مکہ المکرمہ کے مطابق ابواء کی آبادی 5 ہزار ہے۔

ابواء مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے تقریباً نصف میں وادی ودان کا ایک گاؤں ہے۔ ودان اور ابواء میں 8 تا 6 میل کا فاصلہ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پیش آنے والے غزوہ کا نام غزوۃ الابواء یا غزوۃ الودان مشہور ہے۔ (تاریخ مکہ)



نبی ﷺ کا شجرہ نسب



آل عبد مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز

نبی اکرم ﷺ کے چوتھے جد امجد عبد مناف بن قصی تھے۔ عبد مناف کی اولاد میں درج ذیل ہستیوں نے شہرت پائی: مُطَلِب: یہ عبد مناف کے چھ بیٹوں میں سب سے بڑے اور ہاشم کے بھائی تھے۔ مُطَلِب نے شاہِ حبش نجاشی کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے اور نبی ﷺ کے دادا شیبہ بن ہاشم کی پرورش کی تھی اور ان کے ہاں پرورش پانے کے باعث ہی شیبہ کا نام عبدالمطلب پڑا۔ جب مطلب شیبہ کو یثرب سے لائے اس وقت ان کی عمر سات آٹھ سال تھی اور جب عبدالمطلب جوان ہوئے تو ان کے چچا مطلب تجارت کے لیے یمن گئے اور وہاں بردمان کے علاقے میں انتقال کر گئے۔ عبد شمس: یہ ہاشم کے جڑواں بھائی تھے۔ عبد شمس اور ہاشم جب پیدا ہوئے تو ایک کی انگلی دوسرے کے پہلو سے جڑی ہوئی تھی جسے کاٹ کر الگ کیا گیا۔ عبد مناف کی اولاد میں سے دوسرے نمبر پر عبد شمس فوت ہوئے۔ ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور اُجیاد نامی جگہ پر دفن ہوئے۔

امیہ: یہ عبد شمس بن عبد مناف کے بیٹے اور ہاشم کے بھتیجے تھے۔ یہ کثرت مال اور کثرت اولاد میں مشہور تھے۔ جب ہاشم کو سقا یہ اور رقادہ کے مناصب مل گئے تو امیہ نے شرف و عزت میں ہاشم کا مقابلہ کیا اور پھر ایک کا بن کے فیصلے پر دس سال کی اختیاری جلاوطنی کا نئے شام چلے گئے۔ امیہ سے اموی خاندان کا سلسلہ چلا۔

امیہ کے بارہ بیٹے تھے: عاص، ابوالعاص، عیص، ابو العیص، عویص، ابو عمر، عمر، سفیان، ابوسفیان، حرب، ابو حرب، عنبسہ۔ ان میں سے ابوالعاص کی اولاد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان بن ابی العاص داماد رسول ﷺ اور تیسرے خلیفہ راشد تھے جبکہ حرب کی اولاد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان بن حرب نے خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ کی بنیاد ڈالی اگرچہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ ثانی بن یزید کے بعد خلافت مروان بن حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو گئی جو حضرت عثمان کے چچا زاد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور مروان دونوں رشتے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے عم زاد بھائی تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کا مجموعی عرصہ خلافت 41ھ تا 64ھ رہا۔ اور مروان بن حکم اور اس کی اولاد کا عرصہ خلافت 64ھ سے 132ھ تک تھا۔ مروان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت (24ھ تا 35ھ) میں ان کے کاتب (سیکرٹری) رہے۔ مروان کے جانشینوں میں عبد الملک بن مروان (65ھ تا 86ھ) اور ولید بن عبد الملک (86ھ تا 96ھ/705ء تا 715ء) نے بہت شہرت پائی۔

ابوطالب: یہ نبی ﷺ کے والد عبد اللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ شوال 10 نبوی میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 83 سال تھی۔ انہوں نے نبی ﷺ کی نبوت تسلیم تو کی مگر اس کا اقرار نہ کیا۔ ابوطالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔ ان کے چار

بیٹے تھے: طالب جو حالت کفر میں 2ھ میں فوت ہوئے، جعفر، عقیل اور علیؑ یہ تینوں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اور دو بیٹیاں تھیں: ام ہانی (جن کا نام فاختہ یا ہند تھا) اور حمانہ یہ دونوں مسلمان ہو گئی تھیں۔

حمزہ رضی اللہ عنہ: نبی ﷺ کے یہ چچا آپ سے چار سال بڑے تھے اور آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ محمد ﷺ اور حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ابولہب کی لوٹدی ٹوہنہ کا دودھ پیا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے تین دن پہلے اسلام لائے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے دو بیٹے عمارہ اور یعلیٰ اور ایک بیٹی امامہ تھیں۔ ایک قول کے مطابق ان کے تیسرے بیٹے عامر نامی بھی تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابولہب اور ابوعمارہ تھی۔ مدینہ میں ان کا بھائی چارہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ: عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم رسول اللہ ﷺ کے چچا تھے ان کی کنیت ابوالفضل تھی۔ ان کی ماں کا نام ثعلبہ بنت جہاد تھا۔ یہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ بچپن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ گم ہو گئے۔ ان کی ماں نے نذر مانی کہ اگر بیٹا مل گیا تو وہ خانہ کعبہ کو غلاف پہنائیں گی۔ جب عباس رضی اللہ عنہ مل گئے تو اس نے اپنی نذر پوری کی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ: نبی ﷺ سے دو یا تین سال بڑے تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے سردار تھے۔ خانہ کعبہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانا ان کے ذمے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دس بیٹے تھے۔ انہوں نے 32ھ میں مدینہ میں رحلت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہیں القحج میں دفن کیا گیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 88 برس تھی۔ (اسد الغابہ: 3/165، 166)

جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: حضرت جعفر بنی ﷺ کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گئے بھائی تھے۔ وہ علی رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے تھے۔ جب ابوطالب تنگ دست ہو گئے تو جعفر رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا مقام تقریباً چوبیسواں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے اور آپ ہی نے نجاشی اصمہ کے سامنے کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ آپ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ (ابن ہشام۔ طبری۔ اسد الغابہ)

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: علی بن ابی طالب بنی ﷺ کے چچا زاد بھائی آپ ﷺ کے تربیت یافتہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ انہوں نے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کی اور تبوک کے سوا تمام جنگوں میں شرکت کی۔ تبوک کے موقع پر نبی ﷺ نے انہیں اپنے گھر کا نگران مقرر کیا تھا۔ نبی ﷺ نے انہیں یمن کا والی مقرر کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کی: ”اے اللہ! اس کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے دل کی راہنمائی فرما۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ زہد اور عدل میں انتہائی ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ (اسد الغابہ جلد 4)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیعت عام کے ذریعے خلیفہ منتخب کیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر جنگ جمل اور جنگ صفین کے افسوس ناک واقعات پیش آئے جن میں اسی ہزار

مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ خوارج سے ہونے والی جنگ نہروان ان کے علاوہ تھی۔ آخر کار ایک خارجی عبدالرحمن بن ملجم نے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ واقعہ رمضان چالیس ہجری میں پیش آیا۔ (عشرہ مبشرہ: بشیر ساجد)

زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا: زینب بنت جحش، حضرت خدیجہ بنت جحش سے نبی ﷺ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی بعثت سے پہلے ہی اپنے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت فرمائی، تب وہ طائف میں تھیں اور انہوں نے اس وقت مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرمائی۔ ان کے شوہر جو ابھی تک مشرک تھے غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے تو حضرت زینب بنت جحش نے اپنا ہار جو حضرت خدیجہ بنت جحش کی ملکیت تھا بطور فدیہ ارسال کیا اور نبی ﷺ نے اس شرط پر انہیں رہا کر دیا کہ وہ حضرت زینب بنت جحش کو مدینے بھیج دیں۔

سریہ عیسٰی یعنی 6ھ میں ان کے شوہر دوسری بار گرفتار ہوئے اور ان کی سفارش پر پھر رہا کر دیے گئے۔ ابو العاص نے 7ھ میں اسلام قبول کر لیا اور ان کی شادی دوبارہ زینب بنت جحش سے کر دی گئی۔ حضرت زینب بنت جحش کا انتقال 8ھ میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ (ابن سعد الطبری: سیر اعلام النبلاء)

رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا: رقیہ بنت جحش، حضرت خدیجہ بنت جحش سے رسول اللہ ﷺ کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ نبی ﷺ نے ان کی شادی ابولہب کے بیٹے عتبہ سے کی تھی۔ ابولہب کے خاندان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ پھر نبی ﷺ نے ان کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور جس کے نام پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابو عبد اللہ کہلاتے تھے۔ چھ سال کی عمر میں یہ لڑکا فوت ہو گیا۔ نبی ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ ﷺ بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت رقیہ بنت جحش شدید بیمار تھیں۔ نبی ﷺ نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ بدر سے نبی ﷺ کی واپسی سے پہلے ہی حضرت رقیہ بنت جحش کا انتقال ہو گیا تھا۔ (اسد الغابہ: 4/115)

ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ عنہا: ام کلثوم بنت جحش، حضرت خدیجہ بنت جحش سے نبی کریم ﷺ کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے ابولہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی تھی۔ لیکن ابولہب کے خاندان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ حضرت رقیہ بنت جحش کی وفات کے بعد نبی ﷺ نے ام کلثوم بنت جحش کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا تھا۔ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم بنت جحش فوت ہو گئیں۔ نبی ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (اسد الغابہ: 7/374)

حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا: فاطمہ بنت جحش، حضرت خدیجہ بنت جحش سے رسول اللہ ﷺ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ یہ نبی ﷺ کو انتہائی محبوب تھیں۔ 3 ہجری میں ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ نبی ﷺ کی نسل صرف انہی سے چلی۔ نبی ﷺ نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ حضرت فاطمہ بنت جحش نبی ﷺ سے چھ ماہ بعد فوت

ہو گئیں۔ باپ کی وفات کے بعد وہ انتہائی غم زدہ رہتی تھیں، ان کو کبھی ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے نبی ﷺ پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی اولاد میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور بنی ام کلثوم تھیں۔ (دوسری بیٹی زینب تھیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت موجود تھیں۔)

(اسد الغابہ: 216/7 تا 221)

حسن بن علی رضی اللہ عنہما، حسن بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کے بطن سے تھے۔ نبی ﷺ نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہما نبی ﷺ سے انتہائی مشابہت رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کا نام حسن رکھا اور ساتویں دن ان کا عقیدہ کیا اور ان کے بال موٹے اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔

نبی ﷺ نے ان کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے 41ھ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کئی برسوں سے جاری چپقلش ختم کر کے ان سے صلح کر لی اور خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ 46، 50 یا 51 ہجری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ والیاء مدینہ سعید بن عاص اموی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

حسین بن علی رضی اللہ عنہما، حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو نبی ﷺ نے ان کے کان میں اذان دی۔ آپ نے انہیں حسن رضی اللہ عنہما کے ساتھ جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ نبی ﷺ نے خود ان کا نام رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما ابتدائی عمر ہی سے اصلاح و تعلیم کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے مطالب اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث بیان فرماتے تھے۔ عبادت و ریاضت آپ کا معمول تھا، بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ قیام اللیل آپ کا عام دستور تھا۔ روزے بکثرت رکھتے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ بچپن سے حج کیے۔ رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید ضرور ختم کرتے۔ 61ھ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کا ایک کرہناک باب ہے۔

(اسد الغابہ۔ سیر اعلام النبلاء)



حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ

نبی کریم ﷺ کا نسب شریف: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔
عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک نسب مختلف فیہ ہے لیکن سب مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”معد بن عدنان بن اود بن زید بن یسوی بن اغراق الثری“۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”زند“ سے مراد ہَمَیسَع ہے ”یسوی“ دراصل ”نبت“ یا ”نابت“ ہیں اور ”اغراق الثری“ سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔^① ”السیرۃ النبویہ“ میں یوں مرقوم ہے:

عدنان بن اود بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یثجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ محمد بن اسحاق نے سیرت میں ایسے ہی لکھا ہے۔^②

آپ کی والدہ ماجدہ کا نسب یوں ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

حضرت واثلہ بن اسحق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

”اللہ عزوجل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنو کنانہ سے قریش کو قریش سے ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔“^③

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّهُ أَعْلَمَ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ”اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کس کو منتخب فرمائے۔“

(الأنعام: 124/6)

① الطبری: 28/2

② السیرۃ النبویہ: لابن کثیر: 76/1

③ صحیح مسلم، الفضائل، باب فضل نسب النبی ﷺ، حدیث: 2276

لہذا آپ ﷺ آدم علیہ السلام کی سب اولاد کے سردار دنیا و آخرت میں ان کے لیے سرمایہ افتخار ابوالقاسم ابوالبراء ابراہیم حضرت محمد واحد ﷺ ہیں۔ آپ ماحی ہیں جن کے ہاتھوں کفر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ عاقب ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں حاشیہ ہیں کہ ساری دنیا آپ کے قدموں پر اکٹھی کی جائے گی (یعنی آپ کے نشانات پر یا آپ کے دور اور زمانے میں) 'مقفی' ہیں نبی الرحمة نبی التوبہ اور نبی الملاحمہ ہیں خاتم النبیین ہیں فاتح ہیں شاہد ہیں بشیر و نذیر ہیں سراج منیر ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رؤف و رحیم بنایا، آپ نعمت عظمیٰ ہیں بنی نوع انسان کے لیے ناصح اور ہادی ہیں..... غرض کہاں تک ذکر کیا جائے۔

آنچہ خواہاں ہمدارند تو تنہا داری ①

رسول اللہ ﷺ کے چچے اور پھوپھیاں: سردار عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے: (1) عبد اللہ (2) ابوطالب 'ان کا نام عبد مناف تھا (3) زبیر ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ تھی۔ (4) عباس جو کہ خلفائے عباسیہ کے جد امجد ہیں۔ (5) ضار ان دونوں کی والدہ فتیلہ عمریہ تھی۔ (6) حمزہ (7) منقوم ان دونوں کی والدہ ہالہ بنت وہب تھی۔ (8) ابولہب عبد العزیٰ اس کی والدہ بنو خزاعہ سے تھیں۔ (9) حارث ان کی والدہ صفیہ تھیں جن کا تعلق بنو عامر بن ضحفہ سے تھا۔ (10) غیداق ان کا نام جحل تھا اور ماں کا نام منقہ تھا۔ اور عبدالمطلب کی چھ بیٹیاں تھیں: (1) صفیہ (2) ام حکیم بیضاء (3) عاتکہ (4) امیہ (5) ارڈی (6) ہرہ۔

آپ ﷺ کے چچاؤں میں سے صرف حمزہ اور عباس علیہ السلام لانے کا شرف حاصل ہوا اور پھوپھیوں میں سے بالاتفاق حضرت صفیہ علیہا السلام ہوئیں۔ یہ حضرت زبیر بن عوام علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ لمبی عمر پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 ہجری میں فوت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔


آپ ﷺ کے والد عبد اللہ تھے جو اپنے والد سردار عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ② انہیں "ذبیح غانی" بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبیح کیے گئے۔ (جب کہ ذبیح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں)

نبی کریم ﷺ کی پیدائش: آپ ﷺ 12 ربیع الاول ③ عام الفیل 571ء کو بروز سوموار فجر کے وقت ہجرت سے 53

① محمد رسول اللہ ﷺ از محمد رضا ص: 22۔ مصنف نے آپ کے اسماء کے بارے میں مروی تمام احادیث بیان کی ہیں۔

② مصنف رحمہ اللہ کا مطلق طور پر سردار عبد اللہ کو سردار عبدالمطلب کا سب سے چھوٹا نعت جگر قرار دینا مکمل نظر ہے کیونکہ مؤرخین کے اقوال کے مطابق سردار عبدالمطلب نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہالہ بنت وہب سے اسی دن نکاح کیا تھا جس دن ان کے بیٹے عبد اللہ نے آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا تھا۔ (السطیفات الکبریٰ: 95/1) نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے دو یا چار سال بڑے تھے۔ (الإصابة: 105/2) لہذا سردار عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہاں ایہ کہا جاسکتا ہے کہ جب عبدالمطلب نے ایک بیٹے کو ذبیح کرنے کی اپنی نذر پوری کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی تو اس وقت عبد اللہ سب سے چھوٹے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

③ آپ ﷺ کی تاریخ ولادت میں مؤرخین نے اختلاف کیا ہے، طبری اور ابن خلدون نے 12 ربیع الاول اور حافظ ابن کثیر نے 10 ربیع الاول لکھی ہے مگر سب کا اتفاق ہے کہ دن جری کا تھا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے کیونکہ صحیح کا دن 9 تاریخ کے سوا کسی دوسری تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا لہذا تاریخ ذی القرب والاسلام میں محمد طلعت عرب نے 9 تاریخ ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔



سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ایک رائے کے مطابق آپ 30 اگست 570ء کو پیدا ہوئے۔

آپ ﷺ کو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ اور ان کے علاوہ ثویبہ اسلمیہ، خولہ بنت منذر اور ام ایمن نے دودھ پلایا اور سب سے زیادہ دودھ حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ نے پلایا۔

آپ ﷺ کے والد عبد اللہ بن عبد المطلب شادی سے تھوڑی دیر بعد مکہ مکرمہ سے شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر یثرب (مدینہ منورہ) میں بحالت مرض قیام کیا۔ وہاں ان کے ماموں بنو نجار رہتے تھے۔ آپ مریض تھے اس لیے ان کے پاس ایک ماہ مہرے حتیٰ کہ وہیں فوت ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ بعض نے 28 سال بھی لکھی ہے۔ ابھی ان کے بیٹے حضرت محمد ﷺ کے حمل کو صرف دو ماہ ہوئے تھے۔

575ء یا 576ء میں آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں تاکہ آپ اپنے نفعیال بنو نجار سے ملاقات کر سکیں۔ بنو نجار آپ کے دادا عبد المطلب کے بھی نفعیال تھے۔ جب وہ واپس مکہ مکرمہ آ رہی تھیں تو راستے میں بیمار ہو گئیں اور ابواء کے مقام پر وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت چھ سال کے تھے اور آمنہ 30 سال کی تھیں۔ آپ کی جشی خادمہ ام ایمن برکہ نے آپ کو اپنی نگہداشت میں لے لیا اور بحفاظت آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچا دیا۔ وہ بھی دو سال بعد 578ء میں وفات پا گئے۔ پھر آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ 582ء میں جب آپ کی عمر بارہ سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ قافلہ بصری شہر میں ٹھہرا جہاں بحیری راہب کا عبادت خانہ تھا۔ آپ ﷺ جنگ فجار میں بھی شریک ہوئے۔ یہ جنگ قریش اور بنو کنانہ و ہوازن کے درمیان ہوئی۔ اس وقت آپ 15 سال کے تھے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے جنگ فجار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا میں ان کو تیر پکڑا تھا۔“

نیز تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ہیست دان عالم محمود پاشا لکھی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571ء کو ہوئی تھی۔ محمود لکھی نے جو استدلال کیا ہے وہ کئی سطحوں میں آیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:


(۱) صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم (بی ﷺ کے صاحبزادے) کے انتقال کے وقت آفتاب کو گہن لگا تھا اور سن 10ھ تھا (اور اس وقت آپ ﷺ کی عمر کا تریسٹھواں سال تھا۔)

(۲) ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10ھ کا گہن 7 جنوری 632ء کو 8 بجکر 30 منٹ پر لگا تھا۔

(۳) اس حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری 63 برس پیچھے پیش تو آپ کی پیدائش کا سال 571ء ہے جس میں ازروئے قواعد ہیست ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 مارچ 571ء کے مطابق تھی۔

(۴) تاریخ ولادت میں اختلاف ہے لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا اور تاریخ 8 سے لیکر 12 تک میں منحصر ہے۔

(۵) ربیع الاول مذکور ان تاریخوں میں دوشنبہ کا دن نویں تاریخ کو پڑتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر تاریخ ولادت قطعاً 9 ربیع الاول برطانیہ 20 اپریل 571ء بنتی ہے۔ (سیرت النبی از شبلی نعمانی ص 108-109)



آپ ﷺ حلف الفضول میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ فجار سے قریش کی واپسی کے وقت کی بات ہے۔ قریش عبد اللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر عہد کیا کہ ”ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے حتیٰ کہ اس کی حق ادائی ہو جائے۔“ آپ بعد میں فرمایا کرتے تھے: ”میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس حلف الفضول کے بدلے میں سرخ اونٹ دیے جاتے۔ اگر آج بھی مجھے ایسے حلف کی طرف دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔“^①

جب آپ ﷺ کی عمر 25 سال ہو گئی تو آپ 595ء میں ایک معزز قریشی خاتون خدیجہ بنت خویلد کا تجارتی سامان لے کر شام تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب شام سے واپسی ہوئی تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو آپ ﷺ کے آنکھوں دیکھے اوصاف بتائے: ”جب دو پہر ہوتی تھی اور گرمی زیادہ ہوتی تھی تو دو فرشتے دھوپ میں آپ پر سایہ کرتے تھے۔“ اس نے تفصیل سے بیان کیا کہ آپ سامان کیسے فروخت کرتے تھے اور عام لوگوں سے دگنا منافع ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی انتہائی عقل مند مال دار اور معزز خاتون تھیں۔ نسب کے لحاظ سے بھی بلند مرتبہ تھیں ذاتی عظمت و شرافت کے لحاظ سے بھی بے مثال تھیں۔ جاہلیت میں بھی ان کو ”طاہرہ“ اور ”سیدہ قریش“ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں شادی کی پیش کش کی تھی مگر انہوں نے قبول نہ کی تھی۔ مگر جب انہوں نے میسرہ سے آپ ﷺ کی شخصیت کا حقیقی تعارف سنا تو بہت متاثر ہوئیں اور خود شادی کے بارے میں سلسلہ جنبانی کی۔ بالآخر آپ ﷺ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔

حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی سب اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے۔ آپ کی باقی اولاد کی ترتیب یوں ہے: قاسم طیب (طاہر) رقیہ^②، زینب ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔

آپ ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں آپ متفقہ طور پر ”الامین“ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ اہل مکہ آپ کے پاس ہجرت مدینہ تک اپنی امانتیں بے دھڑک رکھتے رہے۔ مدینہ منورہ جاتے وقت آپ اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے تاکہ وہ امانتیں واپس کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام امانتیں واپس کرنے کے بعد ہجرت کی۔

جب وحی کے دن قریب آ گئے تو آپ ﷺ کو علیحدہ رہنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ عار حرام میں الگ بیٹھ کر کئی کئی راتیں عبادت کرتے رہتے۔ آپ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو جبریل علیہ السلام پیغام نبوت لے کر آئے۔ سب سے پہلی قرآنی وحی آپ کی پیدائش کے اکتالیسویں برس بروز پیر 17 رمضان المبارک کو آپ پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر قمری لحاظ سے چالیس سال چھ ماہ آٹھ دن تھی۔ شکی لحاظ سے یہ واقعہ 6 اگست 610ء کو عار حرام میں پیش آیا۔


① ابن سعد: 1/129

② مصنف محترم نے رقیہ کا نام زینب سے پہلے لکھا ہے جبکہ علامہ شبلی نعمانی نے بیان کیا ہے کہ اہل سیر کا اتفاق ہے کہ لڑکیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔

آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ پر ایمان لائے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

www.KitaboSunnat.com •





عرب: دیہاتی ماحول

نبی کریم ﷺ کی پرورش، سفر اور مقامات سفر حلیمہ سعدیہ نبی کریم ﷺ کی رضاعی ماں

رسول اللہ ﷺ حلیمہ کے گھر میں: شرفاء مکہ کا دستور تھا کہ وہ بچوں کو پیدائش کے آٹھ دن بعد بدوی دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر دیتے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائیں اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیں چنانچہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث مکہ آئے تو حضرت محمد ﷺ کو حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا جنہوں نے دو سال تک آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کی برکت سے حلیمہ کے دودھ میں اضافہ ہوا اور ان کے جانور بھی زیادہ دودھ دینے لگے نیز ان کے کھیت سرسبز ہو گئے اور قحط سالی خوش حالی میں بدل گئی۔ حلیمہ کے ہاں آپ ﷺ نے آٹھ ماہ کی عمر میں پہلی گفتگو فرمائی۔ آپ اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور تین برس کی عمر میں ان کے ساتھ بکریاں چرانے بھی جاتے رہے۔ آپ کی ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال وہیں شرفاء کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ چھوڑ گئیں۔

خییات بنو سعد: جدہ سے 30 میل پر اور مکہ سے 10 میل دور حدیبیہ واقع ہے۔ آج کل اسے شمیمی کہتے ہیں۔ حضرت محمد ﷺ کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد حدیبیہ کے آس پاس اور طائف کے نواح تک آباد تھا۔ طائف کے قریب خییات کے علاقے میں حلیمہ کا تعلق شیط نامی پہاڑی گاؤں سے تھا جو مرکز کے راستے مکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ سیدھا پہاڑی راستہ 60 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ طائف سے یمن جانے والی شاہراہ پر 20 کلومیٹر جائیں تو شقصان کے مقام سے دائیں طرف سڑک نکلتی ہے جو خییات تک لے جاتی ہے۔ خییات کا مرکزی مقام الحصن ہے جہاں آبادی اور بازار ہے۔ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) ص 66، 65 پروفیسر عبدالرحمن عبد)

شیماء بنت عبدالمطلب: حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے شوہر حارث بن عبد اللہ بعثت نبوی کے بعد مکہ آ کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ جب رضاعت کے لیے نبی ﷺ خییات بنو سعد میں لائے گئے تھے تو حلیمہ کی بیٹی شیماء پانچ چھ سال کی تھیں جنہوں نے ننھے محمد ﷺ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا۔ وہ آپ کو گود میں لیے پھرتی تھیں۔ انہی شیماء کی وجہ سے حارث رضاعی کی کنیت ابو شیماء تھی۔ عبد اللہ بن ابوشیماء، نبی ﷺ کے رضاعی بھائی آپ کے ہم عمر اور دودھ شریک تھے۔ غزوہ ہوازن کے موقع پر قیدیوں میں شیماء بھی آئیں۔ نبی ﷺ نے انہیں پہچان لیا اور ان کی تکریم کی اور انہیں ان کے خاندان میں واپس بھیج دیا۔ اصافہ میں ہے کہ وہ اس موقع پر مسلمان ہو گئیں۔ ان کی رعایت سے بنو ہوازن کے 6 ہزار قیدی رہا کر دیے گئے اور ان کے اموال بھی لوٹا دیے گئے۔

شہ حطہ: نبی کریم ﷺ نے جس گاؤں میں بچپن گزارا وہ ایک پہاڑی پر آباد ہے۔ پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ حلیمہ کے مکان کے نیچے ایک کنواں ہے جس میں اب نیوب ویل لگا ہے۔ غالباً اسی کنویں سے نبی رحمت ﷺ سیراب ہوتے رہے۔ حلیمہ کا مکان محفوظ کرنے کے لیے اس کا سارا احاطہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔

یہودی کی پیش گوئی: ذاکر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ ”نبی ﷺ اپنی رضاعی ماں کا صرف ایک طرف کا دودھ پیتے تھے اور ماں دوسری طرف سے پلانا بھی چاہتی تو نہ پیتے کہ یہ بھائی کا حصہ ہے۔ بچپن میں کسی بات پر مجھل کر آپ نے شیاء کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ ان کے کندھے پر عمر بھر اس کا نشان رہا۔ اور ایک بار آپ حلیمہ کی گود میں سوق عکاظ جیسے ایک میلے میں گئے تو ایک یہودی فال گونے آپ کو دیکھ کر شور مچا دیا: ”یہودیو! دوڑو! اس بچے کو قتل کرو۔ یہ تمہیں جڑے اکھاڑ دے گا۔“

شق صدر: نبی ﷺ 2 سال کے ہوئے تو حلیمہ آپ کو مکہ لے گئیں مگر شہر میں وبا پھیلی ہونے کے باعث واپس شہلے آئیں۔ سیرت ابن اسحق میں حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے: ”واپس آ کر تین ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز وہ بچہ (محمد ﷺ) اپنی رضاعی بہن کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے بکریوں کے پاس تھا۔ اتنے میں اس کا بھائی (عبداللہ) دوڑتا آیا اور کہا کہ میرے قریشی بھائی کے پاس دوسفید پوش آئے اور انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ میں اور میرا شوہر بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہ بچہ کھڑا ہے اور اس کا رنگ فق ہے۔ اس کے باپ نے اسے لپٹا کر پوچھا: ”بیٹا! تجھے کیا ہو گیا؟“ اس نے کہا: ”سفید کپڑوں میں لمبوس دو آدمی آئے مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ پھر ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔“ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم اسے گھر واپس لائے تو میرے شوہر نے کہا: حلیمہ مجھے ڈر ہے اس بچے کو کچھ ہونہ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے چنانچہ ہم اسے اس کی ماں کے پاس مکہ لے گئے۔“ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حلیمہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ فتح مکہ کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا جزانہ کے مقام پر ملیں تو آپ ﷺ نے اپنی چادر بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر بتایا: ”یہ میری ماں ہیں انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔“

شام کا پہلا سفر: نبی کریم ﷺ نے شام کا پہلا سفر بارہ سال کی عمر میں ابوطالب اور حارث بن عبدالمطلب کے ساتھ کیا جو تجارت کی غرض سے شام گئے تھے۔ اس سفر کے وقت آپ ﷺ کی عمر تیرہ چودہ سال بیان کی جاتی ہے۔ آپ اپنے دونوں چچاؤں کے ہمراہ یرب حنہ اور دومۃ الجندل سے ہوتے ہوئے بصری (شام) پہنچے۔ بصری میں آپ کی ملاقات نصرانی راہب بکیرا سے ہوئی جس کا اصل نام برجیس تھا۔ بکیرا نے نبی ﷺ کو دیکھ کر پیشگوئی کی کہ آپ (ﷺ) اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور یہ کہ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور اللہ آپ کو رحمة للعالمین بنا کر بھیجے گا۔

زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ: نبی ﷺ کے چچا اور شریک تجارت تھے۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ کا ترکہ زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کاروبار میں لگا دیا تھا۔ نبی ﷺ نے دس برس کی عمر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کے دوسرے چچا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے جو یمن سے عطر لا کر ایام حج میں فروخت کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کئی سفر کیے جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔

سائب بن عبد اللہ مخزومی (رضی اللہ عنہ) بھی آپ کے شریک تجارت تھے۔ وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ میرے شریک تجارت تھے کتنے اچھے شریک تھے۔ نہ کھینچا تانی کرتے نہ جھگڑا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے حیرہ اور غزہ کے تجارتی سفر بھی کیے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ بھی زمانہ جاہلیت میں نبی کریم ﷺ کے شریک تجارت تھے۔ وہ تیل اور چمڑا فروخت کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ جب خدیجہ بنت خویلد کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد کے عزیز خویلد بن حکیم سلمی رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ (الاصابہ جلد 2 ص 242)

حیرہ: یہ شہر کوفہ سے 3 میل جنوب مغرب میں واقع تھا۔ عہد جاہلیت میں یہ بنو ثعلبہ کے بادشاہ نعمان بن منذر کا دار الحکومت تھا۔ بقول زجاجی حیرہ کا بانی مالک بن زبیر قضاعی تھا۔ آج کل اسے نجف کہتے ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرقد ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تبع یمن جب لشکر لے کر اس علاقے سے گزرا تو راستہ بھول گیا اور اس کے حیران و پریشان ہونے کے باعث اس کا نام حیرہ پڑ گیا۔ قدیم حیرہ کے کھنڈر نجف کے شمال میں ملتے ہیں۔ (معجم البلدان جلد 2)

غزہ: چونکہ یہاں نبی کریم ﷺ کے جد امجد ہاشم کا انتقال ہوا اور یہیں وہ دفن ہوئے اس لیے اس شہر کو غزہ ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہیں امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے پھر ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ غزہ اور عسقلان (اسرائیل کے زیر قبضہ) کے مابین دو فرسخ (6 میل) کا فاصلہ ہے۔ غزہ کی پٹی کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے جو بحیرہ روم کے ساحل پر اسرائیل اور مصر کے درمیان واقع ہے۔ غزہ کی پٹی جو 67-1948ء کے دوران میں مصر میں شامل تھی جون 67ء کی جنگ میں اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ غزہ کی پٹی مجوزہ فلسطینی ریاست میں شامل ہوگی۔ یہاں دیگر بڑے قصبے خان یونس، رفح اور دیر البلیح ہیں۔

مدینہ سے العطا	520 کلومیٹر تقریباً	خیبر سے تیماء	250 کلومیٹر تقریباً
العطا سے مدائن صالح	40 کلومیٹر تقریباً	تیماء سے تبوک	266 کلومیٹر تقریباً

راہب بحیرا (بحیرہ) کا گرجا: رومی عہد میں اسقفیہ کبریٰ کی وجہ سے بصری میں ایک باسلیق (مخروطی دارالقضاء) قائم تھا۔ اس کے قریب سینٹ سر جنس کی خانقاہ تھی جس میں ایک بڑا گرجا بھی تھا جس کی دیواریں اور محراب ابھی تک باقی ہیں۔ یہیں بحیرا راہب کی اقامت گاہ تھی جس نے نبی کریم ﷺ کی آئندہ رسالت کی اس وقت گواہی دی جب آپ اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ بصری آئے تھے۔


جامع مسجد عمرک الثالثہ: یہ مسجد بصری میں اس مقام پر واقع ہے جہاں اس اونٹ نے گھٹنے ٹیک دیے تھے جو قرآن مجید کے ”شامی“ نسخے کو لیے جا رہا تھا۔ ”بہت قدیم“ مسجد مبرک کے ساتھ ایک حنفی مدرسہ تھا جو اس کے پہلو میں 530ھ/1136ء میں بنایا گیا تھا۔ مسجد مبرک کے گرد گرد ایک مشہور قبرستان تھا جو اب بھی باقی اور شہر کے جنوبی مقبرہ شہداء کا جوڑ ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 4)



بحیری راہب کی خانقاہ کا اندرونی منظر



بحیری راہب کی خانقاہ کا بیرونی منظر (بصری الشام)



جامع مبرک القادہ
کا اندرونی حصہ

قرآن کا شای نسخہ لے جانی والی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ پر بنی ہوئی مسجد (جامع مبرک القادہ) کا بیرونی حصہ (بصری الشام)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جنگ فجار

(580-590ء)

اس جنگ کو جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی حرمت والے مہینے میں ہوئی اور یہ بہت فسق و فجور والی بات تھی۔ یہ جنگ عکاظ کے مقام پر ہوئی اور بہت سی حرمتیں پامال کی گئیں۔ جنگ فجار چار مرحلوں میں ہوئی:

- ❖ پہلی جنگ فجار بنو کنانہ اور بنو ہوازن کے درمیان ہوئی جنہیں قیس عیلان بھی کہا جاتا تھا۔
- ❖ دوسری جنگ فجار قریش اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔
- ❖ تیسری جنگ فجار بنو کنانہ اور بنو نصر بن معاویہ کے درمیان ہوئی۔
- ❖ چوتھی جنگ فجار قریش اور بنو کنانہ نیز ہوازن کے درمیان ہوئی۔

نبی کریم ﷺ اس آخری جنگ فجار میں شریک ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ۱۵ سال تھی۔

آخری جنگ فجار کا سبب: حیرہ کے حاکم نعمان بن منذر نے عکاظ کی منڈی میں تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھیجے۔ بنو ہوازن کے سردار ”عروۃ الرجال“ کی پناہ میں یہ قافلہ پہنچا۔ یہ لوگ ”ادارہ“ نامی ایک کنویں کے قریب ٹھہرے تو بنو کنانہ کے ایک شخص ”یزاض بن قیس“ نے اچانک عروہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا پھر بھاگ کر خیبر میں جا چھا۔ وہاں ایک مشہور شاعر بشر بن ابی خازم اسدی سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے پورا واقعہ بتا دیا اور کہا کہ یہ بات عبداللہ بن جُدعان، ہشام بن مغیرہ، حرب بن امیہ، نوفل بن معاویہ، دہلی اور بلعاء بن قیس تک پہنچا دے۔ بشر عکاظ میں گیا تو اس نے ان کو یہ بات بتادی۔ انہوں نے بھاگ کر حرم میں پناہ حاصل کر لی۔ قیس عیلان کو بھی اسی دن یہ خبر پہنچ گئی۔ بنو ہوازن کے سردار ابو براء نے کہا قریش نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ میں رکھا ہے لہذا وہ ان کے پیچھے بھاگے مگر وہ حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ بنو عامر کے ایک شخص اور بنو شعیب نے بلند آواز سے کہا: ”ہمارا تمہارا مقابلہ انہی دنوں آئندہ سال ہوگا اور ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔“

اس سال عکاظ کی منڈی بھی نہ لگی۔ قریش، کنانہ، بنو اسد بن خزیمہ اور ان کے دوسرے حلیف قبائل نے پورا سال جنگ کی تیاری میں گزارا۔ قیس عیلان (بنو ہوازن) نے بھی بحر پور تیاری کی۔ اگلے سال دونوں فریق آمنے سامنے تھے۔ قریش کے سردار عبداللہ بن جُدعان، ہشام بن مغیرہ، حرب بن امیہ، ابو اُحیحہ سعید بن عاص، عتبہ بن ربیعہ، عاص بن وائل، معمر بن حبیب، جُمحی اور عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد اللہ ارتھے۔ یہ سب مساوی حیثیت سے نکلے۔ ان کا کوئی متفقہ امیر نہ تھا۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ عبداللہ بن جُدعان سالار اعلیٰ تھا۔

ادھر قیس عیلمان کے سردار ابو براء عامر بن مالک بن جعفر، سبیح بن ربیعہ بن معاویہ نصری، اس کا بھائی ربیعہ بن معاویہ، ذرید بن صمہ، مسعود بن معتب، ابو معتب، ابو عروہ بن مسعود، عوف بن ابی حارثہ مزی اور عباس بن رعل سلمی تھے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ کمانڈر تھے۔

بعض مؤرخین کے مطابق ان کا سالار اعلیٰ ابو براء تھا اور جھنڈا اسی کے ہاتھ میں تھا، نیز صف بندی بھی اسی نے کی۔ مقابلہ شروع ہوا تو آغاز میں بنو ہوازن اور ان کے خلفاء کی شکست کے آثار نظر آتے تھے لیکن پچھلے پہر شکست قریش اور کنانہ کا مقدر بنی۔ قیس عیلمان نے خوب قتل کا بازار گرم کیا حتیٰ کہ قریش کے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ نے صلح کا نعرہ لگایا۔ اتفاق اس بات پر ہوا کہ مقتول شمار کیے جائیں۔ قریش نے قیس عیلمان کے زائد مقتولوں کی دیت ادا کی۔ جنگ ختم ہو گئی اور فریقین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

نبی اکرم ﷺ بھی اس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھے۔ بعد میں آپ نے فرمایا: ”میں اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑا تا تھا۔“

حلف الفضول (پاکیزہ لوگوں کا حلف): قریش فجار کی جنگ سے لوٹے تو یہ معاہدہ قائم ہوا اور یہ بہترین معاہدہ تھا۔ زبیر بن عبدالمطلب نے سب سے پہلے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ نتیجتاً بنو ہاشم، بنو ہرہ اور قبیلہ تیم عبد اللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ اس نے سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد کیا کہ ”ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک اسے اس کا حق نہیں مل جاتا۔“

آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ابن جدعان کے گھر والے حلف کے بجائے مجھے سرخ اونٹ مل جاتے۔ قابل تعریف ہیں بنو ہاشم، بنو ہرہ اور قبیلہ تیم جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک سمندر میں ایک قطرہ پانی بھی موجود ہے۔ اگر آج بھی مجھے اس معاہدہ کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔“^①


علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ”المسیرۃ النبویۃ“ میں یوں مرقوم ہے:

”بنو ہاشم، بنو ہرہ اور بنو تیم بن مرہ عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر باہمی معاہدہ کیا کہ جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے اور جب تک حراء اور ثبیر پہاڑ اپنی جگہ موجود ہیں وہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں یکجان ہوں گے حتیٰ کہ اسے اس کا حق مل جائے نیز آپس میں ہمدردی اور غم خواری کا سلوک کریں گے۔“^②



① ابن سعد: 1/129

② المسیرۃ النبویۃ ابن کثیر: 1/257



جنگ فجار کے مقامات

السَّيْلُ الْكَبِيرُ: یہ مکہ سے تقریباً 94 کلومیٹر پر قدرے شمال مشرق میں اور طائف سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ ایک برساتی نالہ ہے جسے قدیم زمانے میں نخلہ کہتے تھے۔ ۲۰ نخلہ میں مسلمانوں کی ایک ٹولی اور مکہ کے تجارتی قافلے میں جھڑپ ہوئی تھی جو غزوہ بدر کا ایک سبب بنی تھی۔

عرب ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو عکاظ میں جمع ہو جاتے تھے جو سئل الکبیر کے پاس تھا۔ عکاظ میں 20 روز گزار کر محرم میں آ جاتے۔ سوقِ محرم کے میلے میں دس روز گزارتے اور ذوالحجہ کا ہلال دیکھ کر ذوالحجاز میں چلے جاتے۔ یہاں آٹھ روز رہتے پھر 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے عرفات میں آ جاتے۔۔۔۔۔ ان میں سے سوقِ عکاظ بہت مشہور تھا۔ حربِ فجار بھی یہیں ہوئی تھی۔ مکہ سے اب ایک روز نامہ عکاظ بھی نکلتا ہے۔

رسالت مآب ﷺ بھی اپنے لڑکپن میں یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ ﷺ نے قس بن ساعدہ کا شیریں اور موثر خطبہ سنا تو آخر عمر تک اس کا تاثر نبی ﷺ کے ذہن میں رہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”گویا میں اب بھی اپنی آنکھوں سے قس بن ساعدہ کو سوقِ عکاظ میں ایک بچے ہوئے اونٹ پر بیٹھ دیکھتا ہوں اور وہ اپنی شیریں کلامی سے لوگوں کے کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔“ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) عرفات..... پروفیسر عبدالرحمن عبد)

السَّيْلُ الْكَبِيرُ ایک کھلی وادی میں واقع ہے اور اس میں جا بجا چائے کی دکانیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی السَّيْلُ الْكَبِيرُ وہ قرن المنازل ہے جس کو حدیث میں اہل نجد کے لیے میقات مقرر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قرن المنازل اس کے دائیں طرف ایک پہاڑ کا نام ہے اور یہ اس کے قریب اور سیدھ میں واقع ہے اس لیے طائف اور نجد کی طرف سے آنے والے تمام حاجی یہیں (السَّيْلُ الْكَبِيرُ) سے احرام باندھتے ہیں۔ ایک شاندار غنی مسجد بھی یہاں بنی ہوئی ہے۔

(سفر نامہ ارض القرآن۔ روداد سفر سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ ص 131)

تَنْعِيم: یہ مکہ سے کم و بیش 18 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ اس کے دائیں جانب پہاڑ نعیم اور بائیں جانب ناغم تھا اور وادی کو نعمان کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام تنعیم مشہور ہوا۔

غَسْفَان: یہ حدیبیہ سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں ہے۔ مکہ سے عسفان تقریباً 42 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ عہد نبوی میں یہ مکہ اور جحفہ کے درمیان ایک گھاٹ تھا۔ ایک قول کے مطابق سیلاب کی سختی اور تباہی کے باعث اس کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ حُذَیْبِیہ: یہ مقام جو صلح حدیبیہ کے لیے مشہور ہے مکہ کرمہ کے مغرب میں تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جدہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 48 کلومیٹر ہے۔ آج کل اُسے شمیمی کہتے ہیں۔

خُلَیص: یہ مکہ سے مدینہ کی جانب شمال مغرب میں ایک قلعہ تھا۔ مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 90 کلومیٹر ہے۔
طائف: سعودی عرب کا یہ شہر حجاز میں مکہ کے جنوب مشرق میں جبل غزوٰان پر واقع ہے جس کی بلندی 1630 میٹر ہے۔
طائف کی آبادی سوا دو لاکھ (سے زائد) ہے۔ موسم گرما میں اس کی آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے۔ یہاں کے انار اور انگور اور عطریات مشہور ہیں۔

طائف سعودی مملکت کا گرمائی صدر مقام ہے۔ طائف سے مشرق میں الریاض اور جنوب میں ابہا، جیزان اور نجران کو شاہراہیں نکلتی ہیں۔

طائف کے شمال میں وادی حنین میں شوال 8ھ میں غزوہ حنین پیش آیا تھا جس میں ہوازن اور ثقیف قبائل نے شکست کھائی اور طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر طائف کا محاصرہ کر لیا جو طول پکڑنے پر اٹھالیا گیا۔ 9ھ میں بنو ثقیف نے اسلام قبول کر لیا جب ان کا وفد مدینہ پہنچا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے طائف پہنچ کر ان کے باطل معبود ”لات“ کو نابود کر دیا۔ مشہور سپہ سالار ابو عبیدہ ثقفی، مختار ثقفی، گورنر عراق حجاج بن یوسف اور فاتح سندھ محمد بن قاسم کا تعلق قبیلہ ثقیف ہی سے تھا۔ طائف میں 1982ء میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کی تیسری کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔
پہلے طائف کا مکہ سے فاصلہ 96 کلومیٹر تھا جو جدید سڑک سے 65 کلومیٹر رہ گیا ہے۔

جنگ فجار میں حصہ لینے والے قبائل

بنو ہوازن: یہ عدنانی قبیلہ ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن ھضہ بن قیس بن عیلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان کی اولاد تھا اور طائف کے شمال میں وادی حنین اور یمن کی طرف نجد میں آباد تھا۔ بکر بن ہوازن سے اس قبیلے کی تین شاخیں تھیں: بنو سعد بن بکر، بنو معاویہ بن بکر اور بنو مُنْجِبہ بن بکر۔ یہ بہت جنگجو قبیلہ تھا۔ پہلے ہوازن اور اس کی ایک شاخ ثقیف میں جنگ انتان پاپ ہوئی۔ پھر ہوازن اور قریش میں یوم شظہ کا معرکہ پاپا ہوا۔ بعد میں بنو ہوازن نے پہلی ”جنگ فجار“ بنو کنانہ سے اور چوتھی ”جنگ فجار“ قریش سے لڑی۔

قیس عیلان: یہ قبیلہ قیس بن عیلان بن مضر سے منسوب ہے۔ قیس عیلان یمن کی طرف نجد کے علاقے میں اور طائف کے شمال میں حنین کے گرد و نواح میں بستے تھے۔ قبیلہ ہوازن بھی قیس عیلان کی ایک شاخ تھا اور اس کا جد امجد ہوازن بن منصور، قیس بن عیلان کی چوتھی پشت میں تھا۔

کنانہ: قریش کے جد امجد کنانہ بن خزیمہ کی اولاد میں بنو کنانہ مکہ کے شمال مغرب میں عسفان، دہبان اور خُلَیص کے درمیان آباد تھے۔ پہلی ”جنگ فجار“ کنانہ اور ہوازن کے درمیان ہوئی تھی دوسری ”جنگ فجار“ کنانہ اور قریش کے مابین برپا ہوئی۔ بنی نصر بن معاویہ: یہ عدنانی قبیلہ ہوازن (قیس عیلان) کی ایک شاخ ہے اور نصر بن معاویہ بن بکر بن ہوازن سے منسوب ہے۔ یہ لوگ طائف کے مشرق میں وادی لیہ میں رہتے تھے۔ ان کی بستیاں جلدان (قرب طائف میں) اور ابراق

(نجد) میں تھیں اور ان کے چٹھے بردان (حجاز) اور احامرہ نامی تھے۔ انہوں نے جنگ غطفان میں عبداللہ بن صمد کے ساتھ شرکت کی۔ درید بن صمد نے بنو ربیع کے لیے جو جنگیں لڑیں ان میں یہ درید کے مددگار تھے۔ بنو نصر بن معاویہ نے تیسری جنگ فجار میں بھی شرکت کی اور غزوہ حنین میں ثقیف اور ہوازن کا ساتھ دیا۔ (معجم قبائل العرب جلد 3) نوٹ: اطلس السیرۃ النبویہ (عربی) میں بنو نصر کو صفحہ 53 پر اور نقشے (ص 55) میں ”بنو نصر“ لکھا گیا ہے جو کہ درست نہیں۔

ثقیف: یہ قبیلہ طائف کے گرد و نواح میں رہتا تھا۔ بنو ثقیف کا جد امجد قس بن عرف ثقیف بن مدہ بن بکر بن ہوازن بن منصور تھا۔ گویا یہ قبیلہ بنو ہوازن کی ایک شاخ تھا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا جس میں ہوازن اور ثقیف نے جان توڑ مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ اس جنگ میں ہوازن و ثقیف کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ (معجم قبائل العرب جلد 1)



حلف الفضول

حرب فجار کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں پانچ قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے ”حلف الفضول“ کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں:

- | | |
|--------------|--------------|
| (۱) بنو ہاشم | (۲) بنو مطلب |
| (۳) بنو اسد | (۴) بنو زہرہ |
| (۵) بنو نضیم | |

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید (یحییٰ) کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار بنو مخزوم بنو جحش بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، چنانچہ اس نے جبل ابی قیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو نضیم کے سردار عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے مطابق عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔

اس عہد و پیمان میں نبی ﷺ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ ”میں عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدہ میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر مجھے اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو میں اسے یقیناً قبول کرتا۔“ (الزحیق المنحوم ص 77)



حُمْس..... ”قریش کی بدعت“

حُمْس، حُمْس سے مشتق ہے جس کا معنی شدت اختیار کرنا ہے۔ اَحْمَسُ، حَمَسُ اور مُتَحَمِّسُ تشدد و شخص کو کہتے ہیں۔ یعنی جو شخص دین میں اپنے لیے تشدد اختیار کرے۔ (اَحْمَسُ کی جمع حُمْس ہے) قریش نے یہ بدعت ایجاد کی: ابن اسحاق لکھتے ہیں: ”قریش نے حَمَس کا نہ صرف عقیدہ ایجاد کیا بلکہ اس کو عمل میں بھی لے آئے تھے لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ایجاد واقعہً فیل سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ وہ سمجھتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حرم کے باسی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں اور خاص مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، لہذا کسی دوسرے عربی کی وہ قدر و منزلت نہیں جو ہماری ہے۔ دوسرے لوگ بھی ہمارا مرتبہ عام عربوں سے بلند سمجھتے ہیں، لہذا ہمیں حِلن (حلال مقامات) کی وہ تعظیم نہیں کرنی چاہیے جو حرم کی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو عرب ہمارے احترام میں کمی کریں گے اور کہیں گے کہ قریش حِلن (حلال مقامات) کی بھی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جیسے حرم کی کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے حج میں وقف عرفات ختم کر دیا کیونکہ وہ حرم سے باہر ہے بلکہ وہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے حالانکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ عرفات بھی ارکان حج میں سے ہے اور ابراہیمی دین میں قابل احترام جگہ ہے۔ اسی لیے وہ دوسرے لوگوں کے لیے عرفات جا کر واپس آنا ضروری سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم حرم کے باسی ہیں، لہذا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم حرم سے باہر جائیں اور حرم کے علاوہ کسی دوسری جگہ کی تعظیم کریں۔ ہم حَمَس ہیں اور حَمَس اہل حرم ہیں۔ پھر انہوں نے یہ حق ان لوگوں کو بھی دے رکھا تھا جو ان کی عورتوں سے پیدا ہوں خواہ وہ حرم میں رہیں یا حِلن میں، خواہ وہ ان کی نسل سے ہوں یا نہ ہوں۔“^① وہ قبائل جو قریش کے اس عقیدے کو تسلیم کرتے تھے: بنو کنانہ اور بنو خزاعہ بھی ان کے اس عقیدے میں شامل تھے۔ مؤرخ ابن ہشام کہتے ہیں: ”مجھے ابو عبیدہ نخعی نے بتایا کہ بنو عامر بن حصصہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بھی اس مسئلہ میں ان کے ساتھ شامل تھے۔“


قریش نے حَمَس کے عقیدے میں یہ اضافہ بھی کر لیا تھا کہ حَمَس (قریش اور ان کی اولاد) کے لیے احرام کی حالت میں مناسب نہیں کہ وہ پیر بنائیں، کٹی نکالیں، اونٹ کی میٹھی اٹھائیں، بالوں سے بنے ہوئے کسی خیمے میں داخل ہوں یا کوئی سایہ حاصل کریں۔ بالفرض سایہ حاصل کرنا ضروری ہو تو وہ چمڑے کے خیمہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے مزید اضافہ کر لیا اور کہنے لگے باہر سے حرم آنے والے لوگوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ حِلن سے لایا ہوا کھانا کھائیں بلکہ حج و عمرہ کے دوران میں ضروری تھا کہ وہ ان سے لے کر کھانا کھائیں اور جب وہ بیت اللہ کا پہلا طواف کریں تو اپنے کپڑوں میں نہ کریں بلکہ حَمَس

سے کپڑے لے کر کریں۔ اگر ان سے کپڑے نہ ملیں تو وہ نیگے ہی طواف کر لیں۔ اگر کوئی شخص حلق سے لائے ہوئے کپڑوں میں طواف کر بیٹھے تو وہ طواف کے بعد اتار پھینکے اور انہیں استعمال نہ کیا جائے۔ اور پھر کبھی نہ وہ شخص انہیں ہاتھ لگائے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہاتھ لگائے۔

رسول اللہ ﷺ نے بعثت سے پہلے بھی اس مسئلے میں خمس کی مخالفت کی تھی۔ آپ نے عام لوگوں کے ساتھ اونٹ پر عرفات میں وقوف فرمایا تھا اور بعثت کے بعد اسلام نے خمس کے ان خیالات باطلہ کو رد فرما دیا اور حکم دیا: ﴿لَكُمْ أَفْيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاحَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔“ (البقرة: 199/2)

لہذا حجۃ الوداع کے سال سب لوگوں نے عرفات میں وقوف کیا اور وہاں سے لوٹ کر آئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خمس کے باطل خیالات کو ختم فرما دیا اور اسلام کی برکت سے لوگوں کو قریش کی اس بدعت سے نجات مل گئی۔





خمس

قریش کی ایک بدعت: قریش مکہ نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات خارج کر دیا تھا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی کی روداد سفر میں لکھا ہے: ”مزدلفہ کے بعد حرم کے حدود ختم ہو جاتے ہیں اور جہاں یہ حدود ختم ہوتے ہیں وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں۔ نبی ﷺ سے پہلے حج میں اور لوگ تو عرفات تک جاتے تھے لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں اس لیے حرم کے حدود سے باہر نہ نکلیں گے لیکن نبی کریم ﷺ جتہ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی ثَمَّ افِضُوا مِنْ حَيْثُ افَاضَ النَّاسُ کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔“

عرفات

عرفہ یا عرفات، مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں پندرہ سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے۔ مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹر پر منیٰ ہے اور منیٰ سے اتنے ہی فاصلے پر عرفہ ہے۔ منیٰ سے مزدلفہ کے راستے آگے بڑھیں تو ایک خاصے چوڑے برساتی نالے کی گزرگاہ آتی ہے جس کا نام وادیٰ غرنہ ہے۔ اس کے اوپر قریباً ایک کلومیٹر کے اندر چودہ کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ مسجد نمرہ کے قریب برساتی نالے میں ذرا سا خم ہے۔ نالے کا پل پار کرتے ہی دائیں ہاتھ مسجد نمرہ آتی ہے۔ دور سامنے ذرا بائیں ہاتھ کو جبل رحمت ہے اور اس پر سفید لاثھ کی صورت میں پتھر کی ایک لوح نظر آتی ہے۔ وادیٰ غرنہ کو پار کریں تو 19 سڑکیں تیر کی طرح سیدھی اور متوازی آگے بڑھتی ہیں جنہیں دائیں سے بائیں سات سڑکیں زاویہ قائمہ پر کاٹی ہیں۔ یہی میدان عرفات ہے۔ سڑکوں پر نمبر لگے ہیں جا بجا پل بنے ہوئے ہیں اور آنے جانے کے نشانات مرتب ہیں۔ سڑکوں کے ان متوازی خطوط کے جال میں ایک دائرہ بھی ہے اس دائروں سڑک نے جبل رحمت کو اپنے محیط میں لے رکھا ہے۔

عرفات سال کے 354 دن بے آباد ہوتا ہے اور صرف ایک دن 9 ذی الحجہ کے لیے شہر بنتا ہے اور وہ بھی صرف آٹھ دس گھنٹوں کے لیے۔ یہ صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور خجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں جا مقیم ہوتے ہیں۔ وقوف عرفات حج کا بنیادی رکن ہے مگر قریش مکہ نے اپنی جھوٹی عظمت و شان کا سکہ بٹھانے کے لیے اپنے لیے وقوف عرفہ کو ساقط کر دیا تھا۔

مسجد نمرہ: اس مسجد میں مسجد نبوی کی طرح صحن رکھے گئے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو مسجد نمرہ کے منبر سے امام حج کا خطبہ پڑھتا


ہے اور اس کے بعد ظہر اور عصر نمازوں کے دو دو فرض قصر پڑھے جاتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے 10 ھ میں 7 مارچ 632ء کو حجۃ الوداع کے موقع پر دو پہر کو یہاں ایک خیمے میں آرام فرمایا تھا۔ جب دو پہر ڈھلی تو سامنے کی پہاڑی پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسی لیے اب اس پہاڑی کو جبلِ رحمت کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے قصواء نامی اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔

جبلِ رحمت: اسے جبلِ عرفہ بھی کہتے ہیں۔ عرفہ عربی میں اونچی اور نمایاں جگہ کو کہا جاتا ہے اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ جبلِ رحمت کا قطر قریباً 100 میٹر ہے اور یہ 60 میٹر بلند ہے۔ یہ پہاڑی ہلکے سبزی مائل چھوٹے بڑے پتھروں اور پتھر بھری مٹی سے بنی ہے۔ اوپر جانے کے لیے بھورے پتھروں کو جوڑ کر تنگی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ جبلِ رحمت پر لوح سفید عین اس جگہ ایستادہ کی گئی ہے جہاں نبی ﷺ کی اونٹنی قصواء حجۃ الوداع کے روز کھڑی تھی۔ لوح سفید کے نیچے پتھروں سے بنا ہوا چھوٹا سا چپوترہ ہے جس پر ایک نمبر رکھا ہے۔ جبلِ رحمت کے چاروں جانب میدانِ عرفات ہے۔ چپوترے پر ایک میٹر چوڑی اور پانچ میٹر اونچی دیوار چھنی گئی ہے۔

قرن المنازل: یہ مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر شمال مشرق میں اہل نجد کے لیے میقات ہے اور یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جبکہ طائف سے اس کا فاصلہ 58 کلومیٹر ہے۔ اسے وادیِ خرم بھی کہتے ہیں۔ غزوہ طائف سے مکہ آتے ہوئے نبی ﷺ نے یہیں سے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔ (مزید دیکھیے ”جنگِ فجار“ کا ذیلی عنوان ”السیل الکبیر“)

اضافة لبین: یمن کی طرف سے آتے ہوئے یہاں حدودِ حرم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 50 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ ذاتِ عسوق: یہ نجد اور حجاز کی حد پر مکہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ اہل عراق کے لیے میقات ہے اور اسے نبی کریم ﷺ نے میقات مقرر کیا۔ اصل میں عرق اس علاقے میں واقع ایک پہاڑ کا نام ہے جس سے ذاتِ عرق منسوب ہے۔





حراء کا پہاڑ

غار حراء میں پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ...﴾ نازل ہونے سے تہذیب و تمدن کا وہ نور پھیلا جس سے تمام دنیا روشن ہو گئی۔ ایک قوم زندہ ہو گئی اور شعوب و قبائل کی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب آ گیا۔ عرب جو پہلے دوسروں کے محکوم تھے اب انسانی تہذیب کے علمبردار بن گئے اور قدرت کو ان سے جو کام لینا تھا وہ انہوں نے انتہائی ذمہ داری اور احسن طریقے سے ادا کیا۔



غار حراء جہاں رسول اکرم ﷺ پر پہلی وحی ﴿اقْرَأْ﴾ نازل ہوئی

جہاں پہلی وحی نازل ہوئی

کوہ حرا: اس کے اندر وہ غار ہے جہاں نبی کریم ﷺ بعثت سے قبل عبادت کیا کرتے تھے۔ یہیں پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبل حرا دامن میں کچھ پھیلاؤ رکھتا ہے پھر اس کے بعد قریباً سیدھا اوپر کواٹھتا چلا گیا ہے تاہم اس کی چوٹی نو کیلی نہیں۔ سارا پہاڑ چنیل یعنی پتھری پتھر ہے۔ اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔


جبل نور مکہ مکرمہ کے مشرق میں تقریباً ساڑھے چار کلو میٹر دور ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 639 میٹر ہے۔ یہ مکہ سے طائف جانے والی سڑک سے قریباً 200 میٹر ہٹ کر ہے۔ پہاڑ کے دامن میں نصف کلو میٹر تک راستہ ہموار ہے اور آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر چڑھنے کا راستہ مشرقی سمت سے ہے اور چکر کھاتے ہوئے اوپر جاتا ہے۔ جبل حرا اور جبل ثبیر ایک دوسرے کے بالمقابل واقع ہیں تاہم کوہ حرا نسبتاً زیادہ بلند ہے۔ کوہ حرا کی چوٹی پر ایک سیاہ رنگ کی جھنڈی نصب ہے۔

غار حرا: یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے ساٹھ ستر میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار حرا ہے۔ غار سے چند قدم پہلے چٹانی تختوں نے راستہ تقریباً بند کر رکھا ہے۔ یہاں پہاڑ 85 درجے کا زاویہ بناتا ہے اور دبلا پتلا آدمی بھی گھٹے بغیر آگے غار میں نہیں جاسکتا۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں قریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے پونے دو میٹر تک چوڑے اور تین چار میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح نکلے ہوئے ہیں کہ مساوی الساقین مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے جس کا ہر ضلع ازھائی میٹر لمبا اور قاعدہ قریباً ایک میٹر ہے۔ غار کی لمبائی دو سو اوڑھ میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ پچھلے حصے کی طرح سامنے کا حصہ بھی کھلا ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا چنانچہ دہانے سے اندر کو تاریکی ہے جس کے جاب کو چر کر آنکھ آگے نہیں دیکھ سکتی۔ ("آخضور ﷺ کے نقش قدم پر" جلد 3) پہلی وحی: نبی کریم ﷺ جب چالیس سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر کوہ حرا پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبریل امین نمودار ہوئے اور نبی ﷺ پر سب سے پہلی وحی نازل کی جس کے ذریعے باری تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر الزمان مبعوث کیا۔ پہلی دفعہ جب نبی ﷺ نے جبریل کو آسمان کے مشرقی کنارے (بالائی افق) پر معلق دیکھا تو ان کے چہرہ سبازو تھے اور ہر بازو اتنا بڑا تھا کہ افق پر چھایا ہوا تھا پھر جبریل قریب آئے تھے حتیٰ کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ تب انہوں نے آپ کے جسم کو بھیج کر کہا: "پڑھیے۔" آپ نے کہا: "میں پڑھا ہوا نہیں۔" فرشتے نے آپ کو دوبارہ بھیجا اور پھر پڑھنے کو کہا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جبریل نے

تیسری بار بھیج کر کہا: ”پڑھیے۔“ تو آپ نے ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ابتدائی وحی سورہٴ علق کی پہلی پانچ آیات پر مشتمل تھی۔

نبی ﷺ حرا سے کانپتے لرزتے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کبل اور رضائی اوڑھانے کو کہا: پھر سارا واقعہ سنا کر فرمایا: ”مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔“ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے عم زاد ورقہ بن نوفل کو بلا لائیں جو مسکی ہونے کے باعث توراۃ اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ نے آپ کی بات سن کر کہا: ”یہ تو وہی ناموس (فرشتہ) تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔“ آپ نے حیرت سے پوچھا: ”کیا اس کلام کی وجہ سے میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟“ ورقہ نے کہا: ”ہاں! آپ جیسا کلام جو بھی لایا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا۔“





ایک دفعہ موسم حج کے موقع پر ولید بن مغیرہ نے مجلس قائم کی اور کہنے لگا: ”اے قریشیو! موسم حج آ گیا ہے۔ تمام عرب سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ ظاہر ہے وہ تمہارے اس نبی کے بارے میں سن چکے ہوں گے اس لیے تم صلاح مشورے سے ایک بات طے کر لو اور سب سے وہی بات کہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ۔ اس سے ایک دوسرے کی تردید ہوگی۔“ قریش نے کہا: ”اے ابو عبد شمس! آپ ہی کوئی مشورہ دیجیے۔ ہم اس پر عمل کریں گے۔“ اس نے کہا: ”نہیں! تم تجویز پیش کرو میں تمہاری بات سنتا ہوں۔“ وہ بولے: ”ہم کہیں گے یہ کاہن ہے۔“ وہ کہنے لگا: ”نہیں! اللہ کی قسم! وہ کاہن نہیں۔ ہم نے بڑے کاہن دیکھے ہیں۔ اس کی بات کاہنوں کی چیتاں جیسی نہیں اور نہ ان جیسی تک بندی ہے۔“ وہ بولے: ”اچھا! ہم کہیں گے یہ پاگل ہے۔“ اس نے کہا: ”نہیں یہ پاگل بھی نہیں۔ ہم نے بڑے پاگل دیکھے ہیں اور ہم پاگل پن کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس کی باتوں میں نہ تو ان جیسی بے ترتیبی ہے نہ تو ہات اور دوسے۔“ وہ گویا ہوئے: ”اچھا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔“ وہ کہنے لگا: ”یہ شاعر بھی نہیں۔ ہم ہر قسم کے اشعار جز، ہزج، قریض، مقبوض اور مبسوط وغیرہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم! اس کا کلام شعر نہیں۔“ آخر کار انہوں نے کہا: ”چلو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔“ وہ کہنے لگا: ”وہ جادوگر بھی نہیں۔ ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہیں اور ان کا جادو بھی یہ ان کی طرح گرہیں دیتا ہے نہ پھونکیں مارتا

ہے۔“ (جادوگر دھاگے کو گرہیں لگاتے اور اس پر پھونکیں مارتے ہیں۔) وہ زچ ہو کر بولے: ”آخر ہم کہیں کیا اے ابو عبد شمس؟“ وہ گویا ہوا: ”اللہ کی قسم! اس کی باتوں میں عجب مٹھاس ہے۔ یوں لگتا ہے کہ قرآن کی جز پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے (اس نے قرآن کو عمدہ شاخوں والے کھجور کے درخت سے تشبیہ دی) تم اس کے بارے میں جو بھی کہو گے اس کا بطلان واضح ہوگا۔ ہاں اگر ضرور ہی کچھ کہنا ہے تو جادوگر کہہ دو کیونکہ یہ ایسی تعلیم لایا ہے جس نے جادو کی طرح باپ اور بیٹے بھائی اور بھائی، خاوند اور بیوی آدمی اور اس کے قبیلے میں تفریق ڈال دی ہے۔“

یہ مشورہ کر کے مجلس برخواست ہو گئی۔ وہ مکہ مکرمہ آنے والوں کے راستوں میں بیٹھ جاتے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ ﷺ کے خطرے سے آگاہ کرتے اور آپ کے متعلق تفصیلات بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں حسب ذیل آیات نازل فرمائیں:

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ وَبَنِينَ شُهُودًا ۖ وَمَهَنُكٌ لَّهُ تَهْنِئًا ۖ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۖ كَلَّا ط إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ۖ﴾

”چھوڑو مجھے اس شخص سے نہ لینے دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، پھر اس کو وسیع مال دیا، کثیر بیٹے دیے اور اس کے لیے تمام راستے ہموار کیے۔ (لیکن وہ ناشکرا رہا) اب وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں گا۔ ہرگز نہیں! وہ تو ہماری آیات سے دشمنی رکھنے والا ہے۔“ (المذثر: 16-11/74)



ہجرت حبشہ کے مقامات

رجب 5 نبوی میں نبی ﷺ کے ایماء سے اول اول گیارہ مردوں اور چار عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جن کے نام حسب ذیل ہیں:

- 1- عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ رقیہ رضی اللہ عنہا۔ 2- ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ سہلہ رضی اللہ عنہا۔ 3- زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ 4- مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ 5- عبدالرحمن بن عوف۔ 6- ابوسلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ 7- عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ 8- عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ لیلیٰ رضی اللہ عنہا۔ 9- ابوسبرہ بن ابی رہم رضی اللہ عنہ۔ 10- ابوحاطب بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ 11- عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔


یہ لوگ بندرگاہ (شعیبہ) سے دو تجارتی جہازوں پر حبشہ روانہ ہوئے تھے۔ قریش مکہ نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص پر مشتمل سفارت نجاشیء حبشہ صحمہ کے پاس بھیجی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ”ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔“ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا: ”تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کا مخالف ہے؟“ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک پراثر تقریر کی اور پھر نجاشی کے مطالبے پر سورۃ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ اس پر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا: ”اللہ کی قسم! یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔“ نجاشی نے سفرائے قریش سے کہا کہ ”میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہیں دوں گا۔“ اگلے روز عمرو بن عاص کے ایماء پر نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”عیسیٰ اللہ کا بندہ اور نبی اور کلمۃ اللہ ہے۔“ اس پر نجاشی نے ایک نکاح اٹھا کر کہا: ”واللہ! جو تم نے کہا، عیسیٰ اس تحکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔“ قریش کے سفیر بالکل ناکام لوٹے۔

حبشہ میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ کچھ عرصہ بعد خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اکثر صحابہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے اس لیے بعض لوگ واپس حبشہ چلے گئے۔ جب اہل مکہ نے مسلمانوں کو اور ستانا شروع کر دیا تو دوبارہ سو کے قریب صحابہ مکہ سے نکل گئے اور حبشہ میں پناہ لی۔ ان میں سے کچھ لوگ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اور باقی 7ھ میں مدینہ منورہ چلے آئے۔ (سیرت النبی از شبلی و سلیمان ندوی۔ جلد 1-2) الشَّعْبِیَّة: یہ بندرگاہ مکہ کے جنوب مغرب میں تقریباً ایک سو کلومیٹر دور بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ جدہ سے بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر جنوب میں ہے۔ سن 5 نبوی میں قریش کے ستائے ہوئے مسلمانوں کا قافلہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یمن سے جہاز پر سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہوا تھا۔ اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس واقعہ سے دس برس پہلے



جب نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو مصائب میں مبتلا پایا اور یہ دیکھا کہ انہیں ان مصائب سے نجات دلانا ناممکن نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اگر تم حبش کی سرزمین کی طرف نکل جاؤ تو وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا“ اور وہ چٹائی کی سرزمین ہے حتیٰ کہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔“ یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔



جب سیلاب سے کعبہ کو نقصان پہنچا تھا تو قریش نے اس کی تعمیر نو کے لیے شعبیہ کے ساحل پر ریت میں پھنسے جہاز کی لکڑی خرید کر حرم کی عمارت میں استعمال کی تھی۔

مصصوع: یہ اریٹریا کی بندرگاہ ہے۔ اریٹریا بھاری مسلم اکثریت کا علاقہ ہے جو ماضی میں سلطنت حبشہ کا حصہ رہا۔ انیسویں صدی میں اس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے ایتھوپیا (حبشہ) کے تسلط میں دے دیا گیا۔ 1962ء سے 1993ء تک اریٹریا کے مسلمانوں نے آزادی کی طویل جنگ لڑی مگر جب مئی 1993ء میں آزادی ملی تو عیسائیاں نامی مسیحی صدر مملکت بن بیٹھا جو آج بھی برسرِ اقتدار ہے۔ حبشہ کو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا قافلہ شعبیہ سے بحری سفر طے کر کے مصوع کی بندرگاہ پر اترتا تھا جہاں سے وہ اکسوم روانہ ہوا تھا۔ اریٹریا کا دار الحکومت اسمارا مصوع سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ عصب بھی اریٹریا ہی کی بندرگاہ ہے۔

اکسوم: یہ ملک حبش (ایتھوپیا) کا قدیم دار الحکومت تھا۔ اہل حبش اس شہر کو نہایت مقدس سمجھتے تھے اور یہیں شاہان حبش کی تاجپوشی ہوتی تھی۔ اکسوم اریٹریا کی بندرگاہ مصوع سے تقریباً سواد و سو کلومیٹر جنوب میں ایتھوپیا صوبہ بحرے میں واقع تھا جہاں اب تک اس کے کھنڈر باقی ہیں۔

نجاشی: یہ حبشی زبان کے لفظ ”نجوس“ بمعنی بادشاہ کی تعریف ہے۔ نجوس شاہان حبش کا لقب تھا۔ ان کا زمانہ پہلی صدی ق م سے چھٹی صدی ہجری تک یعنی تقریباً 1200 سال رہا۔ عہد نبوی میں یہاں نجاشی اصمہ حکمران تھا جو عیسائی تھا۔ سب سے پہلا نجاشی جس نے 330ء میں عیسائیت قبول کی اس کا نام اذینہ تھا۔ مکہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان اصمہ کے دربار (اکسوم) میں پہنچے تو اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زبانی دین اسلام کی باتیں سنیں اور قریش مکہ کے وفد کا مطالبہ مسترد کر کے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ اصمہ نے اسلام قبول کر لیا اور چند سال بعد جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم ﷺ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔



حضرت طفیل بن عمرو ازدی دوسی رضی اللہ عنہ

(ذوالنور)

حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ”میں مکہ آیا تو رسول اللہ ﷺ وہاں تشریف فرما تھے۔ کچھ قریشی میرے پاس آئے (یاد رہے کہ یہ طفیل بہت سمجھ دار شاعر اور سردار تھے) اور کہنے لگے: ”طفیل! تو ہمارے شہر میں آیا ہے۔ یہ شخص جو ہمارے ہاں رہ رہا ہے اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے اور ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے۔ اس کی باتیں جادو جیسی ہیں۔ یہ باپ اور بیٹے بھائی اور بھائی خاوند اور بیوی میں تفریق ڈال دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ شخص تیرے اور تیری قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ نہ کرے لہذا تو اس سے کوئی بات کرنا نہ اس کی کوئی بات سننا۔“

حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”اللہ کی قسم! وہ مجھے مسلسل قائل کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے پختہ عزم کر لیا کہ آپ ﷺ سے کچھ سنوں گا نہ آپ سے کوئی بات چیت کروں گا حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روٹی ٹھونس لی کہ بھولے سے بھی آپ کی کوئی بات جسے میں سننا نہیں چاہتا میرے کان میں نہ پڑ جائے۔“

اتفاقاً میں مسجد میں گیا تو رسول اللہ ﷺ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ ﷺ کے قریب کھڑا ہوا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی۔ مجھے آپ کی بات اچھی لگی۔ میں نے اپنے دل میں کہا: ”ہائے! میری ماں مجھے نہ دیکھے۔ آخر میں شاعر آدمی ہوں! اچھے اور برے کلام سے ناواقف نہیں ہوں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں اس شخص کی بات نہ سنوں؟ اگر اس کی بات اچھی ہوگی تو اسے قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔“

میں نے انتظار کیا حتیٰ کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر گھر کو چلے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب آپ گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی داخل ہو گیا اور گزارش کی: ”اے محمد (ﷺ)! آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا دی ہے۔ مجھے تو آپ کی بات اچھی لگی ہے۔ اپنی تعلیم پیش فرمائیے۔“ آپ نے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ اللہ کی قسم! میں نے اس سے قبل کوئی بات اس سے اچھی یا اچھی تلی نہ سنی تھی! لہذا میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ میں نے گزارش کی: ”یا رسول اللہ! میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ میری بات مانی جاتی ہے! میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی امتیازی نشان عطا فرمائے جس سے مجھے تبلیغ میں آسانی رہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! اسے کوئی نشانی عطا فرمادے۔“ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں اپنی قوم کے پاس آنے کے لیے چلا یہاں تک کہ جب میں اس گھاٹی میں پہنچا جہاں سے میری قوم دوس کی ہستی نظر آنے لگی تو میری آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح نور چمکنے لگا۔ میں نے دعا کی: ”یا اللہ! یہ نور میرے چہرے کے علاوہ

کسی اور چیز میں پیدا ہو۔ مجھے خطرہ ہے لوگ سمجھیں گے میں نے ان کا دین ترک کر دیا ہے اس لیے میری شکل بگڑ گئی ہے۔“ پھر یہ نور میرے کوڑے کے اوپر کے حصے میں منتقل ہو گیا۔ لوگوں کو یوں نظر آتا تھا جیسے قدیل لٹک رہی ہو۔ میں گھاٹی سے اتر کر بستی میں پہنچا تو میرے والد میرے پاس آئے۔ وہ بہت بزرگ تھے۔ میں نے کہا: ”ابا جان! رک جائیے! میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔“ وہ بولے: ”بیٹا! کیوں؟“ میں نے کہا: ”میں مسلمان ہو گیا ہوں۔“ وہ کہنے لگے بیٹا! جو دین تیرا ہے وہی میرا ہے۔“ وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر میری بیوی آئی اور میں نے اس سے بھی یہی کچھ کہا تو وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی: ”مسلمان ہونے سے ہمارے بت ذوالشرئ کی طرف سے تو کسی نقصان کا خطرہ نہیں؟“ میں نے کہا: ”ہرگز نہیں اس کا میں ضامن ہوں۔“

پھر میں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام لانے میں دلچسپی نہ لی۔ میں واپس رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور گزارش کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! دوس نے مجھ پر زنا کو ترجیح دی ہے (انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا) لہذا ان کے خلاف بددعا کیجیے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! دوس کو ہدایت دے۔“ پھر مجھ سے فرمایا: ”واپس اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ انہیں اسلام کی دعوت دو اور نرمی سے کام لو۔“ میں لوٹ آیا اور انہیں اسلام کی دعوت دینے لگا حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور جنگ بدر اُحد اور خندق بھی لڑی جا چکیں تو پھر میں اپنی قوم میں سے اسلام لانے والوں کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ خیر میں تھے۔ ہم ستر اشہ خاندان پہلے مدینہ منورہ میں فروکش ہوئے پھر رسول اللہ ﷺ سے خیر میں جا ملے۔ آپ نے ہمیں بھی دیگر مسلمانوں کی طرح مال غنیمت سے حصہ دیا۔ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فتح مکہ تک رہا۔ پھر میں نے کہا: ”اے اللہ کے رسول! مجھے بنو عمرو بن حُصَہ کے بت ذوالکفین کو جلانے کے لیے بھیجیے۔“ آپ نے مجھے بھیج دیا۔ میں یہ کام کر کے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا پھر آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ ہی رہا۔

آپ ﷺ کی وفات کے بعد جب بہت سے عرب مرتد ہو گئے تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے یمامہ پہنچے اور وہیں شہید ہو گئے..... ①



قبائل ازد اور دوس

قبائل ازد و دوس سعودی عرب کے موجودہ صوبہ عسیر میں اس مقام کے آس پاس آباد تھے جہاں آج ابہا کا مشہور شہر ہے۔ یہ شہر طائف سے یمن کو جانے والی شاہراہ پر مکہ سے تقریباً ساڑھے تین سو میل جنوب میں ہے۔ ابہا سے ایک سڑک بحیرہ قلزم کے ساحل پر حیران کی سعودی بندرگاہ پہنچتی ہے اور دوسری شاہراہ مشرق میں خمیس مشیط سے ہو کر سرحد یمن کی طرف نجران جاتی ہے۔


ازد: یہ قبیلہ کہلان (بنو قحطان) کی ایک شاخ تھا۔ بنو قحطان کی دیگر شاخیں قضاہ، کہلان اور حمیر تھیں۔ ازد کی ذیلی شاخوں میں اوس، خزرج، خزاعہ، غسان اور دوس شامل تھے۔ ازد کا جد امجد ازد بن غوث بن نبث بن مالک بن کہلان تھا۔ علاقائی لحاظ سے ازد کی چار شاخیں تھیں۔ (1) ازد شنوءہ (2) ازد السراة (3) ازد غسان (4) ازد عثمان۔ ازد شنوءہ اور ازد سراة تہامہ اور عسیر میں آباد تھے۔ ازدی قبائل ذوالشری نامی بت کو پوجتے تھے۔

دوس: یہ قبیلہ ازد کی ایک شاخ تھا۔ دوس، عدنان بن عبداللہ کی اولاد تھے جس کا سلسلہ نسب مالک بن نصر بن ازد سے جاملتا تھا۔ یہ تہامہ اور حیرہ (عراق) میں آباد تھے۔ بنو دوس نے حجر کے مقام پر کنانہ سے جنگ کی تھی۔ اس دن کو حجرۃ الدوس کہا جاتا تھا۔

طفیل بن عمرو دو مسی بنی نضیر: عہد نبوی میں دوس کا سردار طفیل بن عمرو تھا جس نے 11 نبوی میں مکہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ عہد جاہلیت میں بنو دوس، ذوالکفین نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ طفیل بن عمرو دوس بنی نضیر نے فتح مکہ کے بعد نبی اکرم ﷺ کی اجازت لے کر اسے جلادیا۔ طفیل بن نضیر شاعر اور بہت سمجھ بوجھ کے مالک تھے۔ نبی اکرم ﷺ کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے طفیل بن نضیر کے چہرے میں نور پیدا کر دیا اسی لیے انہیں ذوالنور کہتے تھے۔

ضما ازدی بنی نضیر: قبیلہ ازد شنوءہ کا رئیس ضما ازدی آسیب کے مریضوں کو دم کرتا تھا۔ وہ مکہ آیا تو بعض قریش نے اس سے کہا کہ نبی ﷺ کو (نعوذ باللہ) آسیب کی تکلیف ہے وہ بھیجی بھیجی باتیں کرتے ہیں اور ایک نئے مذہب کا پرچار کرتے ہیں لہذا تم انہیں دم کرو۔ ایک روز نبی ﷺ صحن حرم میں تشریف فرما تھے کہ ضما نے آ کر دم کرنے کی پیشکش کی۔ نبی کریم ﷺ نے اس کے سامنے اللہ کی حمد و ثناء کی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ ضما بے حد متاثر ہوا اور اسلام لے آیا۔







موجودہ شہر طائف کے دو فضائی مناظر



محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سفر طائف

قریش مکہ کی شدید مخالفت کے پیش نظر نبی کریم ﷺ نے طائف میں تبلیغ کرنے کا سوچا کہ اگر وہاں کے لوگ ایمان لے آئے تو وہ قریش کے خلاف میری مدد کریں گے چنانچہ آپ ﷺ شوال 10 نبوی (مئی جون 619ء) میں مزدلفہ عرفات شہاد اور بدہ (وادئ محرم) کے راستے پیدل طائف تشریف لے گئے اور راستے میں ہر قبیلے کو دعوت اسلام دی۔ اس سفر میں آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے طائف میں دس دن (ایک روایت کے مطابق ایک ماہ) قیام فرمایا اور قبیلہ ثقیف کو دعوت اسلام دی۔ عمرو بن عوف کے تین بیٹے عبد یاسیل، مسعود اور حبیب طائف کے سردار تھے۔ آپ ان میں سے ہر ایک کے پاس گئے اور دعوت اسلام دی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ بلکہ جب نبی ﷺ نے واپسی کا قصد کیا تو انہوں نے اوباشوں کو آپ ﷺ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے تالیاں پیٹتے اور آپ ﷺ پر پتھر پھینکتے تھے حتیٰ کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور نعلین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ پتھر لگنے پر آپ صدمے سے بیٹھ جاتے تو وہ پڑ کر اٹھا دیتے۔ آپ کو بچاتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔

طائف سے نکل کر نبی ﷺ نے عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی۔ انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھ کر اپنے عیسائی غلام عداس سے کہا کہ انکو رکا ایک گچھا اس شخص کو دے آؤ۔ واپسی پر ابھی آپ ﷺ قرن منازل پہنچے تھے کہ جبریل حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ حکم دیں تو اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالا جائے مگر نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔“

واپسی پر مکہ کے قریب پہنچ کر آپ ﷺ نے اخنس بن شریق، سہیل بن عمرو اور مطعم بن عدی کو پناہ دینے کے لیے پیغام بھیجا مگر صرف مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور ہتھیار باندھ کر اپنے بیٹوں کے ساتھ اعلان کیا: ”قریش کے لوگو! میں نے محمد (ﷺ) کو پناہ دی ہے اب انہیں کوئی نہ چھیڑے۔“ نبی ﷺ نے حرم شریف میں آ کر حجر اسود کو چومنا اور رکعت نفل ادا کیے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ کیا۔

کرا: معجم البلدان کے مطابق یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک گھاٹی ہے جبکہ پروفیسر عبدالرحمن عبد لکھتے ہیں: ”ہم شہاد سے گزرے تو زمین کا ارتقاع برابر بڑھتا رہا۔ مکہ اور طائف کے تقریباً درمیان کرا کا مقام ہے جو نہایت بلند پہاڑ ہے۔ یہاں کئی جگہ پہاڑ کاٹ کر سڑک بنائی گئی ہے۔“

نوٹ: اطلس القرآن (عربی) اور اطلس السیرۃ النبویہ (عربی) کے نقوش میں ”کرا“ کو ”کرا“ لکھا گیا ہے جو درست نہیں۔

سُكْرَتُهُ أَوْ رَطَاةُ
هُوَ قَائِلًا لَوْلَا يُؤْتَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْغَوِيِّينَ عَجَبٌ لَهُ
”اور کہتے تھے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی پر بھی نہیں پڑے گا۔“
(الزخرف: 31/43)

اسلم القیصر

جدید شاہراہ

طائف

وہ تاریخی راستہ جس پر رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے طائف جاتے ہوئے اختیار کیا

مکہ

قیص

ام ہمدانہ

جبلہ شاہراہ

مدینہ

غنی

جدہ

صلہ

مکہ مکرمہ

مکہ

مستطی

بحیرہ احمر

جدید شاہراہ

طائف: پروفیسر عبدالرحمن عبدلکھتے ہیں: ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ ”طائف عرب کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔“ سطح بحر سے 1700 میٹر بلند ہونے کی وجہ سے یہ عہد قدیم سے اہل مکہ کا مصیف (گرمائی صحت افزا مقام) ہے۔ اب سعودی حکومت کا گرمائی صدر مقام بھی طائف ہی ہے۔

ہم مکہ معظمہ سے قریباً 20 کلومیٹر باہر آئے ہوں گے کہ ایک وادی میں کچھ آبادی آگئی۔ سڑک سے ہٹ کر ذرا دور ایک نئی اور خوبصورت مسجد تھی۔ عبدالداؤد القرطبی نے بتایا کہ ”یہ خوبصورت وادی خرم ہے۔ طائف سے آنے والے حجاج کے لیے یہ میقات ہے۔“ حبیب الرحمن صاحب نے کہا کہ ”غزوہ طائف سے مکہ آتے ہوئے رسالت مآب ﷺ نے اسی مقام پر عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔ (حسین) بیکل نے ”فی منزل الوحی“ میں اسی کو قرن المنازل لکھا ہے۔“ عبدالداؤد نے بتایا کہ ”طائف کا مطلب گھیرا یا فیصل ہے کیونکہ یہ شہر پناہ شہر کے ارد گرد محیط کی طرح گویا طواف کرتی اور دائرہ بناتی تھی۔ سورۃ زخرف کے الفاظ اَلْفُرَاتِیْنِ نے مکہ اور طائف کے دونوں شہروں کو گویا جزواں شہر بنا دیا ہے۔ عہد قدیم میں جس جگہ اہل طائف کے دیوتالات کا معبد تھا وہیں اب سعودی حکومت نے شاندار دارالضیافہ یعنی سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بنایا ہے۔“

ڈاکٹر حمید اللہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھتے ہیں: ”طائف ایک سطح مرتفع میں واقع ہے جو سلسلہ کوہ سراقہ میں سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہاں سے مکہ جانے کے لیے پچھیدہ گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے موٹر کو قریباً 75 میل طے کرنے پڑتے ہیں۔“ لیکن جدید سڑک سے اب یہ فاصلہ چالیس میل یعنی 65 کلومیٹر رہ گیا ہے۔

(آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) عرفات)

محمد عاصم حداد ”روداد سفر سید ابوالاعلیٰ مودودی“ میں لکھتے ہیں:

”ہم کرا سے واپس آتے ہوئے مشافہ گئے جو موجودہ طائف سے ڈھائی تین میل کے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی بستی ہے اور طائف ہی کا ایک حصہ شمار ہوتی ہے۔ یہ بستی اس جگہ واقع ہے جس کے قریب نبی ﷺ کے زمانے میں اصل طائف آباد تھا۔ یہاں اگرچہ خاصی آبادی تھی اور باغ، مکان اور گلیاں نہایت شاندار بنی ہوئی تھیں لیکن کوئی آدمی ہمیں یہاں نظر نہ آیا۔ گویا پوری بستی شہر خوشاں تھی۔ یہاں دو باغوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک کو مسجد علی کہتے ہیں دوسری کو مسجد الحبشی۔ ان دونوں مسجدوں میں سے ایک بہر حال اس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں زخمی ہونے کے بعد نبی ﷺ نے آرام فرمایا تھا اور عتبہ و شیبہ کے نصرانی غلام سیدنا عداس رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں انگور لاکر پیش کیے تھے۔ لیکن یہ مسجد کون سی ہے اس کے متعلق ہمارے ساتھ جو لوگ تھے قطعی بات نہیں کہہ سکے۔ بیکل نے اپنی کتاب میں جس مسجد عداس کا ذکر کیا ہے وہ مسجد علی ہے۔“

مزید دیکھیے باب ”حرب فجار“ ذیلی عنوان ”طائف“

مسجد ابن عباس: طائف کی ایک قدیم مسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب ہے۔ یہ شہر کے مرکزی چوک میں

واقع ہے۔ فرید احمد پراچہ لکھتے ہیں: ”مسجد بہت وسیع و عریض اور خوبصورت ہے۔ اس کا ہال اتنا وسیع ہے کہ شاید ہی میں نے اس سے پہلے کسی مسجد کا ہال اتنا بڑا دیکھا ہو۔ مسجد کی تعمیر خوبصورت پتھروں سے کی گئی ہے۔ اسی مسجد سے ملحق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مزار بھی ہے جو ہمیشہ بند رہتا ہے۔ امام صاحب سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد ابن عباس رضی اللہ عنہما میں اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسالت مآب ﷺ نے طائف کے محاصرے کے وقت اپنا خیمہ لگایا تھا۔“ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) ص 56 از پروفیسر عبدالرحمن عبد)

مسجد ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بالکل سامنے جنوب مغرب میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں جو غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔ مسجد کے پاس سڑک پر پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا رکھا ہوا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ لات کا ٹکڑا ہے مگر اس کی کوئی سند نہیں۔ (سفرنامہ ارض القرآن)

عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ممتاز فقیہ، مفسر قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے عم زاد تھے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ان کی سگی خالہ تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہجرت سے تین سال قبل مکہ میں اس وقت پیدا ہوئے جب بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی والدہ نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے وہ پیدائش کے وقت ہی سے مسلمان تسلیم کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں مہارت و بصیرت کی وجہ سے انہیں امام المفسرین کہا گیا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی بیٹائی جاتی رہی اور وہ طائف میں مقیم ہو گئے۔ یہیں 68ھ/687ء میں فوت ہوئے۔ (مختصر اردو دائرہ معارف اسلامیہ)

حضرت عداس رضی اللہ عنہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب سفر طائف کے دوران عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے آپ ﷺ کو اور آپ کے ساتھ اہل طائف کا برا سلوک دیکھا تو ان میں قبائلی عصبیت کی رگ پھڑکی۔ اور انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انکوڑ کا ایک خوش آپ ﷺ کے لیے بھیجا۔ جب آپ ﷺ کھانے لگے تو بسم اللہ کہا اور پھر انکوڑ کھائے۔ یہ سن کر عداس نے آپ ﷺ کا چہرہ بغور دیکھا اور کہا: ”اللہ کی قسم! اس شہر کے لوگ تو یہ کلام نہیں بولتے“ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: ”تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اور تمہارا دین کیا ہے؟“ وہ بولا میں عیسائی ہوں اور خنیوی شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ تو نیک آدمی یونس بن متی (علیہ السلام) کا شہر ہے۔“ عداس بولا: ”آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ میرا بھائی ہے اور میری طرح وہ بھی نبی تھا۔“ یہ سن کر عداس جھکا اور اس نے آپ ﷺ کے سر مبارک اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔

عتبہ اور شیبہ نے یہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا: ”اس نے تیرے غلام کو خراب کر دیا۔“ جب عداس واپس آیا تو وہ دونوں کہنے لگے: ”عداس! تم پر افسوس ہے۔ تم نے اس کے سر اور اس کے ہاتھ پاؤں کو کیوں بوسہ دیا؟“ اس نے جواب دیا: ”میرے آقا! روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ انہوں نے مجھے وہ بات بتائی ہے جس کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ وہ دونوں بولے: ”عداس! تم پر افسوس ہے۔ دیکھنا! کہیں یہ تم کو تمہارے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ تمہارا دین اس

طائف کے راستے میں مسجدِ عذرا



طائف میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منسوب مسجد کا منار

(مختصر سیرۃ الرسول ص 188-189)

کے دین سے بہتر ہے۔“

واقعی نے جنگ بدر کے واقعہ میں بیان کیا ہے:

حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ عداس ثنیۃ البیضاء پر بیٹھا تھا اور لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جب اس نے عقبہ اور شیبہ کو دیکھا تو ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا: ”اللہ کی قسم! وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور تم اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو۔“ لیکن وہ دونوں اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ عداس کے پاس سے عاص بن شیبہ گزرا اسے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تجھے کسی چیز نے رلایا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے میرے اور اس وادی کے سرداروں نے رلایا ہے۔ وہ اللہ کے رسول ﷺ سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ عاص بولا: ”کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟“

عداس جیٹھو کے جسم پر کچکی طاری ہو گئی اس کے روٹکنے کھڑے ہو گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا: ”اللہ کی قسم! وہ تمام

لوگوں کے لیے رسول ہیں۔“ (الاصابة: 4/386)

مسجد عداس: یہ مسجد اس جگہ واقع ہے جہاں نبی کریم ﷺ نے طائف کے اوباشوں کے ہاتھوں زخموں سے چور ہونے کے بعد فرزند ان ربیعہ کے باغ کی دیوار کے ساتھ پناہ لی تھی۔ فرید پراچہ جنہوں نے مسجد عداس میں نماز مغرب ادا کی تھی لکھتے ہیں: ”مسجد کے صحن میں ایک چٹائی پڑی تھی۔ یہ مقام عین وہ جگہ ہے جہاں نبی ﷺ تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہ چٹائی علامت کے طور پر یہاں مستقل رکھ دی گئی ہے۔“ اور محمد حسنین بیکل لکھتے ہیں: ”طائف کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ مسجد عداس کی زیارت کا نام ہی طائف ہے۔“ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) ص 58-59 از پروفیسر عبدالرحمن عبد)



نصیبین (الجزیرہ) سے جنوں کی آمد

طائف (شوال 10 نبوی) سے واپسی پر نبی کریم ﷺ وادی نخلہ میں دس دن ٹھہرے۔ اس دوران نصیبین (ترکی) سے آنے والے جنوں کی ایک جماعت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے قرآن سنا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں: یہ واقعہ جس مقام پر پیش آیا وہ الزیرہ یا السیل الکبیر تھا کیونکہ یہ دونوں وادی نخلہ میں واقع ہیں۔ اس موقع پر سورہ احقاف کی آیات 28 تا 32 نازل ہوئیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن حضرت موسیٰ اور کتب ساموی پر ایمان رکھتے تھے۔ اب انہوں نے نبی کریم ﷺ سے قرآن سنا تو محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء دیتے چلے آ رہے ہیں اس لیے وہ اس کتاب اور اس کے لانے والے نبی پر ایمان لے آئے۔

(تفہیم القرآن جلد 4 ص 19-618)

مفسرین کا زیادہ تر اتفاق اس بات پر ہے کہ جنوں کا یہ وفد نصیبین سے آیا تھا اور اس موقع پر سورہ جن نازل نہیں ہوئی بلکہ سورہ احقاف کی مذکورہ بالا آیات کا نزول ہوا تھا۔ تاہم اس سے پہلے نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ سے عکاظ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ اس دوران میں جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری جو مشرکین اور منکرین رسالت تھے، انہوں نے نبی کریم ﷺ کی زبان سے قرآن کی تلاوت بغور سنی اور آپ پر ایمان لے آئے، اس موقع پر سورہ جن نازل ہوئی تھی۔ لیکن سید ابوالاعلیٰ مودودی سورہ احقاف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ”اس سورت میں مذکور واقعہ جنوں کی حاضری کا پہلا واقعہ ہے، اس کے بعد جنوں کے پے درپے وفود نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ اور منقول روایات کے مطابق ہجرت سے پہلے مکہ میں کم از کم چھ وفد آئے تھے..... اور ایک رات حجون کے مقام پر آپ ﷺ نے جنوں کے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تھا۔“

(تفہیم القرآن جلد 4 ص 619-620)

نصیبین: (جزیرہ) (دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ) کا یہ تاریخی شہر جنوبی ترکی میں شامی سرحد پر واقع ہے۔ اس کے بالمقابل سرحد پار شام کا شہر القامشلی ہے۔ شمالی عراق کے شہر موصل اور نصیبین کا درمیانی فاصلہ تقریباً اڑھائی سو کلومیٹر ہے۔ ماضی میں موصل سے شام جانے والے قافلے نصیبین سے گزرتے تھے۔ عجم البلدان کے مطابق نصیبین اور اس کی نواحی بستیوں میں 40 ہزار باغات تھے۔ شہنشاہ فارس نوشیرواں ساسانی (متوفی 579ء) نے اس کا محاصرہ کیا تو شہر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے طیرانشاہ سے بڑی تعداد میں بچھو منگوائے اور انہیں شیشے کی بوتلوں میں بھر بھر کے عرادرہ (منجیق کی طرح کا آلہ) کے ذریعے شہر میں پھینکا تو اہل شہر ان بوتلوں کی تاب نہ لا سکے اور شہر فتح ہو گیا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عہد عثمانی میں شام کے گورنر تھے جب عامل نصیبین نے شکایت کی کہ اہل شہر بچھوؤں کی کثرت سے مصیبت میں گرفتار ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حسب حکم بچھو مارنے کا معاوضہ مقرر کر دیا گیا تو لوگ بچھوؤں کے درپے ہو گئے حتیٰ کہ ان موذیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔
(معجم البلدان جلد 5)



اسراء - مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک


”اسراء“ سے مراد ہے ”راتوں رات نبی ﷺ کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا“ اور ”معراج“ سے مراد ہے مسجد اقصیٰ سے ”عالم بالا میں تشریف لے جانا“۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ (تجلیات نبوت)

بیت المقدس: بیت المقدس یا بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ اسے یورپی زبانوں میں Jerusalem (یروشلم) کہتے ہیں۔ ”بیت المقدس“ سے مراد ”مبارک گھر“ یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی ق م میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ شہر بیت المقدس 31 درجے 45 دقیقے عرض بلد شمالی اور 35 درجے 13 دقیقے طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ بیت لحم اور الخلیل اس کے جنوب میں ہیں اور رام اللہ شمال میں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انبی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون (ZION) ہے جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی ہے۔

سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے برکت والی سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620ء میں نبی کریم ﷺ جریل کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔

مسجد اقصیٰ کی تاسیس: حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام (961 ق م) کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔

ہیکل سلیمانی کی تباہی: ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 ق م میں شاہ بابل (عراق) بخت نصر نے سہار کر دیا تھا اور وہ ایک لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس شہر کو مردہ (ویران) پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر کبھی پھر آباد ہوگا؟ اس پر اللہ نے انہیں موت دے دی اور جب وہ سو سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 ق م میں شہنشاہ فارس کوروش کبیر (سائرس اعظم) نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے تھے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے 70ء میں یروشلم شہر اور



اسراء۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک


بیکل سلیمانی دونوں سمار کر دیے۔

اسلامی عہد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر: 137 ق م میں رومی شہنشاہ میڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ چوتھی صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم ﷺ معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اس وقت یہاں کوئی مسجد یا بیکل نہ تھا چنانچہ قرآن میں مسجد کی جگہ ہی کو مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ 2ھ / 624ء تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ (مکہ) کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17ھ یعنی 639ء میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبدالملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099ء (492ھ) میں یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70 ہزار مسلمان شہید کر دیے۔ 1087ء (583ھ) میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔

بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ: پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917ء کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصاریٰ کی سازش کے تحت نومبر 1947ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا اور جب 14 مئی 1948ء کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78 فیصد رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم (بیت المقدس) اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ (جون 1967ء) میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جمالیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70ء کی تباہی سے بیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں 2 ہزار سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے۔ اسی لیے اسے دیوار گریہ (Wailing Wall) کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر بیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں جنہیں مسلم ممالک کے اتحاد ہی سے ناکام بنایا جاسکتا ہے۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت بنا رکھا ہے۔


اروودائرہ معارف اسلام جلد 16 / 1 میں لکھا ہے: ”یروشلم کا عام عربی نام القدس ہے جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس (بعض بیت المقدس) لکھتے ہیں؛ دراصل اس سے مراد بیکل (سلیمانی) تھا جو عبرانی بیت ھبقدش کا ترجمہ ہے لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ یہ مصنفین ایلیا کا لفظ بھی جو Aelia سے لیا گیا، بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اس کا قدیم نام Jerusalem بھی معلوم تھا جسے وہ اور یروشلم، اور یسلم، اور یشلیم بھی لکھتے ہیں۔“ کتاب مقدس (بائبل سوسائٹی) میں اسے یروشلم لکھا گیا ہے۔

مسجد اقصیٰ: بیت المقدس کے عیسائیوں سے معاہدہ صلح طے پانے اور اس مقدس شہر پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں انہوں



مکہ مکرمہ میں بیت اللہ اور مسجد الحرام ↑

↓ بیت المقدس میں قبۃ الصخرہ



نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی (کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ ہی کہا گیا ہے) اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کر لی۔ خلیفہ عبدالملک نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبدالملک (705ء تا 715ء) نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین کی اور ابو جعفر منصور نے اس کی مرمت کرائی۔ صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا گیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے کئی کمرے بنالئے اور اس کا نام معبد سلیمان (Templum Solomonis) رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنالیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187ء میں شہر بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کی عبادت کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔

قبة الصخرہ: اموی خلیفہ عبدالملک (685ء تا 705ء) نے قبة الصخرہ کی تعمیر مکمل کی اور مامون الرشید اور معتصم کے زمانے میں اس کی تجدید ہوئی۔ مشہور مسلمان جغرافیہ نگار مقدسی یروشلم میں 375ء میں پیدا ہوا تھا، وہ قبة الصخرہ کے بارے میں لکھتا ہے: ”یہ ایک ہشت پہلو عمارت ہے۔ اس کے چار دروازے ہیں جن تک سیڑھیوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ اندرونی حصہ تین ہم مرکز دالانوں میں منقسم ہے جن کے ستون سنگ مرمر کے ہیں۔ اس کے وسط میں صخرہ ہے اور اس کے نیچے غار ہے جس میں 70 آدمی ساکتے ہیں۔ صخرہ کے گرد ستونوں کا حلقہ اسے باقی حصوں سے جدا کرتا ہے، اس کے اوپر ایک دربیچہ دار ڈھولنا ایک خوبصورت گنبد کو اٹھائے ہوئے ہے۔ گنبد کی چھت تک بلندی 100 باغ (سوا سو گز) ہے۔ گنبد لکڑی کے تین چوکھٹوں کا بنا ہوا ہے۔ نیچے والے پر سنہری تانبا چڑھا ہوا ہے، دوسرا لوہے کی سلاخوں کا ہے اور تیسرا لکڑی کا، جس پر دھات کے پترے چڑھے ہوئے ہیں..... صلیبیوں نے اپنے دور میں گنبد کی چوٹی پر سونے کی صلیب لگادی اور صخرہ کو سنگ مرمر کی سلوں سے ڈھانپ دیا اور اس کے اوپر ایک قربان گاہ تعمیر کی گئی۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے صلیب اتار کر وہاں ہلال نصب کیا اور صخرہ کے گرد کی دیوار مع قربان گاہ ہٹادی، نیز گنبد پر دوبارہ سنہری رنگ پھروایا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 16/1)



ہجرت سے پہلے

بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ: بنو ہاشم شعب ابی طالب سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب ایک ہی سال میں فوت ہو گئے۔ اس سال کو ”عام الحزن“ (غم کا سال) کہا جاتا ہے۔ یہ بعثت کے دسویں اور ہجرت سے تین سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کے چچا کی وفات کے بعد قریش کی بدسلوکی میں تیزی آ گئی تو آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ آپ کا مقصد بنو ثقیف سے مدد حاصل کرنا تھا مگر آپ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی البتہ اس سفر سے واپسی کے دوران میں عقبہ اور شیبہ کا غلام عداس مسلمان ہو گیا۔

آپ ﷺ واپس مکہ مکرمہ چلے آئے اور مختلف مواقع پر اور خاص طور پر موسم حج میں مختلف عرب قبائل سے رابطہ شروع کر دیا تاکہ وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں۔ اسی کوشش میں مکہ اور منی کے درمیان عقبہ کے پاس آپ کی ملاقات 12 انصاریوں کے ساتھ ہوئی۔ آپ نے ان پر اپنی تعلیمات پیش کیں۔ نتیجتاً بیعت عقبہ اولیٰ وقوع پذیر ہوئی۔ حضرت عبادہ بن صامت انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں بھی بیعت عقبہ اولیٰ میں حاضر تھا۔ ہم بارہ آدمی تھے۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ان الفاظ کے ساتھ بیعت کی جن کے ساتھ آپ عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اس وقت ابھی جنگ فرض نہ ہوئی تھی۔“^①


یہ بیعت ان باتوں پر ہوئی: ”ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے ہم کسی پر بہتان طرازی نہیں کریں گے اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم یہ عہد پورا کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی لیکن اگر تم نے ان میں سے کوئی کام کیا تو تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو معاف کر دے گا چاہے تو عذاب دے گا۔“

بیعت کرنے والے واپس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ ﷺ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھانے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے بھیجا۔ آئندہ سال وہ حج کو گئے تو ان کے ساتھ بہتر مرد اور دو عورتیں تھیں۔ وہ دو عورتیں ام عمارہ نسیبہ بنت کعب اور ام مویع اسماء بنت عمرو بن عدی رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جو کہ جنگ کی بیعت تھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے:

”میرا خون تمہارا خون ہے میری پناہ تمہاری پناہ ہے میری حرمت تمہاری حرمت ہے۔ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو جس سے تمہاری جنگ میری بھی جنگ جس سے تمہاری صلح میری بھی صلح۔“

سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کے دست حق پرست پر بیعت کی وہ اسعد بن زرارہؓ ابوالمہشم بن تہان اور براء بن معرورؓ تھے۔ پھر تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے میں سے بارہ اشخاص پیش کرو جو اپنی قوم کے سردار اور ذمہ دار ہوں تاکہ وہ اپنی قوم کے نگران ہوں۔“ لوگوں نے 12 افراد کو نامزد کیا جن میں سے 9 خزرج سے اور 3 اوس سے تھے۔ پھر جب یہ اوی اور خزرجی واپس مدینہ پہنچے تو شہر میں اسلام ہی اسلام ہو گیا اور مدنی معاشرہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی ہجرت کے لیے خوب سازگار بن گیا۔

مکہ مکرمہ میں عقبہ (گھاٹی) کی مسجد جہاں بیعت عقبہ ہوئی



بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ

معراج سے واپسی پر نبی ﷺ نے تبلیغ و دعوت کی مہم کو مزید تیز کر دیا۔ اب آپ ﷺ مکہ کے آس پاس آباد دیگر قبائل کے ہاں تشریف لے جاتے۔ مگر آپ کی دعوت کے جواب میں کسی نے نرمی سے اور کسی نے سختی سے انکار کیا۔ بالآخر ایک روز آپ ﷺ نے میدان منیٰ کے باہر عقبہ (گھاٹی) کے موز پر چھ آدمیوں کی ایک جماعت دیکھی جو رسوم حج ادا کرنے یثرب سے مکہ آئی ہوئی تھی۔ ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطیبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ نبی ﷺ کی تبلیغ پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔

دوسرے سال سن 11 نبوی میں حج ہی کے زمانے میں پانچ پرانے اور سات نئے افراد رسول کریم ﷺ سے ملنے آئے اور آپ کے ہاتھ پر مکرر بیعت کی۔ (بعض نے اسی کو عقبہ اولیٰ بھی کہا ہے۔) ان لوگوں کی خواہش پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم اور مبلغ بنا کر ان کے ساتھ یثرب بھیجا گیا۔ اس سے اوس اور خزرج کے مابین نماز کی امامت کے سلسلے میں جھگڑے بھی ختم ہو گئے۔ جب نبی کریم ﷺ کو یثرب میں اشاعت اسلام کی خوشخبری ملی تو آپ ﷺ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو ایک خط ارسال فرمایا جس میں درج تھا کہ دن ڈھلے جمعے کی نماز پڑھا کر وچنانچہ یثرب میں پہلی نماز جمعہ میں 12 آدمی جمع ہوئے۔

تیسرے سال 12 نبوی کے موسم حج میں یثرب سے آنے والے 500 حاجیوں میں سے 73 مسلمان مرد اور دو خواتین تھیں۔ وہ نبی ﷺ سے اسی گھاٹی (عقبہ) میں رات کے وقت ملے اور بیعت کے موقع پر عرض کیا کہ آپ ﷺ اور دیگر مسلمان یثرب آجائیں تو ہم آپ ﷺ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے کوئی اپنے اہل خاندان کی کرتا ہے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ تھی، بعض نے اسی کو عقبہ ثانیہ لکھا ہے۔ تب نبی ﷺ نے ان کے لیے 12 نقیب مقرر فرمائے جو 12 خاندانوں کے لیے تھے اور بنو نجار کے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو نقیب النقباء بنایا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ جلد 19 ص 41، 42)

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ: عبادہ بن صامت بن قیس النصاری خزرجی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الولید تھی۔ وہ عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں حاضر ہوئے اور بنو عوف بن خزرج کے نقیب مقرر ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے اور ابو مرجم رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم کی۔ وہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں صدقات پر عامل مقرر کیا۔

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے دور میں قرآن جمع کیا تھا۔ وہ اہل صفہ کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے شام فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ

34 ہجری میں رملہ میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ وہ بے قد کے حسین و جمیل آدمی تھے۔

(اسد الغابہ: 3/159، 160)

اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ: اسعد بن زرارہ انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابوامامہ تھی۔ وہ انصار میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ اور ذکوان بن عبد قیس عتبہ بن ربیعہ سے ملے مکہ آئے۔ خوش نصیبی سے ان کی ملاقات نبی ﷺ سے ہو گئی، آپ ﷺ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن سنایا تو یہ مسلمان ہو گئے اور عتبہ سے ملے بغیر ہی مدینہ واپس آ گئے۔

اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں حاضر ہوئے اور بنو ساعدہ کے نقیب مقرر ہوئے۔ وہ لیلۃ العقبہ کو بیعت کرنے والے سب سے پہلے فرد تھے۔ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے مدینہ میں جمعہ پڑھایا۔ وہ شوال 1 ہجری میں بدر سے پہلے فوت ہوئے۔

ام عمارہ رضی اللہ عنہا: ام عمارہ نسیمہ بنت کعب انصاریہ بیعت عقبہ ثانیہ اُحد بیعت رضوان اور جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں۔ جنگ یمامہ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا اور بارہ زخم آئے۔

مُصْعَب بن عُمیر رضی اللہ عنہ: ان کا شجرہ نسب مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی رضی اللہ عنہ ہے جو پانچویں پشت میں نبی ﷺ کے نسب سے جا ملتا ہے۔ انہوں نے دار ارقم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو ان کی ماں اور خاندان والے انہیں اذیتیں دینے لگے۔ اس پر مصعب رضی اللہ عنہ نے دوبار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سن 11 ہجرت میں نبی ﷺ نے انہیں مبلغ بنا کر یثرب بھیجا جہاں ان کی حکیمانہ تبلیغ سے لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے جن میں رئیس اوس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اُسید بن خضیر رضی اللہ عنہ، رئیس خزرج سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے ذی اثر اصحاب شامل تھے۔ اگلے سال مصعب رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ آئے اور اڑھائی تین ماہ بعد مستقل طور پر یثرب ہجرت کر گئے۔ نبی ﷺ نے رئیس بخاری ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کا بھائی چارہ کر دیا۔ غزوہ بدر میں مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس مہاجرین کا علم تھا۔ غزوہ اُحد کے دوسرے مرحلے میں وہ ان 14 جانبازوں میں شامل تھے جو نبی ﷺ کے گرد حصار بنا کر آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اسلام کا علم تھا، اس دوران میں ابن قریظ نے یکے بعد دیگرے ان کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے مگر مصعب رضی اللہ عنہ نے پرچم اسلام گرنے نہ دیا۔ آخر کار وہ ابن قریظ کا نیزہ لگنے سے شہید ہو گئے تو ان کے بھائی ابوالرؤم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر علم تمام لیا۔



ہجرت نبوی

قریش معاملے کی نزاکت سمجھ چکے تھے کہ اب مہاران کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے اور رسول اللہ ﷺ کو باہر سے ساتھی اور مددگار میسر آ چکے ہیں اور ایک دوسرا شہر یثرب (مدینہ منورہ) ان کا مرکز بن چکا ہے۔ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں اور انصار ان کو پناہ مہیا کر رہے ہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ مسلمان ان کی مخالف قوت کے طور پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں سردار بن قریش نے دارالندوہ میں ایک اجلاس منعقد کیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایذا رسانی کی بجائے آپ ﷺ کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے اور طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کے لیے تمام قبائل سے نوجوان اکٹھے کیے جائیں تاکہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے اور قصاص نہ لیا جاسکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا منصوبہ بتلانے اور ہجرت کی اجازت دینے کے لیے نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت حال کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

﴿وَأَذِّنْ لِّمَنِكَرِهِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُظْهِرُوا أَوِيْقَتُكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَسْأَلُوا اللَّهَ وَيَسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرُ الْمَكِينِينَ ۝﴾

”جب وہ آپ کے بارے میں تجاویز پیش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے۔ وہ اپنی طرف سے تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر بہتر ہوتی ہے۔“

(الأنفال: 30/8)

تین دن غارتور میں ٹھہرنے کے بعد نبی ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہما کا نام لے کر مدینہ منورہ کو چل پڑے۔ یہ ربیع الاول کے آغاز کی بات ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ کی طرف الوداعی نظر ڈالی اور گرم آنسوؤں کے ساتھ فرمایا:

”اے میرے شہر مکہ! مجھے تجھ سے نکالا جا رہا ہے۔ مجھے علم ہے کہ تو اللہ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرا مرتبہ بھی سب شہروں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی قسم! اگر تیرے ہاں مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ انہوں نے مجھے اس محبوب ترین شہر سے نکال دیا ہے۔ اب مجھے رہائش کے لیے ایسا شہر عطا فرما جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔“


12 ربیع الاول کو یہ مبارک قافلہ قباء پہنچ گیا اور وہاں چار دن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ٹھہرا۔ اس دوران میں آپ نے یہاں پہلی اسلامی مسجد کی بنیاد رکھی۔^① پھر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور حضرت ابویوب انصاری (خالد بن زید خزرجی) رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بنے۔ مسجد نبوی اور حجرہوں کی تعمیر مکمل ہونے تک آپ نے اسی گھر میں قیام کیا، پھر حجرہوں میں

① ابن ہشام: 89/2، الطبری: 100-106/2 والبدایہ والنہایہ: 175-194 والطبقات الکبری: 227-238

① منتقل ہو گئے۔

ہجرت سے چند اہم نتائج برآمد ہوئے: مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوئے جس سے ان کے لیے اپنا دفاع ممکن ہو گیا۔ دین کی علانیہ دعوت کا موقع میسر آ گیا۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ شام کو آنے جانے والے قریش کے تجارتی قافلے مسلمانوں کی زد میں آ گئے اور انکی تجارت غیر محفوظ ہو گئی۔

ثور پہاڑ اور غار ثور



ہجرت نبوی

جب کفار مکہ نے دارالندوہ کے اجلاس میں نبی کریم ﷺ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے چچازاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر تاکید کی کہ ”میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے بیٹھ چلے آنا۔“ پھر اسی رات آپ ﷺ دروازے پر کفار کے مقرر کردہ قاتلوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے اور انہیں ساتھ لے کر شہر سے جنوب کو ہو لیے۔

مکہ مکرمہ سے روانگی: رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک عبداللہ بن اریقظہ سے کچھ رقم پر طے کر لیا تھا کہ وہ ان کو خفیہ راستوں سے مدینہ لے جائے گا۔ لہذا نبی کریم ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں اسکے سپرد کر دی تھیں کہ وقت مقررہ تک وہ ان کو چراتا رہے اور سنبھال کر رکھے۔ جب آپ ﷺ مکہ مکرمہ سے نکلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے سوا کسی کو آپ کے نکلنے کا علم نہ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں آپ ﷺ غار ثور پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے۔ ادھر عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق دن بھر قریش میں رہتے ان کی باتیں سنتے پھر شام کے بعد غار ثور میں آکر بتاتے جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ مکہ کے چرواہوں کے ساتھ مل کر بکریاں چراتے اور شام کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں ان کے پاس لے آتے۔ رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ان بکریوں کا دودھ پیتے اور ضرورت ہوتی تو بکری ذبح کر کے گوشت بھی کھاتے۔ یوں جمعے بھنے اور اتوار کی تین راتیں گزر گئیں اور کفار مکہ تھک ہار کر بیٹھ گئے تو عبداللہ بن اریقظہ دونوں اونٹنیاں اور اپنا ایک اونٹ لے کر آگئے اور پھر پیر 4 ربیع الاول کی شب تینوں نے بیڑب کی راہ لی۔ ایک اونٹنی پر نبی کریم ﷺ سوار تھے اور دوسری پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے چچے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ آگے آگے عبداللہ بن اریقظہ راستہ بتاتا جا رہا تھا۔

جب مشرکین کو رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نکل جانے کا پتہ چلا تھا تو ابوجہل نے ان کی گرفتاری کے لیے سو اونٹ انعام مقرر کر دیا تھا۔ قریش تلاش کرتے ہوئے اس پہاڑ پر بھی آچڑھے تھے جہاں آپ ﷺ تشریف فرما تھے بلکہ وہ غار کے منہ کے پاس بھی پھرتے رہے لیکن وہ آپ ﷺ کو نہ دیکھ سکے۔

سفر بیڑب کے دوران میں آپ ﷺ کا کھوج لگانے والوں میں سراقہ بن مالک بن جعشم بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ آپ ﷺ کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر اور نبی ﷺ سے امان پا کر سراقہ لوٹ گئے۔

یثرب میں نبی اکرم ﷺ کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا۔ آپ ﷺ شہر کے نزدیک پہنچے تو مسلمانوں نے مسلح ہو کر خرہ (ایک پتھر لے میدان) میں آپ کا باضابطہ استقبال کیا اور پھر اسلحہ کی چھاؤں میں آپ کو لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں آپ دائیں طرف کومڑے اور بستی قباء میں بنو عمرو بن عوف کے ایک صاحب کثوم بن ہدم کے ہاں اترے۔ یہ پیر کا دن تھا، تاریخ 8 ربیع الاول تھی اور آپ کی بعثت کا تیر ہوا سال تھا۔ مصنف ”رحمۃ للعالمین“ کے مطابق اس روز عیسوی تاریخ 23 ستمبر 622ء تھی۔ آپ قباء میں چودہ دن ٹھہرے جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قباء سے روانہ ہوئے تو ٹھوڑے ہی فاصلے پر نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، رسول اللہ ﷺ نے بنو سالم بن عوف کے علاقے میں ”وادئ زانواناء“ کے مقام پر دوسرے حاضرین سمیت جمعہ ادا فرمایا۔ آپ ﷺ نے اس مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے بعد میں ”مسجد جمعہ“ کہا جانے لگا۔

مدینہ منورہ میں تشریف آوری: رسول اللہ ﷺ نے جب قباء سے مدینہ تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے ننھیال ”بنو نجار“ کو پیغام بھیجا۔ وہ ہتھیار سجا کر آئے تو رسول اللہ ﷺ سوار ہو کر ان کے جلو میں چلے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ بنو نجار اور مسلمانوں کا ایک ہجوم آپ ﷺ کے ارد گرد تھا۔ کسی گھر کے پاس سے گزرتے تو اس گھر والے آپ سے اترنے کی درخواست کرتے مگر آپ ﷺ فرماتے: ”میری اونٹنی کو چلنے دے اللہ کے حکم سے رکے گی۔“

رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی ”قصواء“ چلتی رہی حتیٰ کہ جب وہ بنو مالک بن نجار کے محلہ میں پہنچی تو وہاں رکی جہاں بعد میں آپ ﷺ کی مسجد کا دروازہ بنا۔ اور وہ جگہ سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے تھی۔ یوں ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کی میزبانی کا شرف ملا۔


نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری کی خوشی میں حبشی لوگوں نے نیزوں اور خجروں سے کھیل دکھایا۔ پردہ نشین عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں خوشی سے نعرے لگا رہے تھے:

”اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے..... صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔“

مقامات ہجرت نبوی


جبل ثور: یہ پہاڑ مکہ سے قریباً ساڑھے چار کلومیٹر جنوب میں ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر واقع ایک غار میں نبی کریم ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے دوران میں تین دن اور تین راتیں گزاریں۔ غار کا بڑا ہانہ تقریباً ایک میٹر چوڑا ہے اور چھوٹا ہانہ تقریباً نصف میٹر کھلا ہے۔ اس کا طول اٹھارہ بالشت اور عرض گیارہ بالشت ہے۔

جبل ثور کی بلندی 759 میٹر ہے یعنی یہ پہاڑ جبل نور سے 120 میٹر زیادہ اونچا ہے۔ ثور پہاڑ کی چوٹی کا رقبہ تقریباً 30 مربع میٹر ہے۔ غار ثور میں سیدھے کھڑے ہوں تو سر چھت سے لگتا ہے۔ اس غار میں نبی کریم ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تین راتیں گزاریں تھیں۔ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) پروفیسر عبدالرحمن عبد)



ہجرت کا قلم (احمر)

40
کومیٹر



ہجرت نبوی

* نبی ﷺ 12 ربیع الاول مطابق 24 ستمبر 622ء بروز

ہر قیام پچھے

* یکم محرم 16 جولائی 622ء کے مطابق ہے اور یہی

ہجری تقویم کی ابتدا ہے۔

ہجرت کا راستہ

← قافلوں کا راستہ



طریق الہجرۃ: جادۃ ہجرت نبوی کے ساتھ ساتھ اب دورویہ کشادہ سڑک تعمیر کی جا چکی ہے جس کو طریق السریح کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں قُضیمہ رابغ، مستورہ، مفرق اور بدر والا راستہ متروک ہو گیا ہے جو طریق سلطانی کہلاتا تھا۔ عہد نبوی میں طریق القوافل یعنی قافلوں کے راستے پر مکہ معظمہ سے چل کر سرف، بطن مر، عُسفان، ثنیۃ الغزال، غدیر الاشطاط، کَدید، امج، خُلَیص، قُدید، المِشَل، کُلَیہ، الجُحفہ، بدر، المنصرف، الرویثہ، الروحاء، مَلَل اور ذوالحلیفہ کے مقامات آتے تھے جبکہ طریق الہجرت پر امج، خیمہ ام معبد، خَرار، ثنیۃ المرہ، مَذلجہ لَقَف، مَذلجہ معجاج، مَرُجح معجاج، بطن ذی کُشُر، الجَذاجِد، ذوسلم، بطن رِثم اور قُباء آتے ہیں۔

قُدید: یہ مقام خُلَیص سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں ہے۔ سفر ہجرت کے دوران میں نبی کریم ﷺ اُج کے جنوب مغرب اور قُدید کے مغرب سے گزر کر خیمہ ام معبد تک پہنچے تھے۔ ابن کبیر کہتے ہیں کہ جب خُجَیمین یثرب کی مہم سے لوٹا تو قُدید کے مقام پر ٹھہرا۔ آندھی سے اس کے لشکر کے خیمے پھٹ گئے اس لیے اس جگہ کا نام قُدید پڑ گیا۔ (معجم البلدان)

خیمہ ام معبد: اسے بُرام معبد بھی کہتے ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ کے مابین قُدید کے شمال میں واقع ہے۔ ہجرت کے سفر میں نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما ام معبد بن حارث غُسی کے خیمے پر پہنچے تھے اور یہاں دوپہر کو قیام کیا تھا۔ اس مقام پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ (معجم البلدان)

نبی کریم ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہما نے ام معبد کی اجازت سے ان کی بکری کا دودھ دودھ کر پیا تھا اور پھر یثرب کی راہ لی تھی۔ بعد میں ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے رسول کریم ﷺ کا مبارک حلیہ جس خوبی اور لطافت سے بیان کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ذوالحلیفہ: یہ اہل مدینہ اور مدینہ کے راستے میں آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مدینہ سے 8 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے یہیں احرام باندھا تھا۔

جُحفہ: نبی کریم ﷺ دوران ہجرت جُحفہ کے جنوب سے گزر کر ثنیۃ المرہ کی طرف گئے تھے۔ جُحفہ، مَضْرَاش، اردن، فلسطین، لبنان اور ترکی شمالی افریقہ، یورپ، امریکہ وغیرہ والوں کے لیے میقات ہے اگر وہ مدینہ منورہ سے نہ گزریں اور اگر مدینہ سے گزریں تو ان کا میقات بھی ذوالحلیفہ ہے۔ معجم البلدان جلد ثانی میں لکھا ہے: ”جب عمالِیق نے عاد بن رب کے بھائی بندوں بنو عَیْل کو کھدیزا تو وہ جُحفہ میں آن آباد ہوئے جو اس وقت مہیہ کہلاتا تھا۔ جب یہاں سیلاب نے تباہی مچائی تو اسے جُحفہ کہا جانے لگا۔“ (حجاف کے معنی ہیں تباہ کن سیلاب) اب یہ بستی موجود نہیں اس لیے قریب ہی رابغ نامی جگہ سے لوگ احرام باندھتے ہیں جو مکہ مکرمہ کے شمال میں 187 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

ثنیۃ المرہ: نبی کریم ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع اور خَرار سے ہو کر ثنیۃ المرہ پہنچے تھے جو دراصل ثنیۃ المرہ کی تخفیف ہے۔ اس گھاٹی کے نیچے ایک کنواں تھا۔ (معجم البلدان)

قباء اور مسجد قباء


مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 8 ربیع الاول 13 نبوی روز دوشنبہ 23 ستمبر 622ء کو نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما شرب کی بیرونی بستی قباء پہنچے تھے جسے عالیہ بھی کہا جاتا تھا۔ قباء ایک کنویں کا نام تھا جس کی نسبت سے بستی کا نام بھی قباء مشہور ہو گیا۔ نبی ﷺ نے قباء میں قبیلہ عمرو بن عوف کے سردار کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حبیب بن اساف کو شرف میزبانی بخشا۔ رات کو سعد بن ضیمہ اوسی کے ہاں مجلس لگتی۔ تین دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آپ سے آئے۔ قباء میں آپ کا قیام 14 دن رہا۔ قباء مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

مسجد قباء: احمد بن یحییٰ بن جابر کہتے ہیں: پہلے پہل ہجرت کر کے آنے والوں میں سے جو قباء میں قیام پذیر ہوئے انہوں نے ایک مسجد بنائی جس میں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سال بھر نمازیں پڑھتے رہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے قباء میں قیام فرمایا اور قباء کی مسجد میں نماز ادا کی۔ یہی مسجد تقویٰ کہلاتی ہے۔ مسجد قباء کو جاتے ہوئے سڑک کے بائیں جانب مسجد جمعہ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے اسی میں نماز جمعہ ادا کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسجد قباء کی تجدید و توسیع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ (گورنر مدینہ) اور پھر عثمانی خلیفہ سلطان محمود خان نے 1831ء میں اس کی تعمیر نو کی۔ فیصل شہید نے 1970ء میں اسے از سر نو 6 میٹر بلند چبوترے پر استوار کیا۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار وسط میں گنبد اور رقبہ 40 میٹر مربع تھا۔ 1988ء کی شاندار توسیع کے بعد مسجد قباء کا رقبہ 15 ہزار مربع میٹر ہو گیا ہے اور اس میں 10 ہزار نمازیوں کے لیے گنجائش ہے۔ اس کی چھت پر 58 چھوٹے اور تین بڑے گنبد ہیں اور چار پر شکوہ مینار ہیں۔ ساری مسجد مرکزی طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہے۔

مسجد قباء کے اندر رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک مرقوم ہے کہ ”جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا۔“ مسجد کے قبة الشنایا کی محراب کے اوپر اور آیت تائیس مسجد کے نیچے ترکی زبان میں قطعہ تاریخ کندہ ہے جس میں ”امام المسلمین شاہ جہان سلطان محمود خان“ کے عجز اور گناہ گاری کا اظہار کر کے خدمت تعمیر کی قبولیت اور بخشش کی دعا کی گئی ہے۔


(آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (1) حرم نبوی از پروفیسر عبدالرحمن عبد)





↓ مسجد قباء کے چند خوبصورت مناظر ↑





مدینہ منورہ

یہ سعودی عرب کے صوبہ المدینۃ المنورۃ کا دار الحکومت ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ملا کر حرمین الشریفین (دو بلند مرتبہ قابل احترام مقامات) کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ بطلمیوس کے جغرافیہ میں یثرب کا نام یثربہ (Jathripa) آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب ہجرت فرما کر یثرب آئے تو اس کا نام مدینۃ النبی مشہور ہوا جو کثرت استعمال سے فقط مدینہ کہلانے لگا۔ نبی ﷺ نے یثرب یا مدینہ کا نام طیبہ اور طابہ رکھ دیا۔ قرآن مجید میں یثرب اور مدینہ دونوں نام آئے ہیں۔

مدینہ منورہ 39 درجے 50 دقیقے طول بلد مشرقی اور 24 درجے 32 دقیقے عرض بلد شمالی پر خط سرطان کے شمال میں واقع ہے۔ یہ مکہ سے 300 میل اور پنج سے 130 میل کے فاصلے پر ہے اور سطح سمندر سے 600 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس کے شمال میں جبل احد اور جنوب میں جبل غیر واقع ہیں اور یہ دونوں مدینہ سے چار چار کلومیٹر دور ہیں۔ شہر کے مغرب اور مشرق میں بالترتیب حرہ ویرہ اور حرہ واقم ہیں۔ یہ سیاہ پتھروں کے علاقے ہیں اور میلوں کی مسافت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 20)

یثرب: تمام عربی مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ”یثرب“ دراصل سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی کا نام تھا جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام بھی ”یثرب“ پڑ گیا۔ یثرب کے ابتدائی باشندوں میں تین بڑے بڑے قبیلے تھے:

(1) عَمَلِیق: جس شخص کے نام پر اس شہر کا نام ”یثرب“ پڑا اس کا قبیلہ ”عَمَلِیق“ عمالِیق میں سے تھا۔ یہ لوگ ”عمَلِیق بن لاوذ بن سام بن نوح“ کی نسل سے تھے۔ پہلے وہ ہابل کے علاقے میں رہتے تھے پھر جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ ان میں سے کچھ یثرب کے علاقے میں جا گزیں ہوئے۔ یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ وہ عرب تھے اور علامہ طبری کے نزدیک ان کے جد امجد ”عمَلِیق“ عربی زبان کے بانی تھے۔

(2) یہود: جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے اور اس بات پر بھی مؤرخین متفق ہیں کہ یثرب کے اکثر یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آنے والوں کی نسل سے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بخت نصر کے حملہ (586 ق م) کے بعد بھاگ کر آئے تھے۔ پھر 70ء اور 135ء میں رومیوں نے یہود کو تشدد کا نشانہ بنایا تو باقی لوگ بھی فلسطین سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے بعض یثرب میں فروکش ہوئے۔ علاقہ یثرب میں پہنچنے والے اولین یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو یدل تھے۔ پھر ان کے بعد اور قبائل بھی آتے گئے۔

(3) اؤس اور خزرج: یہ دو قحطانی قبیلے تھے جو ”سدہ مارب“ کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے۔ راجح بات یہ ہے کہ یہ دونوں قبیلے تیسری صدی عیسوی میں یثرب آئے۔ (تاریخ مدینہ منورہ شائع کردہ دارالسلام)

مدینہ منورہ کے مشہور نام

الْمَدِينَةُ: یہ اس شہر کا سب سے مشہور نام ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے یہاں ہجرت فرمائی تھی کہ یہیں مدفون ہوئے۔
طَابَه: مدینہ کو ”طابہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اس پیارے شہر کا نام ”طابہ“ رکھا ہے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1385، مسند احمد: 5/106)

طابہ اور طیبہ: طیبہ کے معنی میں ہیں کیونکہ آپ ﷺ کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا۔
یثرب: یہ اس شہر کا اولین نام ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کا یہ نام تبدیل فرما کر ”الْمَدِينَةُ“ رکھ دیا۔ ممکن ہے تبدیلی کی وجہ یہ ہو کہ لغت میں ”یثرب“ کے معنی ’لامت‘، فساد اور خرابی کے ہیں۔ صحیحین میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سمجھا شاید یہ ”یعامہ“ یا ”ہبجر“ ہو لیکن معلوم ہوا کہ یہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔“


(صحیح البخاری، حدیث: 3622، صحیح مسلم، حدیث: 2272)

یا قوت حموی نے اس کے 29 نام لکھے ہیں مثلاً: عذراء، قدسیہ، عاصمہ، مسکینہ، محبوبہ، مختارہ، محبوره، فحشرہ، مبارکہ، مرحومہ، محفوظہ..... بعض ائمہ کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ”هَذَا خَلْقُ صَدُوقِ“ سے مراد مدینہ منورہ اور ”مُخْرَجُ صَدُوقِ“ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔“

(تاریخ مدینہ منورہ بحوالہ معجم البلدان: 5/83)

مدینہ منورہ میں چوبیس سے زیادہ پانی کے چشمے ہیں جن میں اہم ترین عین الزرقاء ہے۔ اس کا اجراء امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوا تھا۔ مدینہ کا پانی ہکا، سرد اور شیریں ہے۔ شہر کی آب و ہوا گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہوتی ہے۔ شہر کے ارد گرد کئی وادیاں ہیں جن میں وادی العقیق اور وادی رانواناء قابل ذکر ہیں۔ ان میں بہت سے باغات اور کھیت ہیں اور یہ اہل مدینہ کی سیرگاہیں ہیں۔ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب کھجور، انگور اور انار بکثرت ہوتے ہیں۔ جنوب میں قباء، عوالی اور عقیق کی سیاہ مٹی میں گندم، جو، انار، رنگ، برنگ کے پھول اور بنریاں پیدا ہوتی ہیں۔

مدینہ میں یہود کے قبیلے 20 سے زیادہ تھے۔ بنو قحطاع اور دوسرے یہود میں عداوت چلی آتی تھی کیونکہ بنو قحطاع بنو خزرج کے ساتھ یوم بعات میں شریک تھے اور بنو نضیر اور بنو قریظ نے بنو قحطاع کا بڑی بے دردی سے خون بہایا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہود کے قلعہ بند محلے (یا گڑھیاں) اطعام یا اطم کہلاتے تھے۔ یہود کی مادری زبان عبرانی تھی، مگر حجاز آ کر ان



استاذ عید القدر و انصاری کی فکری کاوش

کی زبان رفتہ رفتہ عربی ہو گئی تھی اور وہ اسی زبان میں روزمرہ کا کام کرتے تھے۔ عبرانی ان کی مذہبی اور تعلیمی زبان تھی۔ یہود کے علاوہ مدینہ میں عیسائی بھی موجود تھے۔ قبائل اوس مدینہ منورہ کے جنوب و مشرق میں اور خزرج وسطی اور شمالی علاقے میں آباد تھے۔ یہود ان دونوں قبیلوں کو لڑاتے رہتے تھے تاکہ وہ ان کا استحصال کرتے رہیں۔ اوس و خزرج کے درمیان آخری لڑائی جنگ بعاث تھی جو ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوئی تھی۔ مدینہ میں کئی بازار تھے جن میں سب سے اہم سوق بنی قیقاع تھا جو سونے اور چاندی کے زیورات و مصنوعات اور کپڑے والوں کا خاص بازار تھا۔ مدینے کے بعض گھروں کے ساتھ باغ بھی تھے۔ بیٹھنے کے لیے کرسی بھی استعمال ہوتی تھی۔ عورتوں میں کپڑا بننے اور کاتنے کا عام رواج تھا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد: 20)

مکہ مکرمہ کے غریب الوطن مہاجر نہایت بے سروسامانی کی حالت میں آئے تھے لہذا نبی کریم ﷺ نے مہاجرین و انصار میں باہمی ہمدردی اور امداد و اعانت کے لیے بھائی چارے کا ایک معاہدہ کر دیا۔ اسی زمانے میں آپ ﷺ نے یہود اور دیگر اقوام مدینہ منورہ سے اسن و امان کا معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ آنے پر نماز باجماعت کا اہتمام اور اذان کا حکم ہوا۔ یہاں آپ ﷺ نے جو مسجد تعمیر کی وہ مسجد نبوی کہلاتی ہے۔

مدینہ منورہ میں اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی۔ جہاد کا حکم ملا۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح و طلاق، غلاموں، اسیروں، دشمنان دین اور حدود و تعزیرات کے متعلق احکام نازل ہوئے اور دین اسلام نقطہ عروج کو پہنچ گیا۔ یہیں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق لڑے گئے۔ یہیں سے نبی کریم ﷺ نے شاہان وقت کو دعوتی خطوط لکھے۔ مدینہ منورہ ہی سے مسلمان ذوق جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر دنیا کی تخییر کے لیے روانہ ہوئے۔

مدینہ بطور دار الخلافہ: رحلت نبوی کے بعد خلافت اسلامیہ کا پہلا دار الحکومت 11ھ تا 36ھ مدینہ منورہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں مرکزی بیت المال قائم کیا۔ مسجد نبوی ﷺ کی توسیع کی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور حوض تعمیر کرائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اہم کارنامہ بھی مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع ہے۔ انہوں نے ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا اور عہد صدیقی کے قرآن مجید کے مدون نسخے کی نقلیں کرا کر مدینہ منورہ سے تمام ممالک اسلامیہ میں بھجوائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے بعد کوفہ واپس آ کر مدینے کے بجائے اس کو مرکز خلافت قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کر لی اور مرکز خلافت دمشق منتقل ہو گیا۔ اب مدینہ منورہ کی حیثیت ایک صوبائی شہر کی رہ گئی اگرچہ اس کی علمی اور دینی مرکزیت اب بھی باقی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی دستبرداری کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم ﷺ کا مرقہ مبارک ہے اور پہلے تین خلفائے راشدین اور بہت سے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر تابعین اور تبع تابعین یہاں دفن ہیں۔

مدینہ منورہ مختلف ادوار میں اموی، عباسی، عبیدی، زنگی، ایوبی، مملوک اور عثمانی سلطنتوں میں شامل رہا۔ عثمانی ترکوں نے

1908ء میں دمشق سے مدینہ تک ریلوے لائن بچھائی جسے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں انگریزوں کے ایجنٹ شریف ملکہ الحسین کے بددلوئیوں نے تباہ کر دیا۔ جنگ کے بعد شریف الحسین نے حجاز میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ والی رنجیدہ سلطان عبدالعزیز بن سعود نے 1924ء میں حجاز پر قبضہ کرنے کے بعد ملک الحجد والحجاز کا لقب اختیار کر کے ملک میں امن وامان قائم کیا اور 1930ء کی دہائی میں تیل کی دریافت اور برآمد سے ملک کی خوشحالی اور اقتصادی ترقی کا نیا دور شروع ہوا۔ مدینہ منورہ کی موجودہ ترقی و خوشحالی شاہ فیصل بن عبدالعزیز اور ان کے جانشینوں شاہ خالد مرحوم اور شاہ فہد کی مرہون منت ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع و تزئین پر کروڑوں پونڈ صرف کیے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی توسیع و تکمیل کی۔ مدینہ منورہ کی آبادی 3 لاکھ نفوس سے زائد ہے۔ ان میں ہندی (پاک و ہند کے)، بخاری (ترکستانی) اور شامی مہاجرین کی بھی خاصی تعداد ہے۔

مسجد نبوی

جب رسول اللہ ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک احاطہ منتخب کیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اس احاطے میں کھجور کے درخت، مشرکین کی کچھ قبریں اور کھنڈر تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے درخت کاٹ دیے گئے اور مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں اور کھنڈر ہموار کر دیے گئے۔ قبلہ کی دیوار میں کھجور کے درختوں کی قطار لگا دی گئی اور دائیں بائیں پتھروں کی دیواریں بنادی گئیں۔ اس دوران میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاُخْرٰى فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

”اے اللہ! آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی اہم نہیں انصار و مہاجرین کو معاف فرما۔“

سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مسجد کی قبلہ والی دیوار منبر کے اس قدر قریب تھی کہ بکری بھی وہاں سے بمشکل گزر سکتی تھی۔“

مسجد والی جگہ دو یتیم بچوں سہیل اور سہیل کی تھی جو سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے زیر پرورش تھے۔ وہ جگہ کھلیان کا کام دے رہی تھی۔ نبی ﷺ نے ان بچوں کو بلایا اور ان سے کھلیان کا سودا کیا تاکہ وہاں مسجد بن سکے۔ وہ دونوں کہنے لگے: ”نہیں ہم یہ جگہ بطور عطیہ دیتے ہیں۔“

حضرت نافع فرماتے ہیں: مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ”رسول اللہ ﷺ کے دور مسعود میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے۔“

(صحیح البخاری، حدیث: 3906)

مسجد نبوی کی پہلی توسیع: جب نبی کریم ﷺ خیبر سے واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں پہلی دفعہ توسیع کی گئی، کیونکہ



برائے اعلیٰ تعلیم کے ادارے کی طرف سے جاری کیے گئے

مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ آپ نے چوڑائی میں چالیس ہاتھ اور لمبائی میں تیس ہاتھ اضافہ فرمایا۔ اس طرح مسجد مربع کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کا مکمل رقبہ 2500 مربع میٹر ہو گیا، البتہ قبلہ کی طرف کی دیوار پہلی حد تک ہی رہی۔ کھجور کے تنوں سے بنائے ہوئے دور نبوی کے ستون کھوکھلے ہو گئے تو خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بدل دیا۔

خلافت راشدہ کی توسیع: خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17ھ میں مسجد نبوی کی انسانی قد تک بنیادیں پتھر سے بنائیں اور ستون لکڑی کے بنادیے۔ مسجد سے باہر ایک چبوترہ سا بنا دیا۔ اسے ”بُطْحَاء“ کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو شور وغل کیے بغیر نہ سکے یا اونچی آواز سے بات کرنا چاہے یا شہر پڑھنا چاہے وہ مسجد سے نکل کر یہاں آ بیٹھے۔“ بعد کی کسی توسیع میں بطحاء کو مسجد کے اندر شامل کر لیا گیا۔


خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 29ھ میں مسجد نبوی میں قبلہ اور شمال اور مغرب کی جہات میں اضافہ فرمایا۔ قبلہ کی طرف ایک برآمدے کا اضافہ کیا اور قبلہ کی دیوار اس جگہ بنائی جہاں وہ آج ہے۔ مغرب کی طرف برآمدے کے علاوہ شمال کی طرف دس ہاتھ اضافہ فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ تعمیر منقوش پتھروں سے تھی اور چھت سا گوان کی خوشبودار لکڑی سے ڈالی گئی، البتہ مقصورہ کی اینٹوں ہی سے بنایا گیا۔

اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے حکم پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے 88ھ میں مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور 91ھ میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ مغرب کی طرف بیس ہاتھ اور مشرق کی جانب تقریباً تیس ہاتھ کا اضافہ کیا گیا۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے حجرے بھی مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ شمالی جانب بھی اضافہ کیا گیا۔ تعمیر جدید منقوش پتھر سے کی گئی۔ ستون کھوکھلے پتھر سے بنائے گئے اور درمیان میں لوہا اور سیسہ ڈالا گیا۔ دو چھتیں ڈالی گئیں، خلی چھت سا گوان کی لکڑی سے تیار کی گئی۔ مسجد نبوی میں مینار سب سے پہلی مرتبہ ولید کی اس توسیع ہی میں بنائے گئے۔ ابن زبالہ وغیرہ کی روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کی تو چار مینار بھی بنائے۔ (وفاء الوفاء: 2/502، 513، 526)

محراب بھی اسی توسیع میں بنائی گئی۔ مسجد کی دیواروں پر اندرونی جانب سنگ مرمر، سونا اور رنگدار اینٹیں لگائی گئیں۔ اسی طرح ستونوں کے بالائی حصوں اور دروازوں کی چوکھٹوں اور چھت پر سونے سے طع کاری کی گئی۔ نیز مسجد کے بیس دروازے بنائے گئے۔

مہدی عباسی کا دور: 161ھ میں جب خلیفہ مہدی حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ گیا تو جعفر بن سلیمان کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا۔ اس کام میں اس کے ساتھ عبداللہ بن عاصم بن عمر بن عبدالعزیز اور عبدالملک بن شیبہ غسانی کو بھی مقرر کیا۔ اس دفعہ شمالی جانب اضافہ کیا گیا۔ مہدی نے مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ گھر خرید لیے۔ ان میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر جسے دارملیکہ کہا جاتا تھا، شریح بن خنہ رضی اللہ عنہ کا گھر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر جسے دارالقراء کہا جاتا تھا، مسجد کے احاطے میں شامل کر دیے گئے۔

عثمانی توسیع: خلیفہ عبدالحمید عثمانی کے عہد (1265ھ تا 1277ھ) میں مقصورہ، منبر شریف، مغربی دیوار، محراب نبوی



مسجد نبوی کی مرحلہ وار توسیع (تاریخ اور نگاروں کے آئینے میں)

نبی ﷺ کے مبارک ہاتھوں مسجد نبوی کی بنیاد (سن 1ھ)

نبی ﷺ نے توسیع فرمائی (7ھ/628ء میں فتح خیبر کے بعد)

توسیع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ (17ھ/638ء)

توسیع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (29ھ/649ء)

توسیع ولید بن عبدالملک اموی (88ھ/707ء)

عبد ولید بن عبدالملک (86ھ تا 96ھ/705ء تا 715ء)

میں گورنر مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں

مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے دوران پہلی مرتبہ چاروں کونوں پر

چار مینار تعمیر کیے گئے پہلی بار مسجد کی محراب بنی نیز امہات المؤمنین

کے حجرے مسجد کی توسیع میں شامل کر لیے گئے۔

توسیع مہدی بن منصور عباسی (161ھ/777ء)

توسیع سلطان اشرف قلیانی (888ھ/1483ء)

توسیع سلطان محمد مجید عثمانی (1265ھ/1848ء)

توسیع شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود (1372ھ/1952ء)

توسیع خادم الحرمين الشريفين شاہ فہد بن عبد العزیز (1406-16ھ/1985-95ء)

شاہ فہد کی توسیع سے دو نبوت کا سامرا مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا ہے۔



محراب سلیمانی، محراب عثمانی اور بڑے مینار کے سوا ساری مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ مسجد کے تمام فرش پر اور قبلہ والی دیوار کے نصف تک سنگ مرمر لگایا گیا۔ چھت کے تمام گنبدوں میں نقش و نگار بنائے گئے۔ روضہ اطہر کے ستونوں پر سفید اور سرخ سنگ مرمر لگایا گیا تاکہ وہ دوسرے ستونوں سے ممتاز نظر آئیں۔ اس کام میں تین سال لگے۔ اس عمارت میں ایک نیا دروازہ ”باب مجیدی“ کے نام سے بنایا گیا جو دراصل مسجد کے اندر تھا۔

پہلی سعودی توسیع و تعمیر 1368ھ (1951ء): میں جلالتہ الملک عبدالعزیز آل سعود کے حکم سے مسجد کے شمال، مشرق اور مغرب میں ارد گرد کے علاقے خرید کر مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ عمارت مجیدہ میں سے چھت دار جنوبی حصہ اسی طرح رہنے دیا گیا۔ اس طرح مسجد کی کل پیمائش 16326 مربع میٹر ہو گئی۔ یہ توسیع جس پر 5 کروڑ ریال خرچ ہوئے اکتوبر 1955ء میں مکمل ہوئی۔

دوسری سعودی توسیع (1405ھ تا 1414ھ): خادم الحرمین الشریفین فہد بن عبدالعزیز کے عہد میں ہونے والی اس توسیع کے بعد نمازیوں کی گنجائش پہلے کے مقابلے میں نوگنا ہو گئی ہے۔ بیرونی دیواروں پر سنگ خارا لگایا گیا ہے۔ اس توسیع میں چھ نئے مینار بنائے گئے ہیں۔ زمینی منزل کی پیمائش 82,000 مربع میٹر ہے اس میں 2104 ستون ہیں جو 6x6 میٹر کے والان بناتے ہیں اور جس جگہ چھت گنبد کی صورت میں ہے وہاں 18x18 میٹر کے والان ہیں۔ یوں نئی توسیع میں ستائیس والان ہیں اور ان کی چھت متحرک گنبدوں کی صورت میں ہے تاکہ گنبد ہٹانے سے طبعی روشنی اور ہوا حاصل ہو سکے۔ چھت کے اوپر نماز کی ادائیگی کے لیے وسیع صحن بنائے گئے ہیں جن کی پیمائش 58,250 مربع میٹر ہے۔ مکمل چھت کی پیمائش 67,000 مربع میٹر ہے۔ چھت پر تقریباً 90,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چھت کے اوپر 11000 مربع میٹر جگہ پر برآمدے بنائے گئے ہیں جن کی بلندی 5 میٹر ہے۔

(تاریخ مدینہ منورہ مطبوعہ دارالسلام ص 70 تا 77)

عثمانی ترکوں نے تیرھویں صدی ہجری میں مسجد نبوی میں جو توسیع کروائی اس کی تفصیل حد درجہ ایمان افروز ہے۔ ترکوں نے جب اس کام کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں اعلان عام کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق مختلف علوم و فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ سنگ تراش، معمار، نقشہ نویس، خطاط، رنگ ساز، شیشہ گر، چمکی کاری کے ماہر، غرض کہ ہر علم اور ہر ہنر کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ترک حکومت نے اپنے تمام اہلکاروں اور سفیروں کو ہدایت کی کہ ان تمام ماہرین اور ان کے خاندانوں کو سفر کی ہر سہولت، بہم پہنچائی جائے، پھر قسطنطنیہ کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطرافِ عالم سے آنے والے ان قافلوں کو اتار کر ہر شعبے کے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس سارے عمل میں کئی سال لگ گئے۔



اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا نیا باب شروع ہوا۔ خلیفہ وقت جو اس وقت کی معلوم دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، خود نئے بنائے گئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہن ترین بچے کو اپنا فن سکھائے اور اس طرح سکھائے

کہ اس فن میں اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اس اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو قرآن حفظ کروائے گی اور شہسوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ پچیس برس بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن، باعمل مسلمان اور صحت و تندرستی کا پیکر تھا۔ یہ تعداد میں پانچ سو کے لگ بھگ تھے۔

اس دوران میں ترکوں نے پتھروں کی فنی کامیابی دریافت کیں، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی ﷺ کے شہر پہنچا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ النبی سے کئی میل دور ایک الگ بستی بسائی گئی تاکہ پتھر کٹیں تو شور سے مدینہ کا ماحول متاثر نہ ہو۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کتنا تر شا ہوا پتھر مسجد نبوی پہنچتا اور اس میں کسی ترمیم و تخفیف کی ضرورت پڑتی تو ٹھیک کرنے کے لیے اس بستی میں واپس لے جایا جاتا۔ اور جب ماہرین نے کام شروع کیا تو انہیں حکم یہ تھا کہ ہر شخص کام کے دوران میں با وضو رہے اور مسلسل تلاوت قرآن کرتا رہے۔ تعمیر نو اور توسیع کا کام پندرہ سال جاری رہا۔ ایک حصے کو منہدم کر کے اسے بنالیتے تو اس کے بعد ہی دوسرے حصے کی تعمیر شروع کرتے تاکہ نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ ہو۔ ریاض الجنۃ کی تعمیر کے دوران میں چھت اور زمین کے درمیان ستونوں کے اوپر لکڑی کے تختے لگا دیے تاکہ چھت منہدم ہوتے وقت اوپر سے مٹی نہ گرے۔ حجرہ مبارکہ جہاں امام الانبیاء ﷺ کی قبر مبارک ہے اس کی چالیوں کے چاروں طرف کپڑا لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے۔

نویس اور آخری توسیع سعودیوں کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ ٹحلی منزل پر 2104 ستونوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹحلی منزل اور چھت پر 2 لاکھ 68 ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔ صحنوں میں 4 لاکھ 30 ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازوں کی مجموعی تعداد پچاسی ہے۔ چھت کے بڑے بڑے متحرک گنبدوں کی سجاوٹ پر 68 کلوگرام سونا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ گنبد مرکزی کمپیوٹر نظام کے تحت ایک منٹ میں کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ صحن میں روشنی کے لیے 151 فانوس نصب کیے گئے ہیں۔ زیر زمین کار پارکنگ میں 4500 گاڑیاں کھڑی کی جاسکتی ہیں۔ مسجد کے ایئر کنڈیشننگ کے نظام کو دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس کا پلانٹ مسجد سے سات میل دور ہے تاکہ شور مسجد سے دور رہے۔ ٹھنڈا پانی اور ہوا ایک سرنگ کے ذریعے مسجد میں پہنچتے ہیں۔

مسجد نبوی کی ایک خصوصی شان یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مکانات اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ حجرہ مبارکہ کے قریب مسجد کے جنوب مشرقی کونے پر باہر صحن میں کھڑے ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں میزبان رسول ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ مسجد کے جنوبی حصے میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور عم رسول عباس رضی اللہ عنہ کے مکان شامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کی جگہ ایک مسافر خانہ تھا جو سعودی حکومت کی پہلی توسیع تک باقی تھا۔ آج یہ مشرقی صحن کا حصہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکانات بھی مشرقی حصے میں شامل ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مکان بھی مسافر خانے کے طور پر ماضی قریب تک موجود تھا اور ”رابط خالد“ کہلاتا تھا اب وہ بھی مشرقی حصے میں شامل ہے۔ حضرت عبدالرحمن



بن عوف رضی اللہ عنہ کا مکان اتنا بڑا تھا کہ اس کا نام ہی ”دار کبریٰ“ یعنی بڑا گھر تھا۔ وہ اس میں رسول اللہ ﷺ کے مہمانوں کو ٹھہرایا کرتے تھے۔ اب وہ مسجد کے شمالی حصے میں شامل ہے۔ مسجد کے مغربی حصے میں حضرت عمرؓ حضرت زبیر بن عوامؓ حضرت حسان بن ثابتؓ سیدہ سکینہ بنت حسینؓ حضرت عمار بن یاسرؓ اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ کے مکانات شامل ہیں۔
(”مسجد نبوی کی بہار“ محمد اظہار الحق - اردو ڈائجسٹ ’نومبر 2003ء)

مسجد جمعہ: اسے ”مسجد جمعہ“ یا ”مسجد صلاۃ الجمعہ“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب قباء ہستی میں چند دن ٹھہر کر مدینہ منورہ کی طرف چلے تو وادی رانونا میں بنو سالم بن عوف کے محلے میں اس مقام پر آپ ﷺ نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس جگہ مسجد بنادی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور گورنری میں اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ اس مسجد کے اور بھی کئی نام ہیں: مسجد بنی سالم، مسجد وادی، مسجد خبیب اور مسجد عاتکہ۔

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کی توسیع اور نئی تعمیر 1412ھ میں مکمل ہوئی ہے۔ اس کا کل رقبہ 1630 مربع میٹر ہے اور اس میں 650 نمازی سما سکتے ہیں۔ اس مسجد میں ایک گنبد ہے جس کا قطر 12 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ چار چھوٹے قبة بھی ہیں۔ اس کے مینار کی بلندی 25 میٹر ہے۔ مسجد جمعہ قباء سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
(”تاریخ مدینہ منورہ“ (دارالسلام) 104، 105)

دارابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ: سیدنا ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر تصرف دو منزلہ مکان تھا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں اپنے مکان کا بالائی حصہ پیش کرنا چاہا مگر آپ نے زائرین کی سہولت اور راحت رسانی کی خاطر زیریں منزل پسند فرمائی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ مگر حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ کا دل ادب و احترام اور محبت سے لبریز تھا۔ ان کو ہر وقت فکر دامن گیر رہتی کہ رحمت کائنات ﷺ نیچے قیام پذیر ہیں اور ہم اوپر رہتے ہیں لہذا انہوں نے عاجزی و انکساری سے عرض کی کہ ہمارے ایمانی جذبات اور آپ کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ آپ بالائی منزل پر اقامت گزین ہو جائیں تاکہ سوائے اب کا احتمال نہ رہے چنانچہ نبی ﷺ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور بالائی منزل میں قیام پذیر ہو گئے۔
(الہدایہ والنہیۃ: 3/199)


حافظ ابن حجر مزی نے ”تہذیب“ میں لکھا ہے کہ نبی ﷺ نے دارابی ایوب میں ایک ماہ قیام کیا۔ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ: ابوالیوب خالد بن زید بن کلیب نجاری خزرجی رضی اللہ عنہ ہجرت سے 31 سال پہلے یشرب میں پیدا ہوئے۔ ان کا قبول اسلام بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیانی وقفے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ہجرت کے وقت مسجد نبوی اور اپنے مکان کی تعمیر سے پہلے انہی کے مکان پر قیام فرمایا تھا۔ مواخات میں آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات اور بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔

9ھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملے کی غرض سے ایک بیڑا تیار کیا تھا۔ یزید بن معاویہ اس کا سپہ





استنبول (ترکی) میں حضرت
ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر
کے مختلف مناظر



سالار تھا۔ ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کے علاوہ ابوالیوب رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔

چار سال تک آپ قسطنطنیہ پر حملوں میں شریک رہے پھر آپ بیمار ہو گئے۔ یزید عیادت کے لے آیا اور پوچھا: ”آپ کو کچھ کہنا ہے۔“ فرمایا: ”ہاں یہ کہنا ہے کہ جب میں مرجاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک لے جاسکے لے جاؤ اور جب آگے بڑھنے کا امکان نہ رہے تو اسی جگہ مجھے دفن کر دو۔“ چنانچہ 52ھ کی ایک رات ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ غالباً اسہال کی بیماری سے فوت ہو گئے۔ نماز جنازہ یزید نے پڑھائی اور قسطنطنیہ کی فسیل کے سامنے انہیں دفن کر دیا گیا۔

(ملخص از طبری، طبقات ابن سعد، الاستیعاب، أسد الغابہ)

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان سے ڈیڑھ سوا حدیث منسوب ہیں جن میں سے پانچ متفق علیہ ہیں۔ استنبول (قسطنطنیہ) میں ان کی قبر ہے اور ان کے نام سے منسوب مسجد ”جامع یوب“ کہلاتی ہے۔ ساتھ ہی قبرستان یوب بھی ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلام، جلد 1)

مدینہ منورہ کے برساتی نالے (وادیاں) اور کنوئیں

وادی رانواناء: یہ وادی (برساتی نالہ) مدینہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ 7ہ ویرہ کے مشرق میں جبل عیر سے شروع ہو کر مسجد جمعہ کے قریب وادی مزور اور وادی مذہب میں جا ملتی ہے۔ آج کل اسے ”سیل سیدنا حمزہ“ کہا جاتا ہے۔ وادی رانواناء پر عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان نے بند باندھا تھا جس کی تجدید عثمانی خلیفہ عبدالعزیز خان کے عہد 1289ھ/1872ء میں کی گئی جیسا کہ بند کی بڑی چٹان پر کندہ عبارت سے واضح ہے۔

وادی بطحان: قدیم مورخین نے اس کا نام جفاف بیان کیا ہے جبکہ موجودہ دور میں اسے ”قربان“ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد قباء سے مشرقی جانب عوالی (العالیہ) کے علاقے سے شروع ہو کر مسجد فتح کے مغرب میں وادی رانواناء سے جا ملتی ہے اور پھر زعابہ کو چلی جاتی ہے۔ بنو نضیر نے یثرب آ کر بطحان کے کنارے مقیم ہو کر کھیتی باڑی شروع کی تھی۔

وادی عقیق: یہ وادی شہر کے جنوب مغرب سے شروع ہو کر شمال مغرب تک پھیلی ہوئی ہے اور مدینے کی وادیوں کے سنگم مجمع الاسیال نزد زعابہ سے جا ملتی ہے۔ اس کا طول 150 کلومیٹر ہے۔ بخاری شریف (جلد اول: 207، 314) میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک رات جبکہ میں وادی عقیق میں مقیم تھا تو ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اور کہا آپ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لیں۔“ وادی عقیق کا زیریں حصہ ذوالحلیفہ میں واقع ہے۔ حرہ ویرہ سے ذوالحلیفہ کے راستے میں نیلوں کا ایک سلسلہ ہے جو قدیم زمانہ کے عالیشان محلات کے کھنڈر ہیں مثلاً: قصر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، قصر سکینہ بنت حسین، قصر سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، قصر عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفان۔ اس وادی میں واقع بعض کنوئیں مثلاً: بئر رومہ اور بئر عروہ تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ وادی کھجوروں اور باغات کا علاقہ تھی۔

وادی مُذُنِيب: یہ یہودی قبیلہ بنو نضیر کی قیام گاہ تھی۔

وادی مہزور: یہاں یہودی قرظہ آباد تھے۔

وادی قفا: مدینے کے شمال مشرق میں واقع اس وادی کے جنوب میں بنو حارثہ بنو عبد الاشہل اور بنو زعوراء رہتے تھے۔

بئر رومہ: یہ مسجد قبلتین کے شمال مغرب میں وادی عقیق میں ہے۔ جب تیج یمن آیا تھا تو اس نے وادی عقیق میں قیام کے دوران میں یہ کنواں بنوایا تھا۔ اسلام سے پہلے اسے بئر الملک کہا جاتا تھا بعد ازاں بئر رومہ کے نام سے شہرت حاصل کی اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے یہودی مالک سے 35 ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو یہ بئر عثمان کہلانے لگا۔ ان دنوں یہ خشک ہے البتہ اس کے بالکل قریب ایک نیا کنواں ہے جس میں نیوب ویل لگا ہوا ہے۔

بئر اریس: اریس نامی یہودی کا یہ کنواں مسجد قباء کے شمال مغرب میں باغ کی چار دیواری کے اندر واقع تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بخاری میں ایک طویل روایت ہے کہ نبی ﷺ اس کی منڈیر پر پاؤں مبارک اندر لٹکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے پاس باری باری حضرت ابوبکرؓ عمرؓ اور عثمان رضی اللہ عنہم آئے تو آپ نے ہر بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق نبی ﷺ کے دست اطہر میں چاندی کی ایک انگوٹھی تھی جو آپ کے بعد باری باری ابوبکرؓ عمرؓ اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھ کی زینت بنی۔ آخر کار عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ بئر اریس میں گر گئی۔ (بخاری جلد 2: 873) اس کے بعد ان کے خلاف فتنوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ (وفاء الوفاء جلد 2) 1968ء میں یہ کنواں سڑک کی توسیع کی زد میں آ گیا اور یوں اس کا نشان تک معدوم ہو گیا۔ (معین الحجاج: 488)

بئر غرس: یہ مسجد قباء سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر شمال مشرقی جانب ”قربان“ کے مقام پر واقع تھا۔ نبی ﷺ نے اس کنوئیں کا پانی نوش فرمایا اس سے وضو کیا اور آپ کو آخری غسل بھی اس کے پانی سے دیا گیا۔ یہ کنواں حضرت سعد بن ضیمہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھا۔ اسے بئر غرس بھی کہتے ہیں۔ ایک مسجد اور باغ بھی الغرس کے نام سے 1392ھ/1972ء تک موجود تھا۔ (تاریخ المدینہ المنورہ)



مدینہ منورہ کی بعض مشہور مساجد

علامہ زین الدین الراغی متوفی 816ھ/1413ء نے مدینہ منورہ کی مساجد کی تعداد 29 بتائی ہے جبکہ محمد صالح المنجد 1401ھ/1981ء میں مساجد مدینہ کی تعداد 124 بیان کرتے ہیں۔ مسجد نبوی، مسجد قبا، مسجد جمعہ اور مسجد قبلین کے علاوہ مدینہ کی مشہور مسجدیں درج ذیل ہیں:

مسجد غمامہ یا مصلی العید: نبی ﷺ اپنی حیات طیبہ کے آخری برسوں میں عیدین کی نماز یہیں ادا فرماتے تھے۔ آپ نے نجاشی جلیقہ کی عاتبانہ نماز جنازہ بھی اس جگہ پڑھائی۔ یہ مسجد نبوی کے باب السلام سے تقریباً 1500 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ نویں صدی ہجری تک اسی مسجد میں عیدین کی نماز ادا کی جاتی رہی، پھر غالباً مسجد نبوی کے کشادہ ہونے کے باعث وہاں نماز عیدین کا اہتمام کیا جانے لگا۔ اس ننھی سی مسجد کے آٹھ چھوٹے گنبد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں نماز استسقاء کے دوران میں ایک بادل نے آپ ﷺ پر سایہ کیے رکھا تھا لہذا اسے آج کل مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔

مسجد اجابہ: یہ مسجد قبیلہ اوس کے بنو معاویہ بن مالک بن عوف کی بستی میں واقع تھی لہذا اسے مسجد بنی معاویہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عامر بن سعید رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عوالی کی طرف تشریف لے گئے اور بنو معاویہ کی مسجد میں دو رکعتیں پڑھیں۔ ہم نے بھی دو نفل جماعت کے ساتھ ادا کیے پھر آپ ﷺ دیر تک دعا مانگتے رہے اور ارشاد فرمایا: ”میں نے اپنے رب سے تین چیزیں طلب کی تھیں جن میں سے دو کے متعلق دعا قبول ہوئی اور تیسری کے حق میں قبول نہ ہوئی۔ میں نے دعا کی: ”پروردگار! میری امت کو قحط کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، دوسری التجا یہ تھی کہ میری ساری امت کو غرقابی سے بچانا اور تیسری (جو قبول نہ ہوئی وہ) تھی کہ مسلمان باہم لڑائی نہ کریں۔“ (مسلم کتاب الفتن) اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد اجابہ (قبولیت کی مسجد) مشہور ہوا۔ اب یہ مسجد بقیع کے شمال میں شارع فیصل (شارع شہین) پر واقع ہے اور مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 580 میٹر ہے۔ 1418ھ/1997ء کی توسیع کے بعد مسجد کی عمارت کا رقبہ 1000 ہزار مربع میٹر ہے۔ ایک گنبد اور 33.75 میٹر بلند مینار بھی ہے۔

مسجد بنی ظفر: یہ مسجد جنت البقیع کے مشرق میں بستی بنو ظفر میں واقع تھی۔ ایک مرتبہ سید کوئین رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد بنی ظفر میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں ایک چنان پر بیٹھ گئے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت کی فرمائش کی۔ انہوں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا میری خواہش ہے دوسروں سے قرآن سنوں۔ قلیل ارشاد میں جب انہوں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت پر پہنچے ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

شہیدؑ تو دیکھا کہ نبی ﷺ کے آنسو جاری تھے اور آپ نے فرمایا: ”بس بس۔“ (بخاری حدیث: 4582)

مسجد فتح: یہ مسجد سلع پہاڑ پر مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ اسے مسجد اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ 5ھ میں جب کفار قبائل عرب (احزاب) نے مدینہ پر حملہ کر دیا تھا اور مسلمانوں نے بچاؤ کے لیے خندق کھودی تھی تو نبی ﷺ متواتر تین دن اس جگہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کی دعا فرماتے رہے۔ تیسرے دن کفار کی سخت تیر اندازی کے باعث نبی ﷺ اور صحابہ اس طرح مصروف جہاد رہے کہ ان کی چار نمازیں قضا ہو گئیں جو عشاء کے وقت ادا کی گئیں۔ (بخاری جلد 1) یہیں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ پر نصرت و فتح کی وحی اتاری اور آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا: (اَبِشْرُوا بِفَتْحِ اللّٰهِ) ”اللہ کی طرف سے نصرت و فتح کی وحی پر خوش ہو جاؤ۔“ اس مسجد کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس مقام پر کفار کے لشکروں (احزاب) کے خلاف بددعا فرمائی تھی: (اَللّٰهُمَّ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ) ”اے اللہ! ان لشکروں کو شکست دے۔“

(تاریخ مدینہ منورہ (دار السلام) اور تاریخ المدینہ المنورہ)



حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا سفر (از اصفہان تا مدینہ منورہ)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں علاقہ اصفہان کی ایک بستی ”جسی“ کا رہنے والا فارسی شخص تھا۔ میرے والد محترم کسان تھے۔ انہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا حتیٰ کہ وہ ہر وقت مجھے گھر ہی میں رکھتے تھے جس طرح لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ میں نے بخوی دین کی خوب خدمت کی حتیٰ کہ میں ”آگ“ کا ناظم بن گیا جو ہر وقت آگ جلائے رکھتا ہے، کبھی اس کو بجھنے نہیں دیتا۔ میرے باپ کی بہت بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن وہ کسی عمارت کی تعمیر میں مصروف تھے لہذا مجھ سے کہنے لگے: ”بیٹا! میں آج ادھر مصروف ہوں جاگیر پر نہیں جاسکتا۔ تم جاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو۔“ انہوں نے مجھے چند کام بتائے پھر مجھ سے کہا: ”بیٹا! زیادہ دیر نہ لگانا کیونکہ میرے نزدیک جاگیر سے زیادہ تم اہم ہو۔ اگر تمہیں تاخیر ہوگی تو میرے لیے ہر چیز بے فائدہ ہے۔“ میں جاگیر کی طرف چلا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا۔ میں پاس سے گزرا تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے ارد گرد کی دنیا کا کوئی پتہ نہ تھا کیونکہ والد صاحب نے مجھے گھر ہی میں رکھا تھا۔ جب میں نے ان کی آوازیں سنیں تو میں گرے میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی نماز بہت اچھی لگی۔ مجھے ان کے معاملے میں رغبت پیدا ہوئی اور میں نے دل میں کہا: ”یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔“

اصفہان میں شاہ عباس صفوی کے دور کی مسجد الامام اور اس کے سامنے خوبصورت میدان



میں انہی میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جاگیر پر تو میں جا ہی نہ سکا۔ میں نے گرجے والوں سے پوچھا: ”اس دین کا مرکز کہاں ہے؟“ انہوں نے کہا: ”شام میں۔“ میں واپس والد محترم کے پاس پہنچا تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ میری تلاش میں ادھر ادھر آدی بھیج چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے: ”بیٹا! تو کہاں رہا؟ میں نے تجھے تاکید نہیں کی تھی کہ جلدی آنا؟“ میں نے کہا: ”ابا جان! میں جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ گرجے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی۔ میں سورج ڈوبنے تک انہیں کے پاس بیٹھا رہا۔“ وہ بولے: ”بیٹا! اس دین میں کوئی خوبی نہیں۔ تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے بہت اچھا ہے۔“ میں نے کہا: ”نہیں! ابا جان! اللہ کی قسم! وہ ہمارے دین سے اچھا ہے۔“ انہوں نے میری اس بات سے خطرہ محسوس کیا اس لیے انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور گھر میں بند کر دیا۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھاگ کر شام چلے جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب عیسائی تاجروں کا قافلہ شام سے آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے کہا جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس شام جانے لگیں تو مجھے بتانا۔ جب قافلہ واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ میں نے بیڑی پھینک دی اور ان کے ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ شام پہنچ گیا۔ وہاں میں نے پوچھا یہاں عیسائیت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا ”گرجے کا لاٹ پادری۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس لاٹ پادری کے ساتھ رہے مگر وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ ایک دوسرے لاٹ پادری کے پاس رہے جو اچھا آدمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: ”جناب آپ جانتے ہیں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟“ پادری نے کہا: ”بیٹا! اللہ کی قسم! میں کسی کو اس صحیح دین پر نہیں دیکھ رہا جس پر میں کاربند رہا۔ صحیح لوگ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ باقی لوگ دین بدل چکے ہیں اور دین کی اکثر باتیں چھوڑ چکے ہیں! البتہ موصل میں ایک آدمی میری طرح صحیح دین پر قائم ہے۔ تم اس کے پاس چلے جانا۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ موصل کے لاٹ پادری کے پاس چلے جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب یہ لاٹ پادری فوت ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا تو میں موصل کے لاٹ پادری کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ فلاں پادری صاحب نے اپنی وفات کے وقت مجھے آپ کے پاس آنے کی نصیحت کی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ آپ بھی انہی کے دین پر ہیں۔ انہوں نے کہا: ”میرے پاس ٹھہرو۔“ چنانچہ میں ان کے پاس رہا۔ میں نے انہیں ان کے ساتھی کے دین پر بہترین آدمی پایا لیکن تھوڑی مدت بعد ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میں نے ان سے گزارش کی ”جناب! پہلے پادری صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اب آپ بھی اللہ کے حکم سے دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کس کے پاس جاؤں؟ نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟“ وہ بولے: ”بیٹا! اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو ہماری طرح صحیح دین پر ہو! البتہ

- اصطفيان
- شام
- موصل
- نصيبين
- عمورية
- وادی القریٰ
- مدینہ منورہ (مشرّب)

- اصطفیان
- شام
- موصل
- وادی القریٰ
- نصیبین
- غموریہ

● مدینہ منورہ (شہر)

نصیبین میں ایک آدمی ایسا ہے اس کے پاس چلے جانا۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نصیبین کے لاٹ پادری کے پاس حاضر ہوتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں نصیبین کے لاٹ پادری صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں اپنی پوری روداد سنائی اور پہلے پادری صاحب کی وصیت بھی بتائی۔ وہ بولے: ”ٹھیک ہے میرے پاس ٹھہرو۔“ میں ان کے پاس رہنے لگا اور واقعہ میں نے انہیں پہلے پادریوں کے دین پر پایا، نیز وہ بہترین آدمی ثابت ہوئے، لیکن کچھ عرصہ بعد انہیں بھی موت نے آ لیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے گزارش کی کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم دیتے ہیں؟“ انہوں نے فرمایا: ”بیٹا! اللہ کی قسم! صحیح دین پر قائم رہنے والا کوئی پادری باقی نہیں رہا، البتہ روم میں عموریہ شہر کے اندر ایک شخص رہتا ہے وہ ہمارے دین پر ہے۔ چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عموریہ کے لاٹ پادری کے پاس جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں عموریہ کے پادری کے پاس چلا گیا اور انہیں پوری تفصیل بتائی۔ وہ بولے: ”ٹھیک ہے ہمارے پاس رہو۔“ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو میں نے گزارش کی: ”جناب! آپ مجھے کس کے پاس جانے کی نصیحت فرماتے ہیں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟“ وہ فرمانے لگے: ”بیٹا! اللہ کی قسم! مجھے کسی ایسے شخص کا علم نہیں جو صحیح دین عیسائیت پر ہو کہ میں تجھے اس کے پاس جانے کا کہوں، البتہ ایک بات ہے کہ نبی آخر الزمان کا دور آنے والا ہے۔ وہ نبی ابراہیمی دین کے ساتھ مبعوث ہو گا۔ وہ عرب کی سرزمین میں ہو گا اور وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں آباد ہو گا جس کے دونوں طرف پتھر لیے میدان ہیں، ان کے درمیان وسیع نخلستان ہیں۔ اس کی مخصوص علامات ہوں گی جو تجھی نہ رہ سکیں گی، مثلاً وہ تجھ لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تو اس علاقے میں جا سکتا ہے تو پہنچ جا۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وادی القریٰ جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پھر وہ فوت ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ میں کافی عرصہ عموریہ ہی میں رہا۔ اتفاقاً بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا: ”مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ میں تمہیں اپنی گائیں اور بکریاں دے دیتا ہوں۔“ وہ بولے: ”ٹھیک ہے۔“ میں نے وہ سب ان کو دے دیں اور وہ مجھے ساتھ لے کر چل دیے لیکن جب وہ وادی القریٰ میں پہنچے تو ان کی نیت بگڑ گئی۔ انہوں نے مجھے غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا۔ وہاں میں نے نخلستان دیکھے تو سمجھا کہ شاید یہی وہ شہر ہو جس کا تذکرہ پادری صاحب نے کیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں جاگزیں نہ ہوئی۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں اس یہودی کے پاس رہتا تھا کہ اتفاقاً اس کا ایک چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے آیا۔ اس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے مجھے خرید لیا اور مدینہ منورہ لے آیا۔ اللہ کی قسم! جو نبی میں نے یہ شہر دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ پادری صاحب نے اسی شہر کا ذکر کیا تھا۔ میں خوشی خوشی وہاں رہنے لگا۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شہرہ ہو گیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ مجھے آپ کی کسی بات کا پتہ

نہیں چلتا تھا کیونکہ میں اپنی غلامی کی مصروفیات میں بندھا تھا حتیٰ کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی ہجرت کی خوش خبری سنتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اللہ کی قسم! میں اپنے مالک کی زمین میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھا کام کر رہا تھا۔ میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کا بچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا: ”بھائی! اللہ تعالیٰ ان بنوقیلہ (اوس اور خزرج) کو ہلاک کرے۔ اللہ کی قسم! وہ سب قباء میں ایک آدمی کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اسے نبی کہتے ہیں۔“ جونہی میں نے یہ بات سنی مجھ پر کچلی طاری ہو گئی حتیٰ کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میں اپنے مالک پر گر پڑوں گا۔ میں فوراً درخت سے نیچے اتر آیا۔ میں نے اپنے مالک کے بچا زاد بھائی سے پوچھا: ”آپ کیا کہہ رہے ہیں؟“ میرے مالک کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھے زبردست تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگا: ”تیرا اس بات سے کیا تعلق؟ چل اپنا کام کر۔“ میں نے کہا: ”کچھ بھی نہیں“ میں نے تو اس سے تفصیل پوچھی تھی۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت محمد ﷺ کی رسالت کی تحقیق و تصدیق کرتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے وہ مال اکٹھا کیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ ابھی قباء ہی میں تھے۔ میں نے گزارش کی: ”جناب! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے ضرورت مند لوگ ہیں۔ میرے پاس صدقے کا کچھ مال ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ زیادہ حق دار ہیں لہذا استعمال فرمائیں۔“ میں نے یہ کہتے ہوئے وہ مال آپ ﷺ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ”کھاؤ“ لیکن آپ نے خود نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا: ”ایک نشانی تو پوری ہوئی۔“ پھر میں اٹھ آیا۔ میں نے کچھ اور مال جمع کیا اور اتنے میں آپ مدینہ منورہ منتقل ہو چکے تھے۔ میں وہ مال لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور گزارش کی: ”حضرت! میں نے اس دن دیکھا تھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ اب میں یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قبول فرمائیے۔“ آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کھاؤ تو سب نے مل کر کھایا۔ میں نے دل میں کہا۔ دوسری شرط بھی پوری ہوئی۔

پھر میں تیسری دفعہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ اپنے کسی ساتھی کے جنازے کے سلسلے میں بقیع الغرقہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے دو چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور آپ کی پشت مبارک دیکھنے کے لیے آپ کی ہچھل طرف چلا تا کہ میں نبوت کی مہر دیکھ سکوں۔ جب آپ نے مجھے اپنے پیچھے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیا۔ میں نے مہر نبوت دیکھ لی اور میں نے آپ کو مکمل طور پر پہچان لیا۔ میں جھک کر مہر نبوت کو بوسے دینے اور رونے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ادھر آ جاؤ۔“ میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آپ کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔

غلامی کی وجہ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے سلمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی آزادی کا معاہدہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کر لیا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ”اپنے بھائی کی مدد کرو۔“ صحابہ نے بھرپور مدد کی، نتیجتاً وہ آزاد ہو گئے اور جنگ خندق میں آزاد مسلمان کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ پھر کسی جنگ سے غیر حاضر نہ ہوئے۔^①

یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کی کنیت ”ابوعبداللہ“ تھی اور ”یہ سلمان الخیر“ کے لقب سے مشہور تھے۔ عابد و زاہد علماء اور افضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان سے ان کا نسب پوچھا جاتا تو فرماتے: ”میں سلمان بن اسلام ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ان کو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ مہاجرین کہتے تھے: ”سلمان ہم میں سے ہیں۔“ انصار کہتے تھے ”سلمان ہم میں سے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا کی۔ وہ 35 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔



سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے مقامات

اصفہان: یہ عہد سلاجقہ (1037ء - 1157ء) اور صفوی دور (1501ء - 1736ء) میں ملک فارس (موجودہ ایران) کا دارالحکومت رہا۔ یہ وسطی ایران میں تہران اور شیراز کے درمیان زندہ رود نامی دریا کے کنارے واقع ہے۔ اسے تاریخ میں ”اصفہان نصف جہان“ کی شہرت حاصل رہی۔ اموی اور عباسی خلافت میں یہ صوبائی صدر مقام تھا۔ اس کا اصل نام اسپہان تھا جو عربی میں اصفہان اور اصفہان کہلایا اور آخر کار دنیا بھر میں اصفہان کے نام سے مشہور ہوا۔ اصفہان کی آبادی آٹھ لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں شاہ عباس اعظم صفوی (1587ء تا 1629ء) کی تعمیر کردہ مسجد فیضیہ کا نہایت خوبصورت نمونہ ہے۔ عباس اعظم ہی نے 1593ء میں قزوین کے بجائے اصفہان کو دارالحکومت بنایا تھا۔

فارس: ملک ایران قبل از اسلام صدیوں سے پارس کہلاتا تھا جسے عرب ”فارس“ اور اہل یورپ Persia کہتے تھے۔ آج بھی پاری آتش پرست ”پارس“ سے نسبت رکھتے ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد ”پارس“ کو ”فارس“ کہا جانے لگا حتیٰ کہ شاہ محمد رضا خاں پہلوی (41-1926ء) نے اسے آریوں کی نسبت سے ایران کا نام دے دیا۔ آج کل فارس ایران کے جنوب مغربی صوبے کا نام ہے۔ اموی اور عباسی دور میں بھی فارس صوبے کا نام تھا۔ صوبہ فارس خلیج فارس (الخليج العربی) سے متصل ہے اور اس میں اصفہان اور شیراز کے تاریخی شہر واقع ہیں۔ اس کی سرحدیں مختلف زمانوں میں بدلتی رہیں۔ عباسیوں کے بعد خود مختار فارس کبھی تو موجودہ صوبہ فارس پر مشتمل ہوتا تھا اور کبھی اس کی سرحدیں خراسان، سیستان، بلوچستان، قندھار اور شمال میں آذربائیجان اور جارجیا تک وسیع ہو جاتی تھیں جیسے نادر شاہ افشار کے دور (47-1736ء) میں۔ درود اسلام کے وقت سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن یا قتسیفون (Ctesiphon) (یونانی میں طیسفون) تھا اس کے نزدیک عہد فاروقی میں فیصلہ کن جنگ مدائن لڑی گئی۔ مدائن کے کھنڈر موجود شہر سلمان پاک کے نزدیک دجلہ کے کنارے ملتے ہیں۔

دمشق: السوریہ (شام) کا دارالحکومت دنیا کا قدیم ترین آباد دارالحکومت ہے۔ یہ اموی خلافت (41ھ تا 132ھ مطابق 661ء تا 749ء) کا دارالخلافہ رہا۔ بعد میں زنگی اور ایوبی سلاطین نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ دمشق کو سکندر اعظم ہلاکو خاں اور امیر تیمور جیسے فاتحین نے فتح کیا۔

موصل: شمالی عراق میں دریائے دجلہ پر واقع یہ تاریخی شہر اموی اور عباسی خلافتوں میں صوبہ الجزیرہ کا دارالحکومت رہا۔ موصل کی آبادی چھ سات لاکھ ہے۔ اس کے قریب وادی دجلہ و فرات (میسوپوٹیمیا) کے قدیم شہر نینوی کے کھنڈر ملتے ہیں۔ نصیبین: دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ الجزیرہ کا یہ شہر ان دنوں ترکی میں سرحد شام کے پاس واقع ہے۔ سلمان

یا کو (آذربائیجان) میں مجوسیوں کا آتش کدہ



ایک مجوسی بیٹھ کر آگ کی پوجا کر رہا ہے

ایک مجوسی کھڑے ہونے کی حالت میں آگ کو پوج رہا ہے



فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان سے ہجرت کر کے پہلے دمشق وہاں سے موصل اور پھر نصیبین پہنچے تھے۔ سن 10 نبوی میں نصیبین سے جنوں کا ایک گروہ بھی مکہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا۔

وادئ القریٰ: کھجوروں کے باغات پر مشتمل یہ وادی مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ عمور یہ سے آنے والے قافلے نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو یہاں لا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ قصبہ وادی القریٰ کو ان دنوں العلا کہتے ہیں۔

عمور یہ: اس تاریخی شہر کے کھنڈر انقرہ کے جنوب مغرب میں اور بالائی سقاریہ کے جنوب میں ملتے ہیں۔ نصیبین سے آکر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عمور یہ کے اسقف کے پاس مقیم رہے۔ پھر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ حلب اور دمشق ہوتے ہوئے وادی القریٰ پہنچے تھے۔ عبدالرحمن بن خالد بن ولید نے 666ء میں عمور یہ کو اطاعت پر مجبور کیا مگر پھر عیسائیوں نے چھین لیا۔ آخر کار عمور یہ کو عباسی خلیفہ معتمد باللہ کے سپہ سالار افشین نے 838ء میں فتح کیا۔ 931ء میں امیر طرسوس ثمل نے اسے نذر آتش کر دیا۔ اس کے کھنڈر مقامی آبادی میں ”اسر“ یا ”اسر قلہ“ کے نام سے مشہور ہیں۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 14/2)

باکو: یہ جمہوریہ آذربائیجان کا دارالحکومت ہے جو بحیرہ قزوین (کیسپین) کے ساحل پر جزیرہ نما آبشاران پر واقع ہے۔ اس کی آبادی اٹھارہ لاکھ سے زائد ہے۔ یہ معدنی تیل کی صنعت کا بڑا مرکز ہے۔ اس کا نام فارسی لفظ بادکوبہ (ہواؤں کا مارا ہوا) سے مشتق ہے اور اس کے محل وقوع کے لحاظ سے بہت موزوں ہے۔ قرون وسطیٰ کے مؤرخین اسے باکو یہ بلاکوبہ اور باکہ بھی لکھتے ہیں۔ تاریخ میں اس کا ذکر تیسری صدی ہجری کے بعد برابر آتا ہے چنانچہ ابودلف اپنے الرسالة الثانیہ میں لکھتا ہے: ”میں جنوب کی سمت سے باکو یہ پہنچا اور وہاں نفت (پٹرولیم) کا ایک چشمہ دیکھا جس کا پانی ایک ہزار درہم روزانہ تھا اور اس کے بالکل متصل سفید پٹرولیم کا ایک چشمہ تھا جو دن رات مسلسل جاری رہتا۔“ مسعودی کے علاوہ اصطخری ”باکوہ“ کا ذکر کرتا ہے۔ عبدالرشید صالح باکوئی نے اپنے شہر کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ باکو عرصے تک شاہان شیروان کے ماتحت رہا۔ 957ھ/1550ء میں شاہ طہماسپ صفوی کا اس پر قبضہ ہوا۔ 1583ء تا 1606ء باکو عثمانی ترکوں کے ماتحت رہا۔ 1806ء میں روسیوں نے ایرانیوں سے چھین لیا۔ جزیرہ نمائے آبشاران سے پہلی مرتبہ مشینوں کے ذریعے 1842ء میں تیل نکالا گیا۔ 78-1877ء میں یہاں ریلوے لائن بچھائی گئی۔ 1907ء میں باکو سے باطوم (بحیرہ اسود) تک تیل کی پائپ لائن مکمل ہو گئی اور معدنی تیل برآمد ہونے لگا۔ روسی انقلاب کے بعد 31 جولائی 1918ء سے 28 اپریل 1920ء تک باکو آزاد مملکت آذربائیجان کا دارالحکومت رہا پھر سرخ فوج (روسی) نے اس پر قبضہ کر لیا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 3) دسمبر 1991ء سے باکو آزاد جمہوریہ آذربائیجان کا صدر مقام ہے۔

باکو کے قریب پاریسوں (مچھیسوں) کا آتشکدہ آج بھی قائم ہے۔ مچھی مذہب کے بانی زرتشت کا تعلق آذربائیجان ہی سے تھا۔ (اطلس القرآن اردو ص: 251)



مسجد حجاز سے بیت المقدس کی طرف تہجد کی قیام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ جب آپ کے سامنے ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ میں اس طرح ممکن نہ تھا لہذا آپ بیت المقدس کی طرف سولہ ماہ تک نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کی وہی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ بن جائے۔ چنانچہ ایک دن وحی نازل ہوئی:

”وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَاءُ مَسْجِدٍ يَخْتَارُ“

۱۱۱

”اور نہ ہے کہ کوئی نبی اسے مسجد کا چہرہ برگزینے کی طرف اختیار ہے اس لیے ہم آپ کا رخ اس قبلہ کی طرف کیا ہے میں نے آپ چاہتے ہیں ابتداً اپنے چہرہ مسجد حرام (بیت اللہ) کی طرف کر لیجیے اور (اے مسلمانو!) تم میں سے کوئی بھی نہ ہو اپنے چہرے اس کی طرف برگزینے (البقرہ: 144/2)“

”نہ کی نماز میں“۔ بعض کے نزدیک مصر کی نماز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رکعتیں پڑھنا چھتے تھے کہ نماز کی طرف رخ کر کے ہاتھ رکھ دیتے۔ آپ نماز میں کہہ دیتے: ”اللہ کی طرف کوٹھڑیوں میں آپ نماز پڑھا رہے تھے اے مسجد“۔ قاضی ابن کبار نے یہ ایک حدیث روایت کی ہے۔ 15 باب انما فی مسجدہ کے دن کی بات ہے۔ (صحاح ابن سعد: 1/242)

جب کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا

قبلہ کی تبدیلی: تحویل قبلہ کا حکم رجب یا شعبان 2ھ میں نازل ہوا۔ نبی ﷺ بشر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ دو رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتدا میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے۔ حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی: ”خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔“ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے کے شمال میں ہے جبکہ کعبہ جنوب میں ہے۔ لہذا قبلہ تبدیل کرنے میں رسول کریم ﷺ کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہو گا اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہو گا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنا پڑی ہوں گی چنانچہ بعض روایات میں یہ تفصیل مذکور بھی ہے۔

اور سورۃ بقرہ میں یہ جو فرمایا کہ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ ”ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں“ اور یہ کہ ﴿فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ ”ہم اسی قبلہ کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔“ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی ﷺ اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہوئی لہذا اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔

مسجد حرام: مسجد حرام کے معنی ہیں حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ (تفہیم القرآن، جلد اول، ص 121، 122)

مسجد قبلتین: اسے ”مسجد بنی سلمہ“ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنو سلمہ کے محلے میں واقع ہے۔ اس مسجد کو ”مسجد قبلتین“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف (منہ کر کے) پڑھی گئی تھی۔ کچھ نماز بیت المقدس کی طرف اور کچھ بیت اللہ کی طرف۔ مسجد قبلتین بڑے قریب ہے۔ 893ھ میں الشجاعی شاجین الجمالی نے اس کی تجدید کرائی۔ مسجد کا داخلی حصہ قبة دار ہے جبکہ خارجی حصے کی محراب شمال کی طرف ہے۔ پھر عثمانی سلطان سلیمان عالیشان نے 950ھ 1543ء میں اس کی تعمیر نو کی۔ (تاریخ المدینۃ المنورہ)

اس کی موجودہ تعمیر و توسیع خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی ہے۔ اس نئی عمارت کی دو منزلیں ہیں، مینار بھی دو ہیں اور گنبد بھی دو۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر پر 39,700,000 ریال خرچ ہوئے۔
(تاریخ مدینہ منورہ دارالسلام، ص: 106 تا 108)



مسجد جُوائی

مسجد نبوی کے بعد پہلی مسجد جہاں نماز جمعہ قائم ہوئی: جُوائی، بحرین (الاحساء، سعودی عرب) میں ایک شہر ہے۔ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کی ایک بستی جُوائی کی مسجد عبدالقیس میں ادا کیا گیا۔ (معجم ماہستغیم: 2/401، 402)

سعودی عرب کے مشرقی صوبہ الاحساء میں جوائی کے کھنڈر پائے جاتے ہیں جہاں مسجد کے آثار بھی ہیں۔ دارین: یہ قدیم بحرین (سعودی عرب کا موجودہ صوبہ الاحساء) کی بندرگاہ تھی۔ یا قوت حوی لکھتا ہے: ”ہندوستان سے یہاں کستوری (مشک ناند) پہنچتی ہے۔ مسلمانوں نے اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد (12ھ) میں علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فتح کیا تھا۔ (معجم البلدان جلد 2 بعنوان ”دارین“) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”بحرین عراق کے تحت ہے اور اس کی حد عثمان میں جُوفِ فار کے نواح تک ہے۔“ اور یما مداس کے پہاڑوں پر ہے۔۔۔۔۔ بنو عباس نے عثمان، بحرین اور یما مداس کو ایک ہی عملداری میں اکٹھا کر دیا۔ بحرین خطِ قطیف، آراء، ہجر، بینونہ، زارہ، جوائی، ساہور دارین اور غابہ پر مشتمل ہے۔ ہجر الصفا اور مشعر بھی اس میں شامل ہیں۔

شہر دارین کو ان دنوں ”تاروت“ کہا جاتا ہے جو ظہران سے یقین جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ بحرین (الاحساء) میں جُوائی یا جوائتا کے کھنڈر پائے جاتے ہیں اور ظہران کے شمال میں الاحساء کے ساحل پر قطیف واقع ہے جہاں معدنی تیل کے کنوئیں ہیں۔

بحرین اور البحرین: زمانہ قبل اسلام اور ابتدائے اسلام میں البحرین نام کا اطلاق مشرقی عرب پر ہوتا تھا جس میں القطیف اور البحر کے نخلستان شامل ہیں۔ آگے چل کر یہ نام محض اس مجمع الجزائر کے لیے مخصوص ہو گیا جو ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 4 ص 86)

موجودہ مملکت بحرین کا سب سے بڑا جزیرہ بحرین، دارین سے کم و بیش 60 کلومیٹر مشرق میں خلیج فارس کے اندر واقع ہے۔ عہد ماضی میں جزیرہ بحرین، دلمن یا دلمون کہلاتا تھا اور تیسری ہزاری ق م میں سیمیری دور میں اس نے شہرت حاصل کی تھی۔ (المجہ فی الاعلام)

8ھ میں رسول اللہ ﷺ نے علاء بن عبد اللہ بن عماد الحضرمی رضی اللہ عنہ کو جو بنی عبد شمس کے حلیف تھے بحرین کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں یا ان سے جزیہ لیں اور ان کے ہاتھ منذر بن سادی (والی بحرین) اور سیبخت مرزبان بجر کے نام خطوط بھیجے کہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ وہ دونوں اسلام لے آئے اور ان کے ساتھ ہی تمام عربی


قدیم بحرین (سعودی عرب) میں مسجد خواتی کے آثار (جس میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعا داکیا گیا)



دارین (قدیم بحرین) میں قلعہ اور تاروت شہر

اور بعض عجمی (فارسی) باشندوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مقامی باشندوں مجوسیوں (پارسیوں) اور یہود و نصاریٰ سب نے صلح نامہ تسلیم کر لیا۔ حضرت علاء ڄڻڻو نے بحرین سے نبی کریم ﷺ کے پاس جو مال بھیجا اس کی مالیت 80 ہزار تھی، اتنا مال نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی عامل نے بھیجا۔ نبی ﷺ نے بعد میں علاء ڄڻڻو کے بجائے ابان بن سعید بن عاص ڄڻڻو کو بحرین کا حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت ابوبکر ڄڻڻو نے اپنے عہد خلافت میں اہل بحرین کی درخواست پر علاء ڄڻڻو کو دوبارہ بحرین کا حاکم بنا دیا اور وہ 20 ھ میں اپنی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ” (معجم البلدان۔ جلد 1 بعنوان ”بحرین“)

نوٹ: بحرین (الاحساء) کے شہر کا نام ھجر ہے، ٱٱٱٱٱٱ یا ٱٱٱٱ نہیں۔ ٱٱٱٱٱٱٱٱ میں واقع تھا۔



نجران میں عیسائیت اور وفد نجران

نجران میں عیسائیت: سید ابوالاعلیٰ مودودی اصحاب الاخدود (سورۃ البروج) کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ 340ء میں ہوا تھا اور 378ء تک جاری رہا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ ایک زاہد و مجاہد عیسائی سیاح فیمون نامی نجران پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے۔ ان دنوں جنوبی عرب میں نجران ایک بڑا تجارتی و صنعتی مرکز تھا۔ مشہور حملہ یمنی یہیں تیار ہوتا تھا۔

چھٹی صدی عیسوی کے اوائل میں حمیر (یمن) کا بادشاہ تان اسعد ابو کرب ایک مرتبہ یثرب گیا جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بتقریب کے دو یہودی عالم اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذونواس جانشین ہوا تو اس نے نجران پر حملہ کر دیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے۔ (ابن ہشام کے بقول یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے) جب اہل نجران نے دین یہود قبول کرنے سے انکار کیا تو ذونواس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے گڑھوں میں پھنکوا کر جلوا دیا اور بہت سوں کو قتل کر دیا یہاں تک کہ 20 تا 40 ہزار آدمی مارے گئے۔ یہ واقعہ اکتوبر 523ء میں پیش آیا۔ قیصر روم کو خبر ہوئی تو اس کی ہدایت پر 525ء میں حبش کی 70 ہزار فوج یمن پر حملہ آور ہوئی ذونواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن پھر حبش کی عیسائی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فلسی (انگریز سیاح) نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اتم خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی ملی ہیں۔ حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے کعبہ کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے اور اسی کو حرم قرار دیا تھا۔ رومی سلطنت بھی اس کعبہ کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مبالغہ کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا۔ (تفہیم القرآن جلد ششم ص: 297، 298)

وفد نجران مدینہ میں: حبشی عیسائیوں کے نجران پر دوبارہ تسلط کے ساتھ ہی یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور کفارہ وغیرہ کے غلط عقائد رائج ہو گئے تھے چنانچہ سید ابوالاعلیٰ مودودی سورہ آل عمران کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

9 ہجری میں عیسائی جمہوریت کا وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ 20 ہزار قاتل جنگ مرد اس میں سے نکل

العلما

خیبر

مدینہ منورہ

راغ

جده

صعبہ

طائف

بہر

نعم

تقفہ

بحیرہ احمر
(بحیرہ قلزم)

فرسان

قرآن

مصوع

دہلک

اکسوم

جیشہ

بہر

عصب

صناعاء

زبد

تغزل

عمران

نجد

نجران

جیزان

مأرب

شبہ

یمن

قراء

خلیج عدن



نجران سے مسیحی وفد کی آمد

سن 1ھ

سکتے تھے۔ آبادی تمام تر عیسائی تھی اور تین سرداروں کے زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی۔ دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے تمدنی و سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا اور تیسرا اسقف (بشپ) تھا جس سے مذہبی پیشوا کی متعلق تھی۔ جب نبی ﷺ نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں ہے تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وفد آنے شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں نجران کے تینوں سردار بھی 20 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے۔ جنگ کے لیے بہر حال وہ تیار نہ تھے۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ پر سورہ آل عمران کی آیات 33 تا 63 پر مشتمل خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔

اس خطبے میں پہلا امر جو ان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی یہ ہے کہ مسیح کی الوہیت کا اعتقاد تمہارے اندر جن وجوہ سے پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی وجہ بھی ایسے اعتقاد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک انسان تھا جس کو اللہ نے اپنی مصلحتوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر معمولی صورت سے پیدا کرے اور اسے ایسے معجزے عطا کرے جو نبوت کی صریح علامت ہوں اور منکرین حق کو اسے صلیب پر نہ چڑھانے دے بلکہ اس کو اپنے پاس اٹھالے۔ مالک کو اختیار ہے اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ محض اس غیر معمولی برتاؤ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک تھا یا مالک کا بیٹا تھا یا ملکیت میں اس کا شریک تھا۔

دوسری اہم بات جو ان کو سمجھانی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے وہ وہی چیز ہے جس کی طرف محمد ﷺ دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں کے مشن میں یک سر مو فرق نہیں ہے۔

تیسرا بنیادی نکتہ اس تقریر کا یہ ہے کہ مسیح کے بعد ان کے حواریوں کا مذہب بھی یہی اسلام تھا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ بعد کی عیسائیت نہ اس تعلیم پر قائم رہی جو مسیح علیہ السلام نے دی تھی اور نہ اس مذہب کی پیروی جس کا اتباع مسیح کے حواری کرتے تھے۔

ان میں سے کسی بات کا جواب بھی ان لوگوں کے پاس نہ تھا۔ مسیحیت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی کتب مقدسہ کی ایسی سند نہ پاتے تھے جس کی بنا پر کامل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے کہ ان کا عقیدہ امر واقعہ کے عین مطابق ہے اور حقیقت اس کے خلاف ہرگز نہیں۔ پھر نبی ﷺ کی سیرت آپ کی تعلیم اور آپ کے کارناموں کو دیکھ کر اکثر اہل وفد اپنے دلوں میں آپ کی نبوت کے قائل بھی ہو گئے تھے یا کم از کم اپنے انکار میں متزلزل ہو چکے تھے اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اچھا اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلہ میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو تو ان میں سے کوئی اس مقابلہ کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے کھل گئی کہ نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری جن کے تقدس کا سکہ دور دور تک رواں ہے دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں جن کی صداقت پر خود انہیں کامل اعتماد نہیں ہے۔ (تفہیم القرآن جلد اول ص: 261, 260, 246)

نجران: یہ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں ایک وادی کا نام ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 22 کے مطابق یورپی

سیاح جوزف ہالیوی موسم بہار 1870ء میں وہاں گیا تھا وہ لکھتا ہے کہ ”یہ وادی جو تقریباً دو میل وسیع ہے بے حد زرخیز ہے۔“ بطلموس نجران کو ایک بڑا شہر لکھتا ہے۔ ایٹکس کیلس رومی نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا۔
نوٹ: اردو دائرہ معارف اسلامیہ (جلد 22 ص 135) میں نجران کے بارے میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس نام کا کوئی شہر موجود نہیں یہ بات درست نہیں۔

المجد فی الاعلام کے مطابق ”نجران سعودی شہر ہے جو وادی نجران میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 65 ہزار سے زائد ہے۔ یہ ایک زرعی منڈی ہے۔ یہاں قدیم آبادی کے کھنڈر ہیں جہاں سبائی اور معینی ادوار کے معاہدہ دیواریں، نقوش اور کتبے ملے ہیں۔“ ان دنوں نجران سعودی عرب کے صوبہ نجران کا دار الحکومت ہے جس کی حدیں صوبہ الرياض، صوبہ عسیر، منطقہ الشرقیہ اور یمن سے ملتی ہیں۔



غزوات و سرایا

رسول اللہ ﷺ نے اصحاب صفہ کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ وہ فقیر اور تنگ دست لوگ تھے چنانچہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہی لوگوں سے سرایا کا آغاز ہوا۔ یہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کے گھریاں اور مال و متاع قریش نے مکہ میں ضبط کر لیے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے قریش کے خلاف اقتصادی جنگ شروع کر دی۔ درحقیقت یہ جنگ قریش نے شروع کی تھی کہ بنو ہاشم کو تین سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا تھا نیز مہاجرین کی جائیدادیں بھی قریش نے غصب کر رکھی تھیں لہذا قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ علانیہ تھی۔ قریش بھی اس حقیقت سے خوب واقف تھے۔

ایک دفعہ ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مکہ میں طواف کرتے دیکھا تو کہنے لگا: ”تعب کی بات ہے میں تجھے مکہ مکرمہ میں امن و اطمینان کے ساتھ طواف کرتے دیکھ رہا ہوں جبکہ تم نے ہمارے بھگوزوں کو پناہ دی ہے اور تم علانیہ ان کی مدد کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم! اگر تو اس وقت ابوصفوان (امیہ بن خلف قرشی) کے ساتھ نہ ہوتا تو صحیح سلامت واپس نہ جاتا۔“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خوب کڑک کر کہنے لگے: ”اللہ کی قسم! اگر تو نے مجھے طواف سے روکا تو میں تیرا تجارتی راستہ روک دوں گا جو مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے پھر تجھے پتہ چلے گا۔“

مسلمانوں اور مشرکین قریش کے درمیان مسیح جھڑپیں طبعی چیز تھی کیونکہ دونوں معاشرے بالکل مختلف اور متضاد تھے۔ جب یہ جھڑپیں شروع ہوئیں تو قریش کو اس پر کوئی تعجب یا انکار نہ ہوا کیونکہ یہ ایک طبعی اور منطقی چیز تھی۔ باقی قبائل نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا اور انہیں کس عذاب کی چکی میں پسا جاتا رہا ہے اور کس طرح ان کے مال و جائیداد ضبط کر کے ان کو بے یار و مددگار مکہ مکرمہ سے بھگایا گیا ہے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ: جس جنگ یا جنگی مہم میں نبی کریم ﷺ نے شرکت فرمائی اسے اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں۔

فتح مکہ سمیت غزوات کی کل تعداد 28 بنتی ہے۔ ان میں پہلا غزوہ ودان (الابواء) صفر 2ھ میں پیش آیا جبکہ آخری غزوہ تبوک (رجب 9ھ) تھا۔ جنگ مؤتہ (7ھ) کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے کیونکہ میدان جنگ میں نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی قیادت کی تھی۔

سریہ: وہ جنگی مہم جس میں نبی اکرم ﷺ نے شرکت نہ کی اور وہ کسی صحابی کی قیادت میں سر ہوئی اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ کی جمع ”سرایا“ ہے۔

سرایا کی کل تعداد کعب بن اشرف اور سلام بن ابی حقیق کے قتل سمیت 55 ہے۔ ان میں سے پہلا سریہ حمزہ (سیف البحر) تھا جو رمضان 1ھ میں پیش آیا جبکہ آخری سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (یحییٰ) تھا جو رمضان 10ھ میں سر ہوا۔



سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ (سیف البحر) عیم کی جانب سے ساحل سمندر کی طرف (رمضان 1ھ)

ان کے ساتھ تیس مہاجر سوار تھے۔ ادھر سے ابو جہل تین سو مشرکین کے ساتھ مقابلہ میں آیا لیکن مجدی بن عمرو جہنی ان کے درمیان رکاوٹ بن گیا لہذا لڑائی نہ ہو سکی اور فریقین واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلا جھنڈا جو آپ نے کسی مسلمان کمانڈر کو دیا وہ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے حضرت حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بیک وقت بھیجا تھا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سریہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ: یہ پہلا سریہ تھا جو رسول اللہ ﷺ نے بھیجا اسے ”سریہ سیف البحر“ کہتے ہیں اس کا جھنڈا سفید تھا اور اس کے علمبردار ابو مرہ غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ یہ لوگ عیم کے اطراف میں بحیرہ احمر کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا۔ دونوں فریق صف آرا ہو گئے اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن مجدی بن عمرو جہنی نے فوج بچاؤ کر دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ (تجلیات نبوت)

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ: یہ رسول اللہ ﷺ کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ابولہب کی لونڈی فویسہ نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے عمر میں دو سال بڑے تھے۔ آپ ”سید الشہداء“ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا آپ کی سگی بہن تھیں۔


بعثت نبوی کے دوسرے سال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور آپ کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے اس کی اطلاع حمزہ رضی اللہ عنہ کو دی جو کمان لٹکائے شکار سے واپس آ رہے تھے۔ جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے برا بھلا کہا اور کہنے لگے: تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد زور سے اس کے سر پر کمان ماری اور اس کا سر زخمی کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا۔ گویا کسی قصد و ارادہ کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ (سیرت ابن ہشام)

جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت بہادری دکھائی، شیبہ بن ربیعہ کو مبارزت میں قتل کیا۔ اسی طرح طعیمہ بن عدی آپ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اگلے سال جنگ احد کے موقع پر جبر بن مطعم نے اپنے چچا طعیمہ بن عدی کا انتقام لینے کے لیے اپنے غلام وحشی سے کہا: ”اگر میرے چچا کے بدلے محمد (ﷺ) کے چچا کو قتل کرے تو تو آزاد ہے۔“ وحشی حبشہ کا رہنے والا تھا اور ماہر نیزہ باز تھا۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ کے ہاتھوں 31 کفار جہنم رسید ہوئے۔ اسی دوران میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سباع بن عبد العزیٰ آیا جسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ”اوٹھنے کرنے والی کے بیٹے!“ کہہ کر پکارا۔ اس کی ماں عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی۔ وحشی کہتا ہے یہی میرے لیے موقع تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سباع پر وار کیا اور اسے جہنم رسید کر دیا، میں نے جلدی سے برچھے کا وار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں کیا جہاں سے ان کی زہری ہوئی تھی یہی وار کارگر ثابت ہوا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد حبشی رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے اور جنگ یمامہ میں انہوں نے مسیلہ کذاب کے قتل کا بڑا کارنامہ انجام دیا۔

العیص: یہ رابغ کے شمال میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جو ثمیۃ المرہ کے نواح میں ہے۔ یہاں ذنابۃ العیص نامی ایک چشمہ تھا جس کے ارد گرد کیکر وغیرہ کے درختوں کی کثرت تھی اس وجہ سے اسے عیص کہا جاتا ہے۔ یہاں بنو سلیم آباد تھے۔ شام جانے والے قریش کے تجارتی قافلے ادھر سے گزر رہے تھے۔ رابغ: یہ بحیرہ قلزم کے ساحل پر جدہ اور ینبع کے تقریباً وسط میں ہے۔ مدینہ منورہ سے رابغ کا فاصلہ تقریباً 240 کلومیٹر ہے۔ مصر و شام کی طرف سے آنے والے حاجی یہیں سے حج یا عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ اسے رابغ الرمل بھی کہتے ہیں۔ اس کے چند کلومیٹر مغرب میں رابغ البحر نامی بندرگاہ ہے۔ یا قوت حموی کہتے ہیں: ”رابغ جحفہ اور وڈان کے درمیان ہے۔“ یہ جحفہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے۔





سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ (ثمیۃ المرہ) بطن رابغ کی طرف (شوال 1ھ)

ان کے ساتھ 60 مہاجرین تھے۔ ابوسفیان بن حرب سے ان کا آمناسا منا ہوا۔ اس کے ساتھ دو مسلح آدمی تھے پس ان کے درمیان تھوڑی بہت تیر اندازی ہوئی لیکن صف بندی ہوئی نہ شمشیر زنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس دن سب سے پہلے تیر چلایا۔ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تیر اندازی بھی نہ ہوئی تھی۔ گویا یہ اسلامی تاریخ کا پہلا تیر تھا جس پر سعد رضی اللہ عنہ کو بجا طور پر فخر تھا۔ پھر فریقین واپس اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سریہ ثمیۃ المرہ: شوال 1 ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبیدہ بن حارث کو ساٹھ مہاجرین کی کمان دے کر رابغ کے قریب ثمیۃ المرہ کی طرف روانہ کیا۔ وہاں ابوسفیان اور اس کے 200 سواروں سے ان کا آمناسا منا ہوا دونوں طرفوں سے چند تیر چلائے گئے مگر باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اس سریہ میں مکہ کے لشکر سے دو آدمی مسلمانوں سے آئے اور وہ تھے: مقداد بن عمرو بہرانی رضی اللہ عنہ اور عتبہ بن غزوہ ان مازنی رضی اللہ عنہ۔ وہ دونوں مسلمان تھے جو کفار کے ساتھ ہی آگئے تھے تاکہ مسلمانوں تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سریہ کا جھنڈا سفید تھا جسے مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔


ثمیۃ المرہ: یہ رابغ شہر کے شمال مشرق میں تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہجرت کے دوران میں نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستہ بتانے والا بدرقہ مکہ مکرمہ سے آج 'پھر خزار' پھر ثمیۃ المرہ اور پھر لقف کے راستے سے مدینہ منورہ لے کر آیا۔ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔

عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب قرشی رضی اللہ عنہ: حضرت عبیدہ بن حارث رسول اللہ ﷺ کے عم زاد اور عمر میں دس سال بڑے تھے۔ آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ کے دار ارقم بن ابی ارقم میں داخل ہونے سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبیدہ اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد، عبداللہ بن الارقم اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اکٹھے ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بھائیوں طفیل اور حصین اور مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ میں حضرت عبداللہ بن سلمہ عجلانی رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔

حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں شہادت پائی۔ جنگ مبارزت میں قریش کے تین بہترین سردار عتبہ اور شیبہ فرزند ان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا البتہ

عیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ہر ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا لیکن اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے عیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھالائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے چار یا پانچ دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفراء میں ان کا انتقال ہو گیا۔
(فتح الباری، الریحق المختوم، اسد الغابہ، مجمل البلدان)





سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ (ذوالقعدہ 1ھ)

ان کے ساتھ 20 مہاجر تھے۔ مقصد قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا لیکن جب یہ دستہ خرار پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ قافلہ کل یہاں سے گزر گیا ہے لہذا وہ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

محمد بن اسحاق کہتے ہیں: سن 1 ہجری (بعض کے بقول سن 2 ہجری) میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیس آدمیوں کا امیر بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ وہ خرار وادی سے آگے نہ جائیں۔ وہ پیدل چلتے گئے۔ دن کو چھپے رہتے اور رات کو سفر کرتے یہاں تک کہ وہ خرار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریش کا قافلہ گزر چکا تھا لہذا وہ بغیر کسی تصادم کے واپس آ گئے۔ پھر بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسلامی جوش و خیمت کے تحت کفار کی طرف ایک تیر چلا ہی دیا۔

الخرار: خرار کے معنی ہیں آواز کے ساتھ بہنے والا پانی۔ خرار حجاز کے علاقے میں جحفہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے اس پہلے تیر انداز کا نام سعد بن مالک بن ذہیب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ ہے۔ باپ کی کنیت ابو وقاص تھی لہذا وہ سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ رسول اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ بھی اسی قبیلے سے تھیں اور حضرت سعد کے والد کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں بکاب بن مرزہ پر رسول اکرم ﷺ سے مل جاتا ہے۔

قبول اسلام: حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تقریباً سترہ سال کی عمر میں پہلی وحی کے نزول کے ساتویں دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب سے اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ اپنے آپ کو ”ثَلَاثُ الْإِسْلَام“ یعنی اسلام کا تیسرا مسلمان کہا کرتے تھے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بدر واحد سے لے کر خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین و طائف وغیرہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی ﷺ نے مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک سعد رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ بیعت رضوان اور سفر تبوک میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ ﷺ بعض دفعہ انہیں پیارا اور شفقت سے ماموں کہتے۔ خلافت راشدہ کے دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں قبیلہ ہوازن پر عامل مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اہل فارس کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی قیادت سونپی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرق النساء کی تکلیف کے باعث جنگ قادسیہ میں ایک چھوٹے سے قدم عمل کی

بالائی منزل پر بیٹھ کر مسلمانوں کی قیادت کی اور وہیں سے اپنے نائب خالد بن عرفطہ کو ہدایات لکھ کر بھیجتے تھے۔ تین دن اور ایک رات کی جنگ میں مسلمانوں نے فتح پائی۔ اس کے بعد عراق کا قدیم دار الحکومت بابل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کوئی بھی فتح ہو گئے۔

کوئی سے آگے بہرہ شیر (مغربی مدائن) کے قلعے کی جنگ میں ایرانیوں نے ایک مہیب پالتو شیر مسلمانوں پر چھوڑ دیا تو اسے سعد رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے دو ٹکڑے کر دیا۔ پھر مدائن اور جلولہ کے معرکے سر ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مناظرہ کے دار الحکومت حیرہ سے چند میل جنوب میں کوفہ کا شہر آباد کیا۔

بعض شورہ پشتوں کی شکایت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دوبارہ اس منصب پر فائز کیا اور وہ تین سال گورنر کوفہ رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مشاجرات صحابہ سے الگ تھلگ رہے۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے 55ھ میں وفات پائی۔ ("عشرہ مبشرہ"..... بشیر ساجد)



غزوہ وڈان (ابواء) (صفر 2 ہجری)

مؤرخ ابن سعد کے نزدیک یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ صرف مہاجرین کو لے کر نکلے اور ان کے ساتھ ایک بھی انصاری نہیں تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ ابواء کے مقام تک پہنچے۔ مقصد قریش کا تجارتی قافلہ روکنا تھا۔ اصل مقصد تو پورانہ ہوا مگر نخعی بن عمرو ضمری کے ساتھ معاہدہ صلح ہوا۔ یہ اپنی قوم بنو ضمرہ کے سردار تھے اور بنو ضمرہ کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ معاہدہ یہ ہوا کہ آپ ﷺ بنو ضمرہ پر حملہ نہیں کریں گے اور بنو ضمرہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے نہ کسی کارروائی میں حصہ لیں گے اور آپ کے کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی باقاعدہ دستاویز تیار کی گئی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

صفر سن 2 ہجری میں رسول اللہ ﷺ ساٹھ ستر مہاجرین کے ساتھ ”ابواء“ یا ”وڈان“ کی طرف گئے۔ آپ کا ارادہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا جبکہ وہ آپ کے یہاں پہنچنے سے قبل نکل چکا تھا اس لیے آپ کا کسی سے تصادم نہ ہوا۔ یہاں آپ ﷺ نے بنو ضمرہ کے سردار نخعی بن عمرو ضمری کے ساتھ امان و تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ ﷺ بذات خود نکلے اور مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس سفر میں آپ مدینہ سے 15 دن باہر رہے۔

وڈان: یہ لفظ ”وڈ“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”محبت“ کے ہیں۔ وڈان مکہ اور مدینہ کے درمیان ”الفرع“ کے نواح میں ہے جو ”ہرثی“ سے 10 کلومیٹر اور ”الابواء“ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بححفہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہاں بنو ضمرہ بنو غفار اور کنانہ آباد تھے۔ حضرت صعب بن جثامہ (رضی اللہ عنہ) کا تعلق وڈان ہی سے تھا۔ ”الابواء“ جہاں رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ مدفون ہیں وڈان کے قریب ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس غزوہ میں ابواء ہی میں پڑاؤ ڈالا تھا اس لیے اسے غزوہ الابواء بھی کہتے ہیں۔



غزوہ بواط

رضوی کے علاقے میں (ربیع الاول 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ اپنے دو سو صحابہ کی معیت میں قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ اس قافلے میں امیہ بن خلف جُمَحِی بھی موجود تھا اور 100 دیگر قریشی تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ ﷺ بواط پہنچے لیکن مقابلہ نہ ہوا اور آپ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

ربیع الاول سن 2 ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر مقرر فرمایا اور دو سو مہاجرین کے ساتھ ”رضوی“ کے نواح میں ”بواط“ پہنچے مگر وہاں کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس غزوہ میں علم کا رنگ سفید تھا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔

بواط: یہ جہینہ قبیلے کے دو پہاڑ ہیں جو مکہ سے شام جانے والے راستے پر واقع ہیں۔ ان کے ساتھ ”رضوی“ کا مشہور پہاڑ ہے۔ (معجم البلدان جلد 1) بیع سے بواط کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے اور مدینہ سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ: دیکھیے سنیہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ (الخرار)

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ: یہ انصاری قبیلہ اوس کی شاخ بنو اشہل کے سردار تھے۔ سلسلہ نسب ابی عمر سعد بن معاذ بن نعمان بن امرؤ القیس بن زید بن عبدالاشہل تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے مشرف باسلام ہوئے اور ان کی فہمائش پر اسی دن تمام بنو عبدالاشہل نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی ﷺ نے ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مواخات قائم کیا۔ غزوہ بدر میں آپ نے قبیلہ اوس کا علم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ غزوہ خندق کے دوران میں یہود بنو قریظہ نے عہد شکنی اور غداری کی تھی چنانچہ احزاب کفار کی پسپائی کے بعد نبی ﷺ نے حکم الہی کے مطابق بنو قریظہ کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ چند ہی دنوں کے بعد بنو قریظہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رکبیں اوس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسلامی حمیت کے تحت فیصلہ دیا کہ ان کے لڑنے والے مرد قتل کیے جائیں عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے اور املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اس فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے اشرار اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بازو پر تیر کا گہرا زخم لگا تھا۔ غزوہ بنی قریظہ کے چند روز بعد ان کا زخم کھل گیا اور زیادہ خون بہنے سے وہ شہید ہو گئے۔ (شرح رسالت کے 30 پروانے۔ طالب ہاشمی)

غزوہ سَفْوَان (بدرِ اولیٰ)

(ربیع الاول 2 ہجری)

کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی سرکاری چراگاہ کے اونٹوں پر حملہ کیا اور انہیں ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ ﷺ اس کو پکڑنے کے لیے نکلے حتیٰ کہ وادی سَفْوَان تک پہنچ گئے۔ یہ وادی بدر کے علاقے میں ہے..... لیکن کرز نکل چکا تھا لہذا قابو نہ آیا۔ آپ ﷺ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

ربیع الاول سن 2 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ کرز بن جابر فہری نے کافروں کی تھوڑی سی نفری کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ سے رسول اللہ ﷺ کے کچھ مویشی چرا لیے جن کو چھڑانے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے ستر صحابہ کے ساتھ کرز کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب میں آپ ”سَفْوَان“ تک پہنچے مگر کرز اور اس کے ساتھی نکل گئے۔ اس غزوہ کو ”غزوہ بدرِ اولیٰ“ بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے مدینہ کی امارت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ اس غزوہ میں علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔

سَفْوَان: بدر کے نواح میں ایک وادی سَفْوَان کہلاتی ہے جہاں کرز بن جابر کی سرکوبی کے لیے غزوہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ بصرہ کے باپ مر بد سے ایک منزل پر واقع کنویں کا نام بھی سَفْوَان ہے۔

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ (القرۃ، نجد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (فدک، طے، یمن)



غزوة ذي العُشَيْرِہ
(جمادی الآخرہ 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ ڈیڑھ سو یا دو سو صحابہ کے ساتھ قریش کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے چلے۔ شیع کے علاقے میں بنو مدلج کے رہائشی مقام ذوالغفسیرہ پہنچے تو یہ چلا کہ قافلہ چند دن قبل شام کی طرف گزر چکا ہے لہذا آپ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

اضافى توضيحات وتشريعات

جمادی الآخرہ 2 ہجری مطابق دسمبر 623ء میں رسول اللہ ﷺ 150 مہاجرین، بعض کے قول کے مطابق 200 مہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تیس اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس مہم کا مقصد قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا جو ”شام“ جارہا تھا۔ جب آپ ﷺ ذوالعشیرہ پہنچے تو قافلہ کئی دن پہلے نکل چکا تھا۔ بعد میں اسی قافلے کے لیے آپ دوبارہ صحابہ کرام جن ﷺ کو لے کر نکلے تھے جو ”غزوہ بدر“ کا سبب بنا۔

غزوہ غنیمہ میں رسول اللہ ﷺ نے بنو مدیجہ اور ان کے حلیف بنو ضمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ مدینہ منورہ پر ابوسلمہ بن عبد اللہ سعد مخزومی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اس غزوہ کا علم بھی سفید تھا جسے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔

غنیمہ: غنیمہ کو ”ذوالغنیمہ“ بھی کہتے ہیں۔ یہ ”عشرۃ“ ”دس“ کی تصغیر ہے۔ غنیمہ بیع کے نواح میں مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ ابوزید کہتے ہیں: ”غنیمہ ایک قلعے کا نام ہے۔ یہاں کی کھجور حجاز کی تمام اقسام کی کھجوروں سے اعلیٰ ہے سوائے خیبر کی صحابی اور مدینے کی برنی اور عجوۃ کے۔“ ذوالعشیرہ مدینے سے تقریباً 130 کلومیٹر اور رابغ سے تقریباً 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔


حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ (سیف البحر)

ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی رضی اللہ عنہ: ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی والدہ بڑھانت عبدالمطلب نبی کریم ﷺ کی پھوپھی تھیں۔ وہ نبی ﷺ کے رضاعی بھائی تھے۔ ابوسلمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سابقون اولون میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی مگر تین ماہ بعد ایک افواہ سن کر مکہ لوٹ آئے۔ ہجرت نبوی سے سوا سال پہلے دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سلمہ کو لیے مدینہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے والے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے کہ ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جاسکتی۔ یہ دیکھ کر ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو عبدالاسد نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا بیٹا چھین لیا۔ ایک سال بعد کفار کو ترس آیا تو انہوں نے ماں بیٹے کو مدینہ جانے کی

اجازت دے دی۔

ابوسلمہ رضی اللہ عنہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں شدید زخمی ہوئے۔ سریہ قطن سے واپسی پر ان کا احد والہ زخم ہرا ہو گیا اور اسی کے باعث جمادی الآخرہ 4ھ میں ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔
(خیر البشر رضی اللہ عنہ کے چالیس جاں نثار از طالب ہاشمی)





سرّیہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں (رجب 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے ان کو بارہ مہاجرین دے کر قریش کے تجارتی قافلے پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا۔ ان کی قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مدّ بھیڑ ہو گئی۔ یہ قافلہ طائف سے واپس آ رہا تھا۔ یہ رجب کے آخری دن کی بات ہے۔ مہاجرین نے قافلہ لوٹ لیا، عمرو بن حفص کو قتل کر دیا اور دو آدمی قید کر لیے۔ اس لشکر کشی میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہا گیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سرّیہ بطن نخلہ: رجب 2 ہجری موافق جنوری 624ء میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو بارہ مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام ”نخلہ“ کی طرف روانہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ وہ اسے دو دن کے سفر کے بعد کھولے چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دو دن سفر کرتے رہے۔ دوسرے دن کے بعد جب خط کھولا تو اس میں درج تھا: ”جب تو میرا یہ خط پڑھے تو سفر جاری رکھنا یہاں تک کہ وادی نخلہ پہنچ جائے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے وہاں قریش کے قافلے کی نگرانی کرنا اور ان کی خبریں ہمیں پہنچانا۔“ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مطلع کیا۔ جب بطن نخلہ پہنچے تو قریش کا قافلہ گزرا جس کے پاس زبیب (خشک میوہ) چمڑا اور تجارت کا دیگر سامان تھا۔ اس قافلے میں عمرو بن الحضر، عثمان اور نوفل (یہ دونوں عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے تھے) اور حکم بن کيسان مولیٰ مغیرہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ آج رجب کی آخری تاریخ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم ان سے لڑائی کریں تو بیشک حرمت کی پامالی کا ڈر ہے۔ اگر ان کو آج رات چھوڑ دیتے ہیں تو وہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے لہذا انہوں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ عمرو بن الحضر کو قتل کر دیا اور عثمان اور حکم کو قیدی بنا کر ساتھ لیا اور قافلے کو ہائیک کر مدینہ لے آئے جبکہ نوفل مکہ بھاگ گیا۔ اس فعل پر رسول اللہ ﷺ ناراض ہوئے چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا (وینت) ادا کر دیا۔ (الرحیق المختوم: 180، 181)

اس دوران میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے نبی ﷺ سے حلفا کہا تھا کہ ہم سے جو کچھ ہوا غلط نبی کی بنا پر ہوا اور کچھ روز بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت کے لیے یہ آیت نازل کی:

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

”لوگ پوچھتے ہیں ماورحم میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو: اس میں لڑنا بہت بُرا ہے مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بُرا ہے اور فتنہ خوزیری سے شدید تر ہے۔“

(بقرہ: 217)

اس آیت کے نزول نے مسلمانوں کو خوش کر دیا اور نبی کریم ﷺ نے بھی مال غنیمت کا خنس قبول فرمایا۔

(خیر البشر ﷺ کے چالیس جاں نثار طالب ہاشمی)

عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ: عبداللہ بن جحش بن ریاب ابو محمد الاسدی رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی امیہ تھیں۔ رسول اللہ ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل آپ نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور عاصم بن ثابت بن اُلمح رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کا ایمان افرود واقع ہوا ہے:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: احد کے دن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا: ”آؤ دعا نہ کر لیں؟“ چنانچہ دونوں ایک طرف ہوئے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی: ”اے اللہ! کل جب میری ملاقات کسی دشمن سے ہو تو وہ بہادر اور سخت غصے والا ہو میں اسے تیری خاطر قتل کر کے اس کا سامان لے لوں۔“ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا کی: ”اے اللہ! کل میری ملاقات بہادر اور سخت غصے والے جوان سے ہو۔ تیری خاطر میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے۔ پھر وہ مجھے قتل کر کے میری ناک اور کان کاٹ دے۔ میں جب تیرے حضور پیش ہوں تو تو مجھ سے پوچھے: اے عبداللہ! تیری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ میں کہوں: اے اللہ! تیری اور تیرے رسول کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے سچ کہا۔ دونوں کی دعائیں پوری ہوئیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو قتل کیا اور عبداللہ نے ابن اُفص ثقفی کے ہاتھوں جام شہادت پیا اور ان کا مسئلہ کیا گیا۔

غزوہ احد کے شہداء کی جب تدفین ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔

بطن نخلہ: مکہ سے طائف کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ”لیلۃ الجن“ والا واقعہ بھی اسی کے بارے میں ہے۔ ابن ولاد کہتے ہیں: یہ دو وادیاں ہیں: (1) نخلہ شامیہ (2) نخلہ یمامہ۔ بطن مَر کے پاس یہ دونوں وادیاں جمع ہو جاتی ہیں۔

(معجم ما سئعم 4/1304)





(بطن نخله)

رجب 2ھ

غزوہ بدر الکبریٰ (رمضان 2 ہجری)

ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جس میں قریش کا تجارتی مال تھا مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنے والا تھا۔ رسول اللہ ﷺ تین سو تیرہ مجاہدین کے ساتھ نکلے۔ ابوسفیان کا قافلہ توج کر نکل گیا۔ لیکن 950 افراد پر مشتمل قریشی لشکر ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے بدر کی طرف چل چکا تھا۔ انہوں نے جنگ کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اس کے نتیجے میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کے باوجود ان کے حق میں عظیم فتح مقدر فرمائی۔ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے۔ وہ تو صرف قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر بھی مشرکوں کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ مسلمانوں میں چھ مہاجر اور آٹھ انصاری شہید ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے بدر ہی سے فتح کی خوش خبری مدینہ منورہ بھیج دی۔

اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔“ (آل عمران: 123/3)

﴿أَذِلَّةٌ﴾ ”کمزور“ سے مراد تعداد اور اسلحہ کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کے خلاف واضح فتح عطا فرمائی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ بدر: رمضان المبارک سن دو ہجری میں رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ ابوسفیان کا تجارتی قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے۔ اس کی خبر لینے کے لیے آپ ﷺ نے دو آدمی مقام ”خزواء“ تک بھیجے تھے۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں تین ماہ قبل آپ ﷺ ”ذو العُشیرہ“ تک گئے تھے مگر وہ بچ کر نکل گیا تھا۔ اب آپ ﷺ نے اس کی واپسی کی اطلاع پاتے ہی صحابہ کرام کو نکلنے کی دعوت دی چنانچہ 313 (بعض روایات کے مطابق 314 یا 317) صحابہ آپ ﷺ کے ساتھ تیار ہوئے۔ آپ ﷺ نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر فرمایا۔ عیب اتفاق دیکھو کہ اہل بدر کی تعداد بھی لشکر طاہرات کے برابر تھی جب وہ جالوت کے مقابلے کو نکلا تھا۔ (رحمۃ للعالمین رضی اللہ عنہ قاضی سلیمان منصور پوری)

نبی کریم ﷺ صحابہ کو لے کر مدینے سے مکہ کے قدیم راستے پر چلے اور وادی عقیق، ”ذو الحلیفہ“ ”ذات النہیش“ ”قربان“ ”ملل“ ”غمیس الحمام“ اور ”السَّیَّالہ“ سے ہوتے ہوئے فُجَّ الرُّوْحَاء سے پہنچے۔ پھر آپ نے

”شنو کہ“ اور ”عزق الظبئہ“ سے گزرتے ہوئے ”سجسج“ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اس گاؤں کو ”الروحاء“ بھی کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے ابولہبہ بن عبدالمذر بن جہش کو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی جگہ روانہ کیا۔ اور پھر کوچ کر کے ”المنصرف“ پہنچے اور مکہ کے راستے کو بائیں جانب چھوڑ کر ”النازیة“ کے راستے پر چلنے لگے۔ وادی ”زُحقان“ سے گزر کر جب ”الصُفراء“ کے قریب پہنچے تو بنو ساعدہ کے حلیف بَسْبَس بن جُھنی اور بنو نَجَار کے حلیف عدی بن ابی زُعباء جھنی کو بدر روانہ کیا تاکہ وہ آپ ﷺ کو ابوسفیان اور قافلے کی خبریں پہنچائیں۔

”صُفراء“ کی دائیں جانب سے گزر کر ”ذُفران“ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو آپ ﷺ کو خبر ملی کہ قریش مکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو قریش مکہ کے عزائم سے آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا: ”اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے رہیے ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (المائدة: 24/5) ”پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔“ لیکن ہم یہ کہتے ہیں: آپ اپنے رب کے حکم سے لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کی قسم! آپ ہمیں ”برک الغماد“ تک لے کر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔“

پھر آپ نے ”ذُفران“ سے کوچ کیا تو ”ثایا“ (اصافر) کے راستے پر چلے۔ اس کے بعد ایک جگہ اترے جسے ”الذَّبَّيْة“ کہتے ہیں۔ پھر ”حُثان“ کو اپنی دائیں جانب چھوڑ دیا جو ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلہ بلکہ پہاڑ ہے۔ آخر کار رسول اللہ ﷺ نے ”بدر“ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔

معرکہ حق و باطل: جب بدر پہنچے تو دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو تعداد میں ان سے سہ چند اور سامان میں ہزار چند زیادہ ہے اترا ہوا ہے۔ جنگ سے ایک دن پہلے نبی ﷺ نے میدان جنگ کا معائنہ کیا اور بتایا کہ کل انشاء اللہ تعالیٰ فلاں فلاں دشمن اس اس جگہ قتل ہوں گے۔

17 رمضان 2ھ بروز جمعہ کو جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے نبی ﷺ نے نہایت تضرع سے اللہ کے حضور میں دعا کی اور یہ عرض کی کہ اگر یہ مسلمان مارے گئے تو دنیا میں تو حید کی منادی کرنے والا کوئی بھی نہ رہ جائے گا۔ مسلمانوں نے بھی دعائیں کیں۔

جنگ مبارزت میں قریش کے تین بہترین سردار عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ ادھر سے حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو ہلاک کر دیا البتہ عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا لیکن اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر نوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے چار یا پانچ دن بعد مدینہ

واپسی کے دوران صفراء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

عام رن پڑا تو دو انصاری نوجوانوں معاذ اور معوذ بن جحش نے ابو جہل کو تاک لیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نشاندہی پر دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ معوذ بن جحش تو اسی معرکہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے دور خلافت تک باقی رہے۔

کفر و ایمان کے اس معرکہ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے جن میں چھ مہاجر تھے اور آٹھ انصاری۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے۔ ان میں سر برد آور دہ چوبیس سرداروں کے لاشے کھینچ کر بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔

نبی ﷺ نے تادان لے کر قریش کے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اسیروں کا تادان نبی ﷺ نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں۔ ("رحمة للعالمین" قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری) غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے قرآن مجید کی وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ "رومی جو مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سال کے اندر غالب آئیں گے" اور "اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے شادمان ہوں گے۔" (سورۃ روم آیات: 2 تا 4)

بدر: یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس میں کئی کنویں اور باغات تھے جہاں قافلے عموماً پڑاؤ ڈالتے تھے۔

یا قوت حموی لکھتے ہیں: "بدر وادی، یلملک میں واقع ہے۔ اس کے دونوں سروں (شمال مغرب اور جنوب مشرق) پر ریت اڑا کر جمع ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ خاصے بلند ٹکڑے بن گئے ہیں۔ سورۃ انفال میں مذکور یہی ﴿الْعُدُوَّةُ الدُّنْيَا﴾ "قریبی ٹیلہ" اور ﴿الْعُدُوَّةُ الْقُصْوٰی﴾ "بعد ٹیلہ" ہیں جو اب تک برقرار ہیں ان دونوں کے درمیان جنوب مغرب میں ایک خاصا بلند پہاڑ ہے جو جبل اسفل کہلاتا ہے جس کی چوٹی سے سمندر (دس میل پر بحیرہ قلزم) صاف نظر آتا ہے۔"

بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو وادی الصفراء اور الحار کے مابین واقع ہے اور الحار ساحل بحر پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بدر بن بخلد بن نضر بن کنانہ سے منسوب ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدر بن بخلد قبیلہ بنی ضمرہ کا ایک شخص تھا۔ (معجم البلدان جلد 1)

بدر بیضوی شکل کا ساڑھے پانچ میل لمبا اور چار میل چوڑا وسیع ریگستانی میدان ہے جس کے ارد گرد اونچے پہاڑ ہیں۔ مکہ شام اور مدینہ جانے کے راستے جنوب، شمال اور مشرق کی دایوں سے آکر بدر پر ملتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بدر میں ہر سال یکم ذی قعدہ سے آٹھ روز تک ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ یہاں بنو ضمرہ آباد تھے جن کی ایک شاخ بنو غفار کی اصلاح و تبلیغ کے لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ مامور کیے گئے اسی لیے وہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور ہوئے۔"

(آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (2) پروفیسر عبدالرحمن عبد)

حسن الدین خاموش لکھتے ہیں: ”بدر کو مقامی لوگ ”بدرؤ“ بولتے ہیں۔ اس نام کا ایک گاؤں پہاڑی پر آباد ہے جہاں ایک بڑی مسجد بھی ہے۔ نیچے ایک نہر بہتی ہے۔ نہر کے کنارے ہرے بھرے نخلستان ہیں۔ کہتے ہیں یہ نہر وہیں سے نکلی ہے جہاں نبی ﷺ نے برساتی پانی کا ایک حوض مجاہدین کے لیے بھر لیا تھا اور جب دشمنان اسلام پانی کے بغیر پریشان ہوئے تھے تو نبی ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ پانی دشمن پر بھی بند نہ کیا جائے۔ (مرقع حجاز)

مسجد العریش: پروفیسر عبدالرحمن عبد لکھتے ہیں: ”ہم شمال کی جانب چلتے ہوئے آبادی سے باہر پہنچے تو بائیں جانب ایک قلعے کے کھنڈر نظر آئے جو ترکی دور میں حجاز کے گورنر شریف عبدالمطلب نے بنوایا تھا۔ تھوڑی دور آگے ایک ٹیلے پر ایک جامع مسجد ہے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اسے مسجد غامہ کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام مسجد عریش ہے۔ عربی میں عریش سائبان کو کہتے ہیں۔ 17 رمضان کو عین اس جگہ کھجور کی شاخوں کا ایک سائبان تان کر نبی ﷺ کے لیے ایک جھونپڑی سی بنا دی گئی تھی۔ چند تیز رفتار سائنڈیاں بھی رکھی گئی تھیں تاکہ فوج کو ہدایات بھیجی جاسکیں اور حفاظت کے لیے ایک محافظ دستہ بھی مقرر کیا گیا تھا۔ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (2) حرم مدینہ)

سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی روداد سفر میں لکھا ہے: ”مفرق سے ایک سڑک مدینہ کو جاتی ہے اور دوسری بیع کو جو بحیرہ قلزم پر ایک بندرگاہ ہے۔ مفرق کا فاصلہ مدینہ سے 155 کلومیٹر اور جدہ سے 269 کلومیٹر ہے۔ 7 کلومیٹر اور چلنے کے بعد ہم بدر پہنچ گئے۔ جہاں معرکہ بدر پیش آیا تھا وہ مقام بدر کی بستی سے دو کلومیٹر مغرب کی طرف ہے۔ وہاں ایک چھوٹے سے احاطے میں 13 شہدائے بدر مدفون ہیں اور قریب ہی اہل بدر کا موجودہ قبرستان بھی ہے۔ اس جگہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے آنے والے کو دائیں جانب اور جدہ سے آنے والے کو بائیں طرف مڑنا ہوتا ہے۔“

(سفرنامہ اراض القرآن ص: 165، 166)

حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ: ان کے باپ قیس بن زائدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی ماموں تھے۔ ان کی والدہ ام مکتوم عاتکہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا اور سابقین اولوں میں سے تھے۔ انہوں نے رؤسائے قریش کی موجودگی میں نبی ﷺ سے کچھ پوچھا تو آپ نے ناگواری ظاہر کی جس پر سورۃ عبس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّہٗ یُزَكّٰی ۚ اَوْ یَدَّکُرُ فَتَنْفَعُہُ الذِّکْرٰی ۚ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی ۚ فَاَنْتَ لَہٗ تَصَدِّی ۚ وَمَا عَلَیْکَ الْاَلٰی ۚ اَوْ یَزُکّٰی ۚ وَاَمَّا مَنْ جَاءَکَ یَسْئَلُ ۚ وَہُوَ یَخْشٰی ۚ فَاَنْتَ عَنْہُ تَكْفٰی ۚ کَلَّا ۚ اِنَّہَا تَذٰکِرَۃٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذٰکُرْہَا ۚ﴾

”ترش رویا اور بے رحمی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو؟ جو شخص بے پروائی برتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو؟ حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے

اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔“ (عس: 12-1/80)

چنانچہ نبی ﷺ ابن ام مکتوم کے گھر پہنچے اور انہیں اپنی مجلس میں واپس لا کر ان کا اکرام کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ ﷺ نے انہیں اذان دینے کا فرض تفویض کیا۔ رسول کریم ﷺ نے کئی مواقع پر مدینہ سے باہر جاتے ہوئے انہیں شہر میں اپنا جانشین اور امام مقرر فرمایا۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ میں شہادت پائی۔

(خیر البشر ﷺ کے چالیس جاں نثار از طالب ہاشمی)

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”آل عبد مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”آل عبد مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز۔“

حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ عبیدہ بن حارث (بطن رافع)




غزوہ بدر الکبریٰ

(میدان جنگ)

17 رمضان 2ھ، 13 مارچ 624ء

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَالِحًا كَانُوا مِنْكُمْ مَرْصُوعِينَ﴾
کہہ رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے لیے لڑیں گے، آپ ان سے بہت پسندیدہ ہو جائیں گے۔ (سورۃ النساء: 74)

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ الْوَعْدِ﴾
فَالْتَقُوا اللَّهَ لَحْلُوكُمْ تَغْلِبُوكُمْ﴾
اور آپ کو اللہ نے بدر کے وعدہ کی مدد سے نصرت کی۔ آپ کو آپ کے دشمنوں سے غلبہ دیا۔ (سورۃ آل عمران: 123/3)





محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
(پیشوا علی گڑھ)

سرّیہ عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ (رمضان 2 ہجری)

حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کا عصماء بنت مروان کو قتل کرنا یہ عورت اپنے شعروں کے ذریعے سے کفار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھی اس لیے انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔


اضافی توضیحات و تشریحات

عصماء بنت مروان ایک شاعرہ تھی جو بنو امیہ بن زید خاندان سے تھی۔ اس کا نکاح یزید بن زید بن حصن مخطمی سے ہوا تھا۔ وہ اپنے کلام سے اسلام میں عیب لگاتی اور رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچاتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کے قتل کی اجازت دے رکھی تھی۔

عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کے سچے جاں نثار تھے۔ انہوں نے دریدہ و بن عصماء کو ٹھکانے لگانے کی ٹھانی۔ رمضان سن 2 ہجری میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ عصماء بنت مروان کے پاس رات کے وقت آئے جبکہ اس کے بچے بھی اس کے گرد سو رہے تھے اور وہ ایک بچے کو لینے ہوئے دودھ پلا رہی تھی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے بچے کو اس کے سینے سے ہٹایا اور تلوار اس کے سینے میں گھونپ کر کمر سے نکال دی پھر انہوں نے مدینہ منجیہ کربج کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ادا کی۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا مروان کی بیٹی کو قتل کر آئے ہو؟“ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”ہاں۔“ پھر پوچھا: ”کیا اس بارے میں مجھ پر کوئی (عتاب وغیرہ) ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا يَنْتَظِعُ فِيهَا عَنَّا نِیْ عَنِیْ تَمَّ جَوَّامُ کَرَّ آئے ہو اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ (طبقات ابن سعد)



یثرب (مدینہ منورہ) کا وہ مقام جہاں انس و مرثدوں کے ہاتھوں کی مدد سے لڑائی ہوئی



بنو نضیر کے باغات ↓



سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ (شوال 2 ہجری)

سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ابو علفک یہودی کو قتل کرنا، یہ یہودی بھی اپنے شعروں کے ذریعے سے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے نذر مانی کہ اسے قتل کر کے رہوں گا اور آخر اسے قتل کر دیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

بنو قریظہ میں بنو عمر بن عوف کا 120 سالہ بد طینت یہودی ابو علفک رسول اللہ ﷺ کے خلاف لوگوں کو ابھارتا اور آپ کے خلاف شعر کہتا تھا۔

غزوہ بدر کے بعد ایک بدری صحابی سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جو بکثرت روتے تھے ابو علفک یہودی کو ختم کرنے کی نذر مانی کہ یا تو اسے جہنم رسید کروں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اس کی تاک میں رہے۔ گرمیوں کی ایک رات کو ان کو خبر ہوئی کہ ابو علفک اپنے گھر کے صحن میں سو رہا ہے تو انہوں نے تلوار لی اور اس کے سینے پر رکھ کر دباؤ ڈالا جس سے وہ اس کے بستر سے پار ہو گئی۔ سالم رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے آئے۔ اللہ کے دشمن نے چیخ پکار کی اور اس کے حمایتی بھی اٹھ کر آئے مگر وہ جہنم رسید ہو چکا تھا۔ آخر لوگ اسے اس کے گھر لے گئے اور قبر میں دفن کر دیا۔

سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کا پورا نام سالم بن عمیر بن ثابت انصاری اوسی رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے سواری طلب کرتے تھے اور سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس جا رہے تھے اس لیے انہیں رونے والے (بکائین) کہا جاتا ہے۔ سالم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے نیز بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شامل رہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔



(الابن شريك)

بنو عبد الاشهل وزعموراء

النخب

ينوطق

بنو حارث بن خزرج

السُّنْح

البقيع

جیلان سلع

دادی بچان

بنو واقف

ہنوچارٹ

واوکی مشہور

کی بنوقیہ قلعہ

بستی بنو قریظہ

واو کی تہمت

بستی بنو نفیر

بنو عوف بن خزرج

بنو عوف بن مالک بن اوس

سر یہ عالم بن عمیر رضی اللہ عنہ
شوال 2ھ

مسجد قباء

غزوہ بنو قینقاع (شوال 2 ہجری)

بنو قینقاع یہودیوں کا وہ پہلا قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی اور بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح پر بہت حسد کیا۔ اس بغض میں انہوں نے عہد توڑ دیا حتیٰ کہ کعب بن اشرف یہودی نے کہا: ”اللہ کی قسم! اگر محمد قریش پر غالب آ گیا تو ہمارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہو گا۔“ پھر وہ مشرکین قریش کے مقتولوں پر ماتم کرتا ہوا مکہ پہنچا۔ پھر واپس آیا تو اپنے عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا ذکر کرنے لگا۔ اب حد ہو چکی تھی۔ اس لیے انصار نے اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ بنو قینقاع: غزوہ بدر کے بعد مدینہ کے یہودی قبائل نے اپنے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں کیونکہ انہیں اسلام کی شان و شوکت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی چنانچہ ان میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے عہد توڑ دیا نیز ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی اور ایک مسلمان کے قتل کا ارتکاب کیا جس پر ان کے پیدا کردہ قتلے کا سہ باب ضروری ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں ابولبابہ ابن عبدالمذہبؓ کو نائب مقرر فرمایا لواء (جھنڈا) جس کا رنگ سفید تھا حضرت حمزہؓ کو تھمایا اور 15 شوال 2ھ کو بنو قینقاع کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ ذی قعدہ شروع ہونے تک جاری رہا۔ 15 دن کے شدید محاصرے کے بعد بنو قینقاع نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے ان کی عورتوں اور بچوں سمیت سب کو قتل کرنے کا حکم دیا مگر عبد اللہ بن ابی منافق نے بیچ میں آکر ان کے قتل کا معاملہ رکوا دیا اور انہیں ”اذرعات“ شام کے علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہاں تھوڑی ہی مدت میں ان میں سے اکثر مر گئے۔

آپ نے ان کے مال میں سے اپنے لیے تین کمانیں، دو زریں، تین تلواریں، تین تیزے اور ٹمٹم حاصل کیا اور باقی مال اپنے اصحاب (صحابہ کرامؓ) میں تقسیم کر دیا۔ (طبقات ابن سعد: 2۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 16 ص 585-586)


بنو قینقاع: رسول اللہ ﷺ کی مدینے میں تشریف آوری سے پہلے تین یہودی قبیلے: بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے۔ بقول ابن خلدون یہ لوگ مدینے کی ایک جانب رہتے تھے۔ ان کے پاس کھیت تھے نہ باغات۔ وہ تاجر تھے یا سار۔ حضرت عبد اللہ بن سلامؓ اسی قبیلے سے تھے۔ بنو قینقاع کے سات سو جنگجو آدمی تھے جن میں سے تین سو زہرہ پوش تھے۔ مدینے میں تشریف لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ تینوں قبائل سے ایک تحریری معاہدہ کیا جس کی رو سے تمام مسلمان ایک الگ امت قرار پائے اور یہود الگ قوم۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے پوری مذہبی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ فریقین کے باہمی جھگڑوں اور تنازعات کے فیصلے کے لیے نبی ﷺ کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنا طے پایا نیز

یہ طے پایا اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ آور ہوگا تو فریقین مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور مسلمان اور یہودی اپنے اپنے آدمیوں کا خرچ برداشت کریں گے۔ اسی معاہدے میں مدینے کو حرم قرار دیا گیا۔

ابولبابہ رضی اللہ عنہ "انساری رضی اللہ عنہ" ابولبابہ رفاعہ ابن عبدالمزدر رضی اللہ عنہ اوی "اہل عقبہ" میں شامل تھے جو عقبہ (ملکہ کی گھائی) میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ غزوہ بدر کے راستے سے نبی ﷺ نے انہیں مدینے میں نائب بنا کر بھیجا۔ وہ احد خندق خیبر اور دیگر غزوات میں شریک رہے۔ محاصرہ بنی قریظہ (5ھ) کے دوران میں ان سے ایک جنگی راز فاش ہو گیا تو انہوں نے مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا بارگاہ الہی میں گزر گزرتے اور روتے صرف نماز اور حوائج ضروریہ کے لیے خود کو آزاد کرتے حتیٰ کہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور وحی نازل ہونے سے ان کی براءت ہو گئی۔ ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔

(خیر البشر رضی اللہ عنہ کے چالیس جاں نثار طالب ہاشمی)





غزوہ سویق (ستوؤں والی جنگ) (ذوالحجہ 2 ہجری)


رسول اللہ ﷺ کو بدر میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تو ابوسفیان نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لیتا اس وقت تک اپنے سر کو تیل لگاؤں گا نہ لگی کھاؤں گا۔ یہ قسم پوری کرنے کے لیے ابوسفیان مدینہ منورہ کے قریب پہنچا اور وہاں ایک انصاری اور اس کے غلام کو قتل کیا ایک گھر جلا دیا اور یہ فرض کر کے کہ میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے وہیں سے بھاگ گیا۔ جاتے ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھی جلدی میں بوجھ بٹکا کرنے کے لیے ستوؤں کے تھیلے پھینکتے گئے۔ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی ہاتھ نہ لگ پایا البتہ مسلمانوں نے ستوؤں کے تھیلے اٹھا لیے۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ سویق کہا گیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ بدر کے بعد ابوسفیان نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک محمد (ﷺ) اور اس کے ساتھیوں سے انتقام نہ لے لوں، سر میں تیل نہ ڈالوں گا (آرام سے نہیں بیٹھوں گا)۔ چنانچہ واقعہ بدر سے تقریباً دو ماہ بعد ذوالحجہ کے مہینے میں وہ 200 سواروں کے ساتھ بنو نضیر کے محلے میں آیا۔ وہاں سلام بن مشکم کے ہاں رات گزاری، شراب پی اور نبی ﷺ کے متعلق خبریں حاصل کیں۔ وہ بحری کے وقت مدینہ کے قریب "عریض" نامی جگہ پہنچا۔ یہاں اس نے ایک انصاری اور اس کے ملازم کو قتل کیا کھجور کے بعض درختوں، چند گھروں اور چارے کو آگ لگا دی اور یہ خیال کیا کہ اس کی قسم پوری ہوگئی ہے پھر وہ اپنے سواروں کے ہمراہ بھاگ اٹھا اور زادراہ میں سے سَوِیق (ستو) کے پورے گراتا چلا گیا۔

نبی اکرم ﷺ کو جب اطلاع ہوئی تو آپ 200 صحابہ کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلے یہاں تک کہ آپ "قَرْقَرَة الْكُدْر" پہنچ گئے جبکہ ابوسفیان جاچکا تھا۔ ابوسفیان اور اس کے قافلے نے جو سَوِیق (ستو) پھینکے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ اٹھا لیے اسی لیے اس غزوہ کو "غزوہ سَوِیق" کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں بھی آپ نے ابولبابہ رفاعہ ابن عبد المذہب رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور مدینہ منورہ سے پانچ دن باہر ہے۔

عَرِیض: مدینہ کے قریب ایک کھجوروں والی وادی ہے۔
قَرْقَرَة الْكُدْر: اسے کڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ بنی نسلیم کا کنواں ہے جو معدن کے نواح میں اور خصیہ کے قریب واقع ہے۔ مدینہ اور قَرْقَرَة الْكُدْر کے مابین 8 ذاک چوکیوں کا فاصلہ ہے۔
ابولبابہ رفاعہ انصاری رضی اللہ عنہ: دیکھیے غزوہ بنو قینقار۔



غزوہ بنو سلیم (محرم 3 ہجری)

رسول اللہ ﷺ بنو سلیم اور غطفان کے مقابلہ کے لیے کدر کے علاقہ تک پہنچے۔

اضافی توضیحات و تشریحات


رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی تھی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کی ایک بھاری جمعیت آپ ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے چنانچہ آپ ﷺ شوال 2ھ کے شروع میں ایک قول کے مطابق نصف محرم 3ھ میں بنو سلیم کے مقابلہ میں نکلے اور ”قرقرۃ الکدر“ نامی تالاب پر پہنچے۔ ”قرقرہ“ دراصل ہموار زمین اور ”کدر“ خاکستری رنگ کے ایک پرندے کو کہتے ہیں۔ آپ ﷺ وہاں تین یا دس دن ٹھہرے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی کیونکہ وہ لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ اس غزوہ میں آپ ﷺ مدینہ منورہ سے پندرہ دن غائب رہے اور مدینہ میں سہاب بن عرفطہ غفاری رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا تھا۔

اس جنگ میں آپ ﷺ کے پرچم بردار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے پانچ سو سے زائد اونٹوں اور ”یسار“ نامی ایک غلام پر قبضہ کیا جس کو بعد میں آزاد کر دیا اور بغیر لڑائی کے واپس تشریف لے آئے۔

(مختصر سیرۃ الرسول، ص: 309)

کُذِّرَ : دیکھیے ”غزوہ سُوَیْق“ ذیلی عنوان قُرْقَرۃ الکُذِّرَ۔





محرم 3ھ (ہجرت کے 23 ماہ بعد)

سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ

کعب بن اشرف کا قتل: ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں سمیت کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے گئے جو مدینہ منورہ سے باہر اپنے قلعے میں رہتا تھا اور اسے قتل کر دیا۔

کعب بن اشرف کے قتل کی تفصیل: جب بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے وہیں سے خوش خبری دے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی نشیبی بستیوں کی طرف اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی بلند بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ خبر کعب بن اشرف تک پہنچی تو وہ کہنے لگا: ”یہ سچ ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد (ﷺ) نے ان بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا ہو گا جن کا یہ دو شخص زید اور عبد اللہ بن رواحہ (جنہما) نام لیتے ہیں؟ وہ تو تمام عربوں کے سردار اور بادشاہ لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم! اگر محمد (ﷺ) نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو ہمارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔“

جب اسے اس خبر کا یقین ہو گیا تو وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا، مرثیے کہے اور بدر کے مشرک مقتولوں پر خوب رویا دھویا۔ یہ دراصل اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان منعقد ہوا تھا۔ پھر وہ مدینہ واپس آیا تو اپنے بغض کا اظہار اس طرح کیا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا ذکر کرنے لگا۔ جب حد ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کعب بن اشرف کو کون جہنم رسید کرے گا؟“ بنو عبد الاشہل قبیلے کے ایک شخص محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے: ”اے اللہ کے رسول! یہ میرے ذمے رہا۔“ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ابونا مکہ سلکان بن سلامہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کو بھی لے گئے۔ بتبع غرقہ تک رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ گئے، پھر انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ سیدھے اس کے قلعہ میں گئے۔ ابونا مکہ نے اسے آواز دے کے بلایا۔ وہ نیچے آیا تو انہوں نے حیلے سے اس کا کام تمام کر دیا اور حرہ عریض سے ہوتے ہوئے بنو قریظہ کے راستے سے لوٹ آئے جبکہ حارث بن اوس سر میں یا ناگ میں زخم لگنے کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے۔ جب وہ اپنے مددگار کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مدینے کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت رات ختم ہو رہی تھی اور رسول اللہ ﷺ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ ﷺ کو خوش خبری سنا کر اپنے گھر چلے گئے۔ اس قتل کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی ڈر گئے اور اپنی خباثتوں سے باز آ گئے اور وقتی طور پر ان کی بد عہدی، قریش سے تعاون اور مسلمان عورتوں کی توہین کا خطرہ ٹل گیا۔^①

اضافی توضیحات و تشریحات

کعب بن اشرف کا قتل: کعب بن اشرف یہودی کا تعلق بنو نضیر سے تھا، وہ بڑا مالدار اور شاعر تھا۔ اسے مسلمانوں سے سخت



↑ کعب بن اشرف (یہودی) کے قلعے کی شمالی دیوار
↓ کعب بن شرف (یہودی) کے قلعے کا اندرونی منظر



عداوت تھی وہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجو کرتا چنانچہ نبی کریم ﷺ سے کعب کے قتل کا اذن پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھی کعب کے پاس آئے اور از روئے مصلحت کہا: ”اس شخص نے (اشارہ نبی ﷺ کی طرف تھا) ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔“ یہ سن کر کعب کی باجھیں کھل گئیں بولا ”واللہ! ابھی تم لوگ اور بھی آتا جاؤ گے۔“ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بطور قرض گہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابونا نملہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقاء ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ پیسے اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔

اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھا اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا: ”اس وقت کہاں جارہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔“ لیکن اس نے اس کی پروا نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھے تو بھی نہیں چونکا کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔

اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابونا نملہ رضی اللہ عنہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اجازت دی۔ ابونا نملہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سٹکھایا پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا پھر سہ بارہ اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا تو کہا: ”لے لو اللہ کے دشمن کو۔“ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کام نہ کر سکیں۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے برچھی اس کے زیر ناف لگائی اور اسے دبایا تو وہ آ رہا ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا اور مسلمان صحیح سلامت واپس آ گئے۔ (بخاری حدیث نمبر 4037 فتح الباری: 7/424)


محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ: محمد بن مسلمہ انصاری اوسی کی کنیت ابو عبد الرحمن یا ابو عبد اللہ تھی۔ وہ بنو عبد الاشمل کے حلیف تھے۔ تبوک کے سوا تمام غزوات میں حاضر ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی ﷺ نے انہیں مدینہ کا عامل مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبیہ کے صدقات کی وصولی پر مامور کیا۔ جب کسی عامل کے بارے میں شکایت موصول ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہی کو تحقیق کے لیے بھیجا کرتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ ہر قسم کے فتنے اور باہمی تنازع سے علیحدہ رہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہیں کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہم ربذہ میں گئے تو وہاں ایک الگ تھلگ خیمے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ہم نے پوچھا تو وہ کہنے لگے جب تک فتنہ و فساد کی یہ کیفیت ختم نہیں ہو جاتی میں یہیں مقیم رہوں گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ 46 یا 47 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے۔ پس ماندگان میں دس لڑکے اور چھ لڑکیاں چھوڑیں۔ (اسد الغابہ: 5/107، 108)



یہ پروپوزیشن کے قلمحوں کی باقیات

حبيب بن يهودی کا قلعہ



غزوہ ذی امر (غزوہ عطفان) نخیل کے علاقے میں (ربیع الاول 3 ہجری)

نجد کے علاقہ میں بنو محارب کے ایک سردار دعثور بن حارث نے ذی امر مقام پر بنو ثعلبہ اور محارب کی کافی جمعیت اکٹھی کر لی۔ ان کا مقصد مدینہ منورہ کے ارد گرد لوٹ مار کرنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ 450 ساتھیوں کے ہمراہ نکلے لیکن دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور مقابلہ نہ ہوا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

یہ غزوہ نجد کی جانب ہجرت کے 25 ماہ بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیش آیا۔ رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ بنو ثعلبہ اور بنو محارب کی ملی جلی ایک جماعت مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کو دعثور بن حارث محارب نے جمع کیا ہے۔ اس کا نام خطیب نے غورث اور دوسروں نے عورک لکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ چار سو پچاس سوار لے کر ان کے تعاقب میں نکلے اور مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ دشمن کو جب آپ ﷺ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ان کا ایک آدمی آیا جس کا نام جبار تھا۔ یہ قبیلہ بنو ثعلبہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آیا اور آپ نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ (مختصر سیرۃ الرسول ص 310)

نجد: بالعموم نجد سے مراد عرب کا وہ علاقہ ہے جو حدود یمامہ سے لے کر مدینہ منورہ تک اور پھر حجاز کے پرے بصرہ سے لے کر بحرین (خلیج فارس) تک پھیلا ہوا ہے اگرچہ اصمعی نجد برق (یمامہ) نجد عفر نجد کنب (عرفات کے قریب) نجد مربع (یمین) اور نجد الیمین کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پانچویں صدی کے آخر میں الحارث نے کندہ کی سلطنت قائم کی جو زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی لیکن اس کے حدود شام کے پہاڑی علاقے (مشارف) اور مدینہ سے لے کر یمامہ تک یا طحیہ کی چوٹی (وادی الرمثہ) سے لے کر ذات عرق تک پھیلے ہوئے تھے۔ بعد کے زمانے میں پورا نجد ہی یمامہ کی انتظامی ”قسمت“ کا جزو بن گیا تھا۔

یمامہ کے ایک سردار ہوہ بن علی کو کسرائے فارس نے ایک جزاء ٹوپی دی تھی جس کے باعث وہ ذوالتاج کہلاتا تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی ﷺ نے ایک حج کے موقع پر کوئی پندرہ قبائل کے لوگوں سے یکے بعد دیگرے خواہش ظاہر کی کہ آپ کو اپنے ہاں لے چلیں تو نجد کے بنو حنیفہ ہی سب سے زیادہ ورشت اور بد اخلاق ثابت ہوئے تھے۔ ان میں ثمامہ بن اخیال بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ صفر 3ھ میں بزمونہ کا دگداز واقعہ بھی نجد ہی میں پیش آیا۔ نجد ہی میں مسیلہ کذاب کی

جھوٹی نبوت نے جنم لیا۔ آخر کار عہد صدیقی میں فتنہ ارتداد کے استیصال کے بعد اسلام یہاں رائج ہو گیا۔

پندرہویں صدی میں نجد کے مشہور جہازران اسدالمحر شہاب الدین احمد بن ماجد نے جہاز رانی میں شہرت حاصل کی۔ (ابن ماجد ہی کی رہنمائی میں پرتگالی جہازران واسکو ڈے گاما 1498ء میں موزمبیق سے ہندوستان کی مغربی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا تھا۔) اٹھارہویں صدی میں محمد بن عبدالوہاب نے نجد میں اصلاح دین کا بے مثال کام کیا جس کے مثبت اثرات آج بھی عرب معاشرے پر غالب ہیں۔ 1903ء میں امیر نجد عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود نے ریاض فتح کیا اور 1921ء میں وہ سلطان نجد منتخب ہوئے۔ (حجاز پر قبضے کے بعد 1926ء میں موجودہ سعودی مملکت وجود میں آئی) نجد میں دو ندیاں اہم ہیں۔ وادی الزمہ جو تقریباً 650 میل لمبی ہے اس کا منبع ترہ خیبر میں ہے اور یہ شمالی عرب کی سطح مرتفع کو عرضاً قطع کرتی ہوئی بصرہ کے قریب فرات کے میدان میں غائب ہو جاتی ہے۔ دوسری ندی وادی الدواسر ہے۔ یہ دونوں ندیاں (وادیاں) وسطی عرب میں آمدورفت کی دو بڑی شاہراہیں رہی ہیں۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 22)

ان دونوں نجد کا علاقہ حائل القصیم اور الریاض کے مناطق اداریہ (صوبوں) میں بنا ہوا ہے جن کے دارالحکومت علی الترتیب حائل، بریدہ اور الریاض ہیں۔ نجد کے کچھ علاقے منطقہ شرقیہ المدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ میں شامل ہیں۔

(اطلس المملكة العربیہ السعودیہ و العالم)

عطفان: یہ دو عرب قبیلوں کا نام ہے۔ پہلا عطفان بن سعد بن مالک بن حرام بن جذام جنوبی عرب کا ایک قبیلہ ہے اور دوسرا عطفان بن سعد بن قیس عیلان ہے۔ ان دونوں میں صرف مؤخر الذکر ہی اہم ہے۔ قیس عطفان قبیلے کی چراگاہیں خیبر اور حجاز کی سرحدوں سے لے کر بنو طے کے پہاڑوں آجا اور سلمیٰ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ قبیلہ عطفان کی دو بڑی شاخیں تھیں: الشیخ جو یثرب کے قرب وجوار میں آباد تھی اور غنیم جو یثرب اور ذبیان میں منقسم ہو گئی تھی اور جس کا علاقہ شمرہ اور ربذہ کے گرد و نواح میں تھا۔ ان کے پڑوس میں حُصافہ بن قیس عیلان کے قبائل آباد تھے جن میں سے ممتاز ترین بنو سلیم ان کی جنوبی سرحد پر تھے اور انہی کا ہم نسب قبیلہ ہوازن اور بھی آگے جنوب میں آباد تھا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 13/2 ص 539)



غزوہ بُحران (جمادی الاولیٰ 3 ہجری)

رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ بنو سلیم جمعیت اکٹھی کر رہے ہیں۔ آپ 300 ساتھی لے کر نکلے تو بنو سلیم بھاگ کھڑے ہوئے اور مقابلہ نہ ہو سکا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ بنو سلیم سے لڑنے کے لیے بُحران نامی جگہ پر تشریف لے گئے۔ بُحران فُرع کے پاس ایک جگہ ہے۔ فُرع اور مدینہ کے درمیان تقریباً 96 میل کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو پتا چلا کہ بنو سلیم نے ایک بہت بڑی جمعیت اکٹھی کر رکھی ہے۔ آپ ﷺ تین سو صحابہ کے ساتھ نکلے اور مدینہ پر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا۔ جب بُحران پہنچے تو دشمن کی فوج منتشر ہو چکی تھی۔ آپ ﷺ چودہ دن تک مدینہ سے باہر رہے۔ (طبقات ابن سعد: 2/35، 36) فُرع: یہ مدینے سے مکہ مکرمہ کے راستے پر آٹھ ڈاک چوکیوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں قریش الانصار اور مُزینہ رہتے ہیں۔ فرع اور مُزِیع کے درمیان دن کی چند گھڑیوں کا فاصلہ ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قصبہ ہے جس نے حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کو کھجوریں مہیا کیں۔ یہاں ربیع اور نجف نامی دو چشمے ہیں جن سے کھجور کے دو ہزار درخت میراب ہوتے ہیں۔ اس کا تلفظ فُرع بھی ہے۔

(معجم البلدان جلد 4)



سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ قرۃہ (نجد) کی طرف (جمادی الاخریٰ 3 ہجری)

حضرت زید رضی اللہ عنہ قریش کے ایک قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے قافلے کو جالیا مگر قافلے کے سردار بھاگ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر قرۃہ کے مقام پر بھیجا۔ یہ نجد کے چشموں میں سے ایک چشمے کا نام ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں: ”جب جنگ بدر کے بعد شام جانے کے لیے قریش کو یہ راستہ پر خطر معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے بدلے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ یہ قافلہ ابوسفیان لے کر جا رہا تھا ان کے پاس بڑا سرمایہ تھا اور چاندی سونے سے لدا ہوا تھا۔ قرۃہ نامی چشمے پر زید رضی اللہ عنہ کی ان سے ٹڈ بھڑ ہوئی۔ آدمی تو جان بچا کر بھاگ گئے مگر قافلہ پر زید رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا اور مدینہ کی طرف مراجعت کی۔

ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے زید رضی اللہ عنہ کو ہجرت سے 18 مہینے بعد قریش کے ایک قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک سو سوار دے کر بھیجا۔ اس قافلے میں صفوان بن امیہ اور حویطب بن عبد العزیٰ بھی تھے۔ وہ لوگ بہت مال اور چاندی کے برتن لے کر جا رہے تھے۔ یہ پورا قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا جسے لاکر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے آپ نے خمس نکالا جس کی قیمت 20 ہزار درہم تھی۔ (طبقات ابن سعد: 2/36)

قرۃہ: یہ نجد کی وادی الرثمہ میں بنی نعام کا چشمہ ہے۔ ذوالقرۃہ بھی نجد میں ہے مگر شاید یہ قرۃہ سے مختلف جگہ ہے۔ (معجم البلدان)


زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو اسامہ تھی۔ زید رضی اللہ عنہ کو ان کے بچپن ہی میں بنو قین کے غارت گروں نے اغوا کر کے بطور غلام فروخت کر دیا تھا۔ حکیم بن حزام نے انہیں خرید لیا اور کئے لاکر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو زمانہ بعثت سے قبل ہدیہ حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد حارثہ کے پہنچے تاکہ انہیں آزاد کرائیں، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب ﷺ سے علیحدگی گوارا نہ کی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے انہیں آزادی عطا کی اور اپنا متبنی بنالیا۔ یوں ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا اور وہ رسول اللہ ﷺ کے کاروبار میں اکثر آپ ﷺ کا ساتھ دیتے رہے۔

زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے صرف دس برس چھوٹے تھے۔ ان کا شمار سابقین الاولون میں ہوتا ہے اور موالی میں سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک بہادر سپاہی تھے اور تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ بدر سے موتہ تک تمام اہم غزوات میں پامردی اور شجاعت سے شریک کارزار ہوئے۔ غزوہ مریج میں رسول اللہ ﷺ نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنی جانشینی کا فخر بخشا۔ بیشتر سرایا ان کی سپہ سالاری میں سر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس فوج کشی میں زید رضی اللہ عنہ شریک ہوتے امارت کا عہدہ انہیں عطا ہوتا۔ اس طرح زید رضی اللہ عنہ نو دفعہ سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے۔ 8ھ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے چھپن سال کی عمر میں شہادت پائی۔ اس وقت وہ غزوہ موتہ میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو ان کی شہادت کا بے حد صدمہ ہوا اور ان کا قصاص لینے کی کوشش بھی کی۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 10/545)

زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ کو نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں کے خلاف روانہ ہونے والے لشکر کی قیادت عطا فرمائی جو آپ کی علالت کے باعث مدینہ کے باہر رک گیا اور پھر عہد صدیقی میں اس نے کامیابی سے مہم سر کی۔ زید رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔





غزوہ احد (شوال 3 ہجری)

قریش، ارد گرد کے قبائل بنی کنانہ کے اطاعت گزار اور تہامہ کے رہنے والے لوگ سب مل ملا کر ابوسفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف چلے اور مدینہ منورہ کے شمال میں احد پہاڑ کے قریب فروکش ہوئے۔ ان کا مقصد بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے مقابلے کے لیے صف بندی کی۔ قریش کے سوار دستے کو روکنے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر انداز مقرر کر دیے۔ جب مسلمانوں کی فتح و نصرت متحقق ہو گئی تو تیر انداز غنیمت لوٹنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم تھا کہ نتائج کچھ بھی ہوں تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ ﷺ کے اس حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے جو اس وقت کفار کے سوار دستے کے امیر تھے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس خالی جگہ سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمان بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ صورت حال الٹ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سمیت 70 صحابہ کرام جہاد شہید ہو گئے۔ البتہ میدان جنگ میں فوجی فتح حاصل کرنے کے باوجود قریش مسلمانوں کا قلع قمع کر سکے نہ شام کی طرف اپنا تجارتی راستہ محفوظ بنا سکے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

جبل احد: یہ مدینہ منورہ کی شمالی جانب واقع ایک پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے ساڑھے پانچ کلومیٹر دور ہے۔ آج کل مدینہ منورہ کی آبادی اس پہاڑ تک پہنچ چکی ہے بلکہ اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ احد پہاڑ حرم میں داخل ہے کیونکہ حرم کی حد اس کے شمال میں ”ثور پہاڑ“ تک ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور اس کا رنگ سرخی مائل ہے۔

کوہ احد کی جنوبی جانب غزوہ احد کے شہداء کی قبریں ہیں اور صحیح قول کے مطابق شہدائے احد کی تعداد 70 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ ﷺ کے ساتھ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”احد! پر سکون ہو جا“ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔“ (صحیح بخاری، حدیث: 3675۔ تاریخ مدینہ منورہ، دار السلام)

غزوہ احد: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو اطلاع بھیجی کہ مشرکین مکہ بڑے جوش و خروش سے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے 5 شوال 3ھ کو دو خبر رساں جن کے نام مونس اور انس تھے، خبر لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آکر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ (عریض) کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا ہے۔

آپ ﷺ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعے میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے بھی یہی رائے دی۔ لیکن ان نوخیز صحابہ نے جنہیں جنگ بدر میں شریک مشورہ نہیں کیا گیا تھا اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ان کی رائے پر شہر سے باہر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔

قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر ایک ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ منافق عبد اللہ بن ابی تمین سو کی جمعیت کو یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ ”محمد (ﷺ) نے میری رائے نہیں مانی۔“ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اب صرف سات سو صحابہ رہ گئے۔ ان میں سے ایک سوزرہ پوش تھے۔ نبی کریم ﷺ نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم عنایت کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے لہذا وہاں ایک درے میں 50 تیر انداز تعینات کیے گئے اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں تاکید کی کہ خواہ لڑائی میں فتح ہو جائے پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔

مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگئی اور کفار میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ مجاہدین مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درے پر مقرر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے عقب خالی دیکھ کر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور 70 افراد شہید ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ بھی زخمی ہوئے۔

(تلخیص از الکامل: 52: 44/2۔ البدایہ والنہایہ 49: 10/4۔ سیرت النبی ﷺ، شبلی نعمانی: 217/1۔)

تاریخ طبری (75: 61/3)

جنگ احد میں ابو دجانہ، طلحہ بن عبد اللہ، حضرت حمزہ، علی بن ابی طالب، نضر بن انس، سعد بن ابی وقاص اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری دکھائی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور نضر بن انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سباغ بن عرفہ نامی مشرک کا سر قلم کر رہے تھے کہ جبیر بن مطعم کے حبشی غلام (ایک روایت کے مطابق ہند زوجہ ابوسفیان کے غلام) وحشی نے نیزہ مار کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں قریش کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ مارا گیا۔ مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور ایک قول کے مطابق 37 تھی۔ مشرک سردار ابی بن خلف نے نبی کریم ﷺ کی طرف بدعتی سے پیش قدمی کی تو آپ ﷺ نے اسے ایک چھوٹے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ تیل کی طرح ڈکراتا ہوا پلٹا اور پھر مکہ کے راستے میں سرف کے مقام پر مر گیا۔


ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ان کا نام ساک بن خرشہ رضی اللہ عنہ تھا اور یہ رئیس خزرج سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ابن عم تھے۔ وہ ہجرت نبوی سے

پہلے اللہ اور اس کے رسول پر غائبانہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے معرکہ بدر میں شجاعت کے جوہر دکھائے غزوہ احد میں نبی ﷺ نے ابو دجانہ کو ایک تلوار عطا فرمائی جس کا انہوں نے حق ادا کر دیا پھر نبی ﷺ کی حفاظت کرتے ہوئے زخم پر زخم کھائے۔ انہوں نے عہد صدیقی میں جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ (خیر البشر ﷺ کے چالیس جاں نثار طالب ہاشمی) طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ: یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان یعنی بنو تیم میں سے تھے۔ ان کا نسب مزہ بن کعب پر نبی ﷺ سے جاملتا ہے۔ وہ ان آٹھ اصحاب میں سے تھے جو سب سے پہلے شرف ایمان سے بہرہ ور ہوئے۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا اور نبی ﷺ کے آس پاس 7 انصاری جاں نثار شہید ہو گئے تو صرف دو قریشی مہاجر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے جو کفار کے آگے ڈٹ گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی حفاظت کرتے ہوئے بیسیوں زخم کھائے اور ان کی انگلیاں شہید ہو گئیں مگر وہ کفار کے آگے دیوار بن گئے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں ”صاحب احد“ کہہ کر پکارتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ دیگر تمام غزوات میں شریک رہے۔ انہوں نے جنگ جمل میں 10 جمادی الآخرہ 36ھ کو 64 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے والد عبید اللہ بن عثمان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا البتہ ان کی والدہ صعبہ فحیمہ نے اسلام قبول کیا اور طویل عمر پائی۔ مشہور صحابی علماء بن الحضر می رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے۔ (رحمت دارین ﷺ کے سوشیدائی۔ طالب ہاشمی)

انس بن نصر رضی اللہ عنہ: یہ بنو نجار کے رئیس اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ رشتے میں نبی ﷺ کی دادی سلمیٰ کے بیٹھے تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے نبی ﷺ کی شہادت کی افواہ سنی تو انس بن نصر رضی اللہ عنہ شمشیر بدست کفار کے مجمع میں گھس گئے اور زخم پر زخم کھاتے آخری وقت تک لڑتے رہے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر تیر تیرے اور تلوار کے اسی زخم تھے۔ (”شمع رسالت کے تیس پروانے“ حاشیہ ”مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ“ از طالب ہاشمی)

مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ“






سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر، اس کے پیچھے کوہ احد نمایاں ہے



احد پہاڑ کے دامن میں تیر اندازوں کی پہاڑی



جبل احد (احد پہاڑ)



محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غزوۂ حمرّاء الاسد (16 شوال 3 ہجری)

رسول اللہ ﷺ اور جنگ احد میں شریک ہونے والے مسلمان غزوۂ احد کے فوراً بعد ابوسفیان اور اس کے لشکر کے پیچھے نکلے تاکہ انہیں پیہ چل جائے کہ مسلمانوں کی قوت برقرار ہے اور جنگ احد میں پہنچنے والے نقصان نے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں کمزور نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابوسفیان چپکے سے مکہ کو چل پڑا اور اسے مدینہ منورہ کی طرف منہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے اتنی کامیابی ہی کو کافی سمجھا کہ مسلمانوں کے ستر آدمی مارے گئے ہیں حالانکہ اس میں ابوسفیان کی تجربہ کاری اور مہارت کو کوئی دخل نہ تھا بلکہ یہ تو نتیجہ تھا رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کا جو تیر اندازوں سے انجانے میں سرزد ہو گئی تھی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

18 شوال سن 3 ہجری کو مجاہدین احد سے لوٹے تو ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات انصار کے سرداروں نے آپ ﷺ کے دروازے کے پاس اور مجاہدین نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے گزاری۔ صبح اتوار کو جب رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی تو بلال رضی اللہ عنہ سے کہا: ”لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول ﷺ نے تمہیں دشمن (قریش مکہ) کی تلاش (تعاقب) کا حکم دیا ہے اور ہمارے ساتھ صرف وہ جائے گا جس نے کل (غزوۂ احد میں) ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کی تھی۔“ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میرے والد نے احد کے دن مجھے میری بہنوں کے پاس چھوڑا تھا اس لیے میں جنگ میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ میں نے عرض کی آپ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔

رسول اللہ ﷺ اس حال میں (دشمن کے تعاقب میں) نکلے کہ آپ کا چہرہ مبارک مجروح تھا پیشانی مبارک پھٹی ہوئی تھی دندان مبارک زخمی تھے اور نچلا ہونٹ مبارک بھی کٹا ہوا تھا۔ آپ کے داہنے کندھے میں شدید درد تھا جہاں بد بخت ابن قمریہ نے تلوار کا وار کیا تھا۔ آپ ﷺ کے گھٹنوں پر بھی خراشیں تھیں۔ اہل عوالی بھی جمع ہو کر آ گئے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ چلے۔ آپ نے اسلم قبیلہ کے تین آدمی آگے روانہ کیے۔ ان میں سے دو آدمی مقام حمرّاء الاسد پر کفار تک پہنچ گئے۔ کفار کے تیر انداز مشورے دے رہے تھے کہ واپس جا کر مسلمانوں پر ایک بار پھر حملہ کیا جائے جبکہ صفوان بن امیہ روک رہا تھا۔ اسی اثناء میں انہوں نے دو آدمی دیکھے تو وہ ان پر پل پڑے اور انہیں شہید کر ڈالا اور چلے گئے۔

رسول اللہ ﷺ صحابہ کو لے کر حمرّاء الاسد پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ دونوں شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا۔ یہاں

مسلمان رات کے وقت پانچ سو چوہوں میں آگ جلاتے تھے تاکہ دور سے نظر آجائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ اور ان کی آگ کی خبریں ہر طرف پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا اور اس نے پلٹ کر حملہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ اللہ کے رسول ﷺ واپس آ گئے اور مدینہ میں جمعہ کے روز داخل ہوئے۔ اس مہم میں پانچ دن آپ مدینہ سے باہر رہے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو شہر میں امیر مقرر کیا تھا۔ (طبقات ابن سعد: 2/48، 49)

حَمْرَاءُ الْاَسَد: مدینے سے عقیق کے راستے پر ذُو الْخَلِيفَةِ کے بائیں طرف تقریباً 13 کلومیٹر دور ایک بستی ہے۔ الحمراء نام کے اور بھی کئی شہر ہیں، جیسے غرناطہ میں قصر الحمراء، بیت المقدس کے نواح میں اور مصر میں بھی ایک قریہ کا نام الحمراء ہے۔ (معجم البلدان جلد 2)



ॐ

(کراچی)

0195

2015

١٢٤

2/13

219

۱۰۰

✱
✱
✱

وہابی

-
-
-
-



●

معدنہ کی شہم

٤٠

۱۰

غزوہٴ حِجَازِ الْأَسَد

(6) سوال 2ھ

[illegible]

سریہ ابی سلمہ بن عبداللہ سعد مخزومی رضی اللہ عنہ قطن کی طرف (محرم 4 ہجری)

یہ لشکر کشی فید کے علاقے میں ہوئی جہاں بنو اسد بن خزیمہ کا کنواں تھا۔ خویلد کے بیٹوں طلحہ اور سلمہ نے وہاں لشکر جمع کیا تھا۔ 150 مسلمان ان کی سرکوبی کے لیے گئے تھے۔

اضافی توضیحات و تشریحات


ابو سلمہ بن عبداللہ سعد مخزومی رضی اللہ عنہ کو نبی ﷺ نے ڈیڑھ سو مہاجرین و انصار کے ساتھ ”قطن“ کی طرف بھیجا۔ اس سریہ کی وجہ یہ بنی کہ نبی ﷺ کو پتہ چلا کہ خویلد کے بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی خبر پا کر یہ سب لوگ فرار ہو گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مال غنیمت کے طور پر بہت سے اونٹ اور بکریاں لے کر مدینہ واپس آ گئے۔

قطن: یہ فید کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے اور فید کوفہ کے راستے پر ایک منزل کا نام ہے جہاں بنو اسد بن خزیمہ کا چشمہ (طبقات ابن سعد: 2/50، معجم البلدان: 4/282) ہے۔

فید جاہلیت میں بنو اسد اور بنو طے کے درمیان ایک بیابان تھا۔ زید النخیل رضی اللہ عنہ جب نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فید کا علاقہ انہیں دے دیا۔ غمر اور فید کے درمیان 20 میل کا فاصلہ ہے۔ (معجم ما سئع جلد 3، 4) ابو سلمہ بن عبداللہ سعد رضی اللہ عنہ: ابو سلمہ بن عبداللہ سعد مخزومی قرشی رضی اللہ عنہ ان کا نام عبد اللہ ہے اور یہ نبی ﷺ کے چھوٹے زاد اور رضائی بھائی ہیں۔ یہ سابق الاسلام ہیں۔ پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں سے مدینہ پہنچ گئے۔ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے۔ غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ پہلے زخم مندمل ہو گئے لیکن پھر کھل گئے۔ جمادی الآخرہ 3ھ میں فوت ہو گئے۔

(اسد الغابہ: 2/148)





سریہ عبد اللہ بن اُنس رضی اللہ عنہ عزّٰی کی طرف (محرم 4 ہجری)

اس لشکر کشی کا مقصد اس لشکر کو تتر بتر کرنا تھا جو سفیان بن خالد ہذلی نے جمع کیا تھا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ کو پتا چلا کہ سفیان بن خالد ہذلی عزّٰی نامی جگہ پر مسلمانوں کے خلاف فوج اکٹھی کر رہا ہے۔ آپ نے عبد اللہ بن اُنس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ سفیان کو قتل کر دے۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے نبی! آپ اس کا تعارف کروادیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم اسے دیکھو گے تو مرعوب ہو جاؤ گے اور تمہیں شیطان یاد آجائے گا۔“ میں نے عرض کیا: ”میں مردوں سے نہیں ڈرتا۔“ پھر میں نے آپ ﷺ سے اجازت چاہی کہ اسے دھوکا دینے کے لیے کوئی خلاف واقعہ بات کہہ دوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اجازت ہے۔“ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اسے دیکھا اور نبی ﷺ کے بتائے ہوئے تعارف سے اسے پہچان لیا اور واقعی اس سے مرعوب ہو گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا: ”کون ہو؟“ میں نے کہا: ”میں خزاعہ کا ایک فرد ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم محمد ﷺ کے خلاف لڑنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہو۔ میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔“ میں اس کے ساتھ چلتا رہا اور اس سے باتیں کرتا رہا۔ اسے میری باتیں اچھی لگ رہی تھیں حتیٰ کہ ہم اس کے خیمے میں پہنچ گئے۔ اس کے ساتھی چلے گئے۔ جب لوگ اطمینان سے سو رہے تھے میں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سراپے ساتھ لے آیا۔ میں ایک غار میں داخل ہوا تو مکڑی نے اس کے باہر جالائے دیا۔ وہ میری تلاش میں نکلے لیکن ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ میں نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ ﷺ کو خوشخبری سنائی تو آپ نے مجھے ایک لاشی عطا کی اور فرمایا: ”تم جنت میں اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ گے۔“

جب عبد اللہ بن اُنس قریب المرگ تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ لاشی ان کے ساتھ ہی دفن کی جائے۔

(طبقات ابن سعد: 2/51، 50)


عُروۃ: یہ عرفات کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ کسی اور نے کہا ہے کہ یطن عزّٰی میں مسجد عرفہ اور برساتی نالہ دونوں واقع ہیں۔ (معجم البلدان جلد 4) پروفیسر عبدالرحمن عبد لکھتے ہیں: ”عرفات سے قبل ایک خاصے چوڑے برساتی نالے کی گزرگاہ ہے جس کا نام وادی عروہ ہے۔ اس کے اوپر قریباً ایک کلومیٹر کے اندر چودہ کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ مسجد عروہ کے قریب اس برساتی نالے میں ہلکا سا غم ہے۔ اس نالے سے پانی گزرنے کی نوبت برسوں بعد ہی آتی ہوگی۔ اس وقت یہ محض ریت

کا دریا تھا جس کی سطح پر گویا لہریں بنی ہوئی تھیں۔ اس روز مغرب کے بعد ہمیں بیٹھ کر ہم نے رات کا کھانا کھایا..... وادیِ غرنہ کو پار کر کے 19 سڑکیں تیر کی طرح سیدھی اور متوازی آگے بڑھتی ہیں جنہیں دائیں بائیں سات سڑکیں زاویہ قائمہ پر کاٹتی ہیں۔ سڑکوں کے ان متوازی خطوط کے جال میں ایک دائرہ بھی ہے۔ اس دائروں سڑک نے جبلِ رحمت کو اپنے محیط میں لے رکھا ہے۔“

(آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) عرفات ص 114، 115)

عبداللہ بن اُنیس رضی اللہ عنہ: یہ انصاری اور بنو سلمہ کے حلیف تھے۔ یہ بیعت عقبہ اور بدر احد اور دیگر غزوات میں شریک ہوئے۔ یہ ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے بنو سلمہ کا بت توڑا۔ 74ھ میں فوت ہوئے۔ (اسد الغابہ: 3/ 178، 179)





سرّیہ مُنذر بن عمرو رضی اللہ عنہ (برِ معونہ) (صفر 4 ہجری)

عامر بن مالک بن جعفر ابوبراء ملاحب الانسہ کلابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا مگر کہنے لگا: ”اگر آپ اپنے چند ساتھی میری قوم کی طرف بھیج دیں تو مجھے امید ہے وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے کہیں انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔“ وہ کہنے لگا: ”میں ان کا ذمہ دار ہوں کوئی مسلمانوں سے تعرض نہیں کرے گا۔“ آپ نے ستر فراء قرآن بھیج دیے۔ یہ سب انصاری تھے۔ آپ نے ان کا امیر منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا لیکن جب وہ بنو سلیم کے کنوئیں ”بنو معونہ“ پر پہنچے تو انہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے سب مسلمانوں کو شہید کر دیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

صفر 4ھ میں نجد سے ابوبراء عامر بن مالک جو ”ملاحب الانسہ“ (نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا) مدینہ میں حاضر ہوا۔ نبی ﷺ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن دوری اختیار نہ کی اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے قراء صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ستر مبلغین منذر بن عمرو ساعدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیج دیے۔ انہوں نے ”برِ معونہ“ پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آ رہا ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔“

پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابوبراء کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعل و کوان اور عَصَیْہ نے آکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہ تیغ کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ بچ رہے۔ کعب بن زید رضی اللہ عنہ زخمی تھے۔ انہیں مردہ سمجھ کر جھوٹا دیا گیا، چنانچہ بعد میں وہ شہداء کے درمیان سے اٹھالائے گئے۔ پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ دونوں وہاں پہنچ کر کفار سے لڑنے لگے۔

منذر رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے شہادت حاصل کی اور عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نذر تھی انہیں آزاد کر دیا۔

حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہلے۔ رسول اللہ ﷺ کو رجوع کے حادثے پر سخت رنج و الم پہنچا۔ یہ حادثہ صفر 4 ہجری میں پیش آیا۔ نبی ﷺ نے قراء کے قاتل قبائل بنو لحيان رعل ذکوان اور عصبیہ پر ایک مہینہ تک بددعا فرمائی۔

(بخاری ابن ہشام طبقات ابن سعد)


منذر بن عمرو ساعدی رضی اللہ عنہ: منذر بن عمرو ساعدی خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں۔ یہ بیعت عقبہ بدر اور احد میں حاضر ہوئے۔ یہ بنو ساعدہ کے نقیب تھے۔ بزم معونہ پر شہید ہونے والی جماعت کے امیر تھے اور شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔

(اسد الغابہ: 5/258)

بزم معونہ: علاقہ بنو عامر اور حرہ بنو سلیم کے درمیان ایک کنواں تھا جو بنو سلیم کی ملکیت تھا اور ان کے قریب تر بھی۔ اس کے آس پاس کا علاقہ بھی بزم معونہ کہلاتا تھا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 5/244)





سریہ مرہد بن ابی مرہد غنوی رضی اللہ عنہ

(صفر 4 ہجری)

اسے سریہ رجع بھی کہا جاتا ہے۔ بات یوں ہوئی کہ عضل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ آپ ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے چند معلم طلب کیے تاکہ وہ ان قبائل میں تبلیغ اسلام کریں۔ آپ نے مرہد بن ابی مرہد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چھ مسلمان ان کے ساتھ بھیج دیے۔ جب یہ لوگ بنو ہذیل کے کنویں ”رجع“ پر پہنچے تو انہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے کچھ کو شہید کر دیا اور کچھ کو قید کر لیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سریہ رجع: غزوہ احد کے بعد وسط ماہ صفر 4ھ میں قبائل عضل اور قارہ کے کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام سے بڑی رغبت رکھتے ہیں اگر آپ اپنے صحابہ میں سے چند مبلغ ہمارے ساتھ کر دیں تو ہمارا قبیلہ ان سے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا چنانچہ نبی کریم ﷺ نے سات (بعض روایات میں 16 اور بعض میں 10) صحابہ پر مشتمل تبلیغی وفد ان کے ہمراہ کر دیا۔ وفد کی قیادت حضرت مرہد رضی اللہ عنہ اور بعض روایات کے مطابق عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔

یہ عضل اور قارہ کی ایک چال تھی۔ جب یہ صحابہ کرام الرجع نامی نخلستان کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنو ہذیل کے لوگوں کو ان پر حملہ کے لیے پکارا۔ اس پر سو آدمیوں نے تلواریں سے مسلح ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ سات مسلمان لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جبکہ کفار نے جھوٹی امان دے کر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، زید بن دھنہ رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کو قیدی بنا لیا۔

عبد اللہ بن طارق رضی اللہ عنہ تو وہیں شہید کر دیے گئے جبکہ ان ظالموں نے خبیب اور زید بچھڑا کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا جسے خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ انہوں نے خبیب کو تعظیم لے جا کر قتل کر دیا۔ زید بن دھنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا لہذا انہیں اس کے بیٹے صفوان نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر ڈالا۔


الرجع: جزیرہ نمائے عرب میں اس نام کے دو مقام ہیں ایک خیبر کے قرب وجوار میں ہے جہاں غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے پڑاؤ کیا تھا۔ اسی نام کا دوسرا مقام مکہ اور طائف کے درمیان ”الہذاة“ کے قریب ہے۔ اسی مقام پر بنو

ہذیل کا ایک کنواں تھا جسے بر معاویہ کہتے تھے۔

[الرجیع، عسفان سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ (ابن کثیر)] یہ بطنِ غران میں واقع ہے جو اُنج اور عسفان کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس مضمون میں الرجیع سے مراد بھی مؤخر الذکر مقام ہے جہاں اصحاب رسول ﷺ کو سریہ الرجیع پیش آیا۔

مرہد بن ابی مرہد رضی اللہ عنہ، مرہد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور ان کے باپ ابو مرہد جن کا نام کناز رضی اللہ عنہ ہے وہ بھی صحابی ہیں۔ دونوں باپ بیٹا جنگ بدر میں شریک تھے۔ حضرت مرہد رضی اللہ عنہ مکہ میں قید مسلمانوں کو چھڑا کر لایا کرتے تھے اور ان سے کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ یہ سریہ الرجیع میں شہید ہوئے۔
(الإصابة: 6/56)





غزوہ بنی نضیر (ربیع الاول 4 ہجری)

اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ بنی نضیر نے ایک پتھر گرا کر رسول اللہ ﷺ کو دھوکے سے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نبی اکرم ﷺ بنو عامر کے دو آدمیوں کی وسعت میں امداد حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کیونکہ آپ نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ بنی نضیر آپس میں کہنے لگے: ”موقع اچھا ہے ہم نبی (ﷺ) کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔“ آپ ﷺ کو وحی سے اس سازش کی اطلاع ہو گئی۔ آپ اٹھ آئے اور ان کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ آخر کار مجبور ہو کر انہوں نے درخواست کی: ”ہمیں جلاوطن کر دیا جائے، قتل نہ کیا جائے نیز اونٹوں پر لاد کر مال لے جانے کی اجازت دی جائے۔ البتہ اسلحہ مکانات اور زمینوں پر مسلمان قبضہ کر لیں۔“ اس طرح ذلیل ہو کر وہ مدینہ منورہ سے نکلے اور خیبر میں جا بسے اور ان میں سے بعض ”اذرعات“ چلے گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ بنی نضیر: غزوہ بنی نضیر ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ ہوا یوں کہ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں دو کلابی قتل ہو گئے جن کی وسعت معاہدے کے مطابق مسلمانوں اور یہودیوں پر پڑتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ جب دیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے بنی نضیر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: ”ابوالقاسم! آپ یہاں بیٹھیں۔ ہم آپ کا کام کرتے ہیں۔“ اس دوران میں انہوں نے آپ ﷺ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو دے دی اور آپ ﷺ چپکے سے اٹھ کر آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ ﷺ کے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے دریافت کیا: ”اللہ کے رسول! آپ اٹھ کر آ گئے اور ہمیں خبر نہ کی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہود نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اللہ نے مجھے بتا دیا۔“ آپ ﷺ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا کہ وطن سے نکل جاؤ یہاں رہنے کی اجازت نہیں اور اس کے لیے دس دن کی مہلت ہے۔ مگر وہ نہ گئے مدینہ ہی میں رکے رہے۔ عبد اللہ بن ابی نے انہیں تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے حلیف بنو غطفان بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہود نے رسول اللہ ﷺ کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں چنانچہ آپ ﷺ نے صحابہ کو تیار کیا اور عصر کی نماز بنی نضیر کی آبادی میں جا کر ادا کی۔ جہنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور مدینہ میں نبی ﷺ نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا۔ آپ ﷺ نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ محاصرے کے دوران میں آپ ﷺ نے ان کی کھجوریں کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اب تمہاری بات


قابل قبول نہیں البتہ تم صرف اتنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہو جو تمہارے اونٹ اٹھالیں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں اور نہ اسلحہ لے جا سکتے ہو۔ یہودیوں نے یہ شرط مان لی۔ آپ نے ان کا پندرہ روز تک محاصرہ کیا۔ جب وہ اپنا سامان اٹھا رہے تھے تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ ان کے اس اخراج پر آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو نگران بنایا۔ وہ اپنا سامان اور عورتیں اور بچے 600 اونٹوں پر لا کر لے گئے۔ مدینہ سے نکل کر وہ خیبر آباد ہوئے۔ آپ ﷺ نے ان کے اموال اور اسلحے پر قبضہ کر لیا۔ اسلحے میں 50 زرہیں 50 خود اور 340 تلواریں ہاتھ آئیں۔ یہ سامان اللہ کے رسول ﷺ کے لیے خاص تھا یعنی اس کا شس نہیں نکالا اور نہ کسی کو اس میں سے حصہ دیا البتہ بعض مہاجرین کو اس علاقے کے کنویں الاٹ کیے تھے۔ (طبقات ابن سعد: 2/57، 58)

بنو نضیر: مدینہ میں آباد بنو نضیر ان یہودی قبیلوں میں سے ایک تھا جو اسرائیلی جنگوں کے بعد رومیوں کے دباؤ کی تاب نہ لا کر فلسطین سے یثرب آئے تھے۔ یعقوبی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ عربی قبیلہ بنو جذام کی ایک شاخ تھے جو یہودی مذہب اختیار کر کے پہلے جبل نضیر پر آباد ہوئے۔ اس بنا پر بنو نضیر کے نام سے موسوم ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک خالص یہودی قبیلہ تھا جس کا تعلق یہود خیبر سے تھا۔ بنو نضیر بھی مدینہ کے دوسرے یہودیوں کی طرح عربوں کے سے نام رکھتے تھے مگر ان سے الگ تھلگ رہتے تھے اور ایک خاص زبان بولتے تھے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی ساہوکارہ اسلحہ سازی اور جواہرات کے بیوپار کے ذریعے خالص امیر تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بنو نضیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی اراضی وادی بطنحان اور یویرہ میں اور رہائش شہر کے جنوب میں تھی۔ سورۃ الحشر انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 22/243، 244)

بنو جذام: یہ زار کی نسل سے تھے مگر اموی دور حکومت میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کہلان بن سبا کی اولاد میں سے ہیں۔ بنو جذام قبل از اسلام شام اور فلسطین کی سرحدوں پر آباد تھے اور رومیوں کے زیر اثر سطحی قسم کے عیسائی بن گئے تھے۔ موتہ کے مقام پر بنو جذام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ٹکرائے۔ انہوں نے 15ھ/636ء میں جنگ یرموک میں بھی رومیوں کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور فتوحات شام میں حصہ لیا۔ روح بن زنباع جس نے مروان بن حکم کا نام بحیثیت خلیفہ تجویز کیا وہ بنو جذام کا رئیس اعظم تھا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد: 7)

بنو غطفان: غطفان بن سعد بن قیس عیلان کی چراگاہیں خیبر اور حجاز سے لے کر بنو طے کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ قبیلہ غطفان کی دو بڑی شاخیں تھیں: اشج بن ریث بن غطفان یثرب کے قرب و جوار میں آباد تھے اور بغض بن ریث شریہ اور ربذہ کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔ بنو بغض عیس اور ذبیان میں تقسیم ہو گئے تھے۔ داحس وغمراء کی جنگ کے فریق یہی عیس اور ذبیان تھے۔ (داحس گھوڑا تھا اور غمراء گھوڑی ان پر جھٹھا ہوا جس نے جنگ کی شکل اختیار کر لی) بنو غطفان غزوہ خندق میں کفار مکہ کے ساتھ شریک رہے۔ انہوں نے 8ھ میں فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام قبول کر لیا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد: 14/2)



غزوہ بدر الآخرہ (ذوالقعدہ 4 ہجری)

اس غزوہ کو ”بدر الموعود“ اور ”بدر ثالث“ بھی کہتے ہیں۔ ابوسفیان اور اس کے لشکر نے مدینہ منورہ پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ غزوہ احد میں ابوسفیان خود آئندہ سال بدر میں لڑائی کا چیلنج دے گیا تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ آٹھ دن ٹھہرے رہے۔ ابوسفیان ہمت نہ کر سکا پھر آپ ﷺ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ صفوان بن امیہ ابوسفیان سے کہنے لگا: ”اللہ کی قسم! میں نے احد کے دن بھی روکا تھا کہ مسلمانوں کو آئندہ سال جنگ کا چیلنج نہ دو۔ اب وہ تو جرأت کر کے میدان میں آ گئے ہیں مگر ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں اور مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔“

اضافی توضیحات و تشریحات


ابوسفیان نے ”احد“ میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ شعبان 4ھ کی آمد پر رسول اللہ ﷺ نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں آٹھ دن ٹھہر کر ابوسفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اور دس گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔

ادھر ابوسفیان بھی پچاس سواروں سمیت دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور ”مر الظہران“ پہنچ کر مصحنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا لیکن شروع سے اس پر رعب طاری تھا چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ”جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے لہذا میں واپس جا رہا ہوں۔ تم لوگ بھی واپس چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔“

مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور ایک درہم کے دو درہم بنائے پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی چنانچہ ایک سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اسی دوران میں ربیع الاول 5 ہجری میں آپ ﷺ ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے ”دومتہ الجندل“ تشریف لے گئے۔ اور یوں ہر چہار جانب امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ (سیرت ابن ہشام: 2/210,209)

مر الظہران: مر الظہران یا مر ظہران مکہ سے ایک مرحلے کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ اصمعی کے بقول مر بستی ہے اور ظہران وادی ہے۔ مر میں کئی چشمے اور نخلستان ہیں۔ یہاں اسلم ہذیل اور غاضرہ قبائل آباد ہیں۔ (معجم البلدان)





غزوہ ذات الرقاع (محرم 5 ہجری)

غطفان کے قبائل بنو محارب اور بنو ثعلبہ نے نجد کے علاقے میں آپ ﷺ سے لڑائی لڑنے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ رسول اکرم ﷺ ان کی سرکوبی کے لیے چار سو صحابہ لے کر چلے۔ اس غزوہ کو ”ذات الرقاع“ کہنے کی وجہ صحیح بخاری میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”ہم ایک جنگ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔ شدت کا یہ عالم تھا کہ ایک اونٹ پر چھ آدمی باری باری سفر کرتے تھے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم زخمی ہو گئے۔ میرے قدم اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ میری انگلیوں کے ناخن بھی جھڑ گئے اور ہم اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ کر گزرا کرتے تھے اس لیے اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔“^① (رقاع کے معنی کپڑے کی پٹیاں ہیں۔) اس سفر میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ ﷺ مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار ثعلبہ اور محارب کے بدوا کٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سات سو صحابہ کی معیت میں مدینہ سے دودن کے فاصلے پر واقع مقام ”نخل“ کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوف زدہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے صلوٰۃ خوف پڑھائی۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا۔ اس کی جمعیت پر اگندہ ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ مدینہ واپس آ گئے۔

اس غزوے کا نام اس لیے ”ذات السرقاع“ پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چھتھرے پیٹ لیے تھے۔ چھتھروں کو عربی میں ”رقاع“ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ ”رقاع“ یعنی پیوند تھے۔ (فتح الباری: 7/520 تا 523)

نخل: یہ مدینہ سے دو مرحلوں کے فاصلے پر بنو ثعلبہ کی بستی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نجد میں ارض غطفان کا علاقہ ہے جس کا ذکر غزوہ ذات الرقاع کے سلسلے میں آتا ہے۔ اس نام کا ایک تفسیر مصر کے نواح میں شام کے راستے پر بھی موجود ہے اور بنو مزہ بن عوف کی بستی کا نام بھی نخل ہے جو مدینہ سے دو راتوں کے فاصلے پر ہے۔ (معجم البلدان جلد 5)

بنو انمار: یہ عدنانی قبیلہ ہے جو بنو لکیز بن افسی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار کی شاخ ہے۔

(معجم قبائل العرب جلد 1)

① صحیح البخاری، المغازی، باب غزوہ ذات الرقاع، حدیث: 4128

غزوہ دومۃ الجندل (ربیع الاول 5 ہجری)

رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچی کہ دومۃ الجندل میں ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ ایک ہزار مسلمان لے کر نکلے۔ جب دومۃ الجندل کے قریب پہنچے تو کفار کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ آپ نے کئی اطراف میں چھوئے چھوئے لشکر بھیجے لیکن کہیں مقابلہ نہ ہوا اور سب لشکر واپس آ گئے۔


اضافی توضیحات و تشریحات

نبی ﷺ کو معلوم ہوا کہ دومۃ الجندل کی طرف ایک خالم جماعت ہے جس کا کام راہ گریوں کو ستانا اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا ہے۔ آپ ان کی سرکوبی کے لیے ربیع الاول کی 25 تاریخ کو ایک ہزار صحابہ کرامؓ کا لشکر لے کر نکلے۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ رہے تھے۔ اس سفر میں آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں سہار بن عرفطہؓ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ جب آپ شری پسندوں کے ٹھکانے پر پہنچے تو وہاں سوائے بھیڑ بکریوں کے کچھ نہ پایا۔ آپ نے ان کے جانوروں اور چرواہوں پر حملہ کر دیا۔ جو پکڑے گئے وہ پکڑے گئے۔ باقی جدھر منہ آیا بھاگ گئے۔ جب اہل دومہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی منتشر ہو گئے۔ نبی ﷺ نے شہر کے باہر میدان میں ڈیرہ ڈال دیا اور چند دن وہاں قیام کیا۔ آپ نے اطراف و جوانب میں چھوئے چھوئے لشکر بھیجے جو صحیح سلامت واپس آ گئے اور ان میں سے کسی آدمی کا نقصان نہیں ہوا۔ آپ ﷺ کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد بخیر و عافیت واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ (مختصر سیرۃ الرسول ص: 343)

دومۃ الجندل: یہ سعودی عرب کے صحرائے نفود کبریٰ کے شمال میں واقع ایک تاریخی شہر ہے۔ دومۃ الجندل بذریعہ سڑک تبوک سے ملا ہوا ہے اور تبوک سے تقریباً 400 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ دومۃ الجندل سے ایک طرف عراقی سرحد پر جدیدہ عرعر تک سڑک جاتی ہے جو وادی عرصہ سے گزرتی ہے اور دوسری طرف ایک سڑک شمال مغرب میں وادی سرحان سے ہوتی ہوئی اردن کے دارالحکومت عمان تک جاتی ہے۔ (اطلس المملكة العربية السعودية والعالم)

حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں جنگ صفین کے بعد دو حکم ابو موسیٰ اشعریؓ اور عمرو بن عباسؓ یہیں تکبیم کے لیے جمع ہوئے تھے۔





حائل شہر (سعودی عرب) کا فضائی منظر



غزوہ بنی مُصطلق (غزوہ مُریسج) (شعبان 5 ہجری)

اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ خزاعہ کی شاخ بنو جَذِیرہ بن کعب یعنی بنو مصطلق کے سردار حارث بن ضرار نے رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کیا تو رسول اللہ ﷺ سات سو صحابہ ساتھ لے کر نکلے۔ مُریسج کے کنوئیں پر کافروں سے ٹد بھڑ ہوئی اور فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ کافروں کی پوری جمعیت قابو میں آ گئی۔ کیا مرد کیا عورت! اونٹ بکریاں مال غنیمت بن گئیں۔

اضافی توضیحات و تشریحات

قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ ﷺ کے خیر خواہ تھے مگر بنو مصطلق قریش کے طرفدار تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیبؓ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے لہذا آپ ﷺ نے اس حال میں چھاپہ مارا کہ وہ غافل تھے۔ بعض کو قتل کیا۔ عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال موسیقی پر قبضہ کر لیا۔ قیدیوں میں بنو مصطلق کے رئیس حارث بن ضرار کی صاحبزادی جو یہ بھی تھیں۔ مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی ﷺ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرامؓ نے بنو مصطلق کے ایک سو گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے سسرال کے لوگ ہیں۔ اس جنگ کے دوران میں دو حادثے پیش آئے۔

عبداللہ بن ابی کی فتنہ پردازی: ایک مہاجر اور ایک انصاری میں ”مُریسج“ کے چشمہ پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی: ”اے انصار کے لوگو!“ اس پر مہاجر نے آواز لگائی: ”اے مہاجر و!“ یہ سن کر طرفین کے لوگ جمع ہو گئے لیکن رسول اللہ ﷺ نے سبقت کی اور فرمایا: ”میں تمہارے اندر ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے! اسے چھوڑ دو یہ بد بودار ہے۔“ چنانچہ لوگ ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔

منافق عبداللہ بن ابی کی وجہ سے خبر ہوئی تو اس نے نبی ﷺ اور مہاجرین کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اور کہا: ”عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔“ حضرت زید بن ارقمؓ نے یہ بات نبی ﷺ تک پہنچادی۔ عبداللہ بن ابی سے پوچھا گیا تو اس نے قسم اٹھا کر انکار کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کے ہم نام بیٹے عبداللہؓ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تلوار سنت کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جب تک نبی ﷺ اجازت نہیں دیں گے میرا باپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی ﷺ نے کہلو! بھیجا کہ اجازت دے دو۔ (صحیح بخاری حدیث: 3518)

واقعہ اُفک: غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے دوران میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں تو ان کا ہار گم ہو گیا۔ اسے تلاش کرتے ہوئے انہیں تاخیر ہو گئی اور قافلہ بے خبری میں انہیں پیچھے چھوڑ گیا۔ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری ہوئی چیز ملے تو اسے اٹھالیں انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر سے پیچھے رہ گئی ہیں تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر بٹھا کر سواری کی تکمیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔

منافقین کو موقع مل گیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بہتان طرازیں شروع کر دیں۔ منافقین کا پروپیگنڈہ اتنا زوردار تھا کہ کئی مخلص مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل کر کے انہیں سرخرو اور منافقین کو رو سیاہ کر دیا۔ سورۃ النور کی آیات 11 تا 26 اُفک (بہتان طرازی) کے اسی واقعے سے متعلق ہیں۔

مربیع: ”قدید“ کے اطراف میں ساحل کے قریب ”مربیع“ نامی ایک چشمہ ہے۔

”قدید“ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ابن الکلبی کہتے ہیں جب تاج مین لڑائی کے بعد مدینہ سے لوٹا تو قدید میں ٹھہرا۔ اس وقت بڑی تیز ہوا چلی جس نے اس کے ساتھیوں کے نیسے پھاڑ دیے۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام قدید پڑ گیا۔

بنو مصطلق: جذیمہ بن سعد بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ کا لقب ہے۔ اس کی اولاد کو بنو مصطلق کہتے ہیں اور یہ قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔



غزوہ بنو مُصطلق (خزاعہ کی شاخ)

غزوہ مُریسیع (شعبان 5ھ)

الف (بہتان) کا واقعہ

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ وَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برائے سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سرانجام دیا ہے اس کیلئے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔

﴿وَلَوْ لَا رَأَىٰ سَعْيًا مِّنكُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكِلَ مِثْلَ بِهَذَا آفَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ ”تم نے اس بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات مدد سے نکالنی بھی مافیہ نہیں۔ یا اھ! تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور جہت ہے۔“

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجِوْنُ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ”جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔“

(النور: 19, 16, 11/24)

اول اور خزرج

مدینہ منورہ

ذوالخلیفہ

مزینہ

ایوان

الجحفہ

مرسیع

خزاعہ

نہ

لج

کدہ

مسلان

جدیبہ

قریش

مکہ مکرمہ

منہ

ہوازن

طائف

مازن

سراۃ کے ارد

بجیرہ (قلم)

200
150
100
50

غزوہ خندق (غزوہ احزاب) (شوال 5 ہجری)

اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ خیبر کے یہودیوں نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ کہنے لگے: ”ہم ہر طرح تمہاری مدد کریں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے حتیٰ کہ مکمل طور پر مسلمانوں کا استیصال کر دیں۔“ قریش ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ قریش اور بہت سے قبائل غطفان، اسد بنو مرہ، اشجع اور بنو نسلیم وغیرہ مل کر مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے۔ آپ ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کی شمالی جانب خندق کھودی جس کی لمبائی 5544 میٹر اور اوسط چوڑائی 62ء 4 میٹر اور اوسط گہرائی 234ء 3 میٹر تھی۔

ایک مہینہ کے محاصرے کے بعد کوئی مقصد حاصل کیے بغیر سب قبائل اٹھ گئے۔ فوری سبب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردست آندھی چلائی جو صرف مشرکین کے پڑاؤ تک ہی محدود تھی۔ وہ اس آندھی سے بہت گھبرا گئے۔ اس محاصرے کے دوران میں بنو قریظہ کے یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کے عہد کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کر دی جس کا نغیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

قریش مکہ اور مسلمانوں کے مابین تیسرا بڑا معرکہ غزوہ خندق تھا۔ چونکہ قریش، یہود خیبر اور بہت سے گروہ اس میں جھٹھ بندی کر کے مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے اس لیے ان کے قرآنی نام ”احزاب“ سے بھی یہ معرکہ منسوب ہے۔ عبد نبوی میں مدینہ کی شمالی سمت کھلی تھی، باقی تین اطراف میں مکانات اور نخلستان تھے جن میں سے دشمن گزرنہ سکتا تھا چنانچہ کھلی سمت میں خندق کھود کر شہر کے دفاع کا فیصلہ ہوا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں: ”تاریخ اسلام میں ایک مشہور واقعہ جو غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے ذوالقعدہ 5ھ کا محاصرہ مدینہ ہے جس میں مدافعت کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی تھی۔ چوڑائی اور گہرائی کا مؤرخ ذکر نہیں کرتے، مگر گھوڑا پھلانگ نہ سکے کی تصریح کی بنا پر شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ دس گز چوڑی اور شاید پانچ گز گہری تھی۔ مسلمان رضا کاروں کی تعداد تین ہزار بیان کی گئی ہے اور ہر دس دس آدمیوں کی جماعت کو چالیس چالیس ذراع (ہاتھ) لمبی خندق کھودنے کا کام سپرد ہوا۔ ان تین سو ٹولیوں میں سے ہر ایک نے بیس گز کھدائی کی، یعنی کل 6 ہزار گز یا کوئی ساڑھے تین میل لمبی خندق کھودی۔ مسلمان خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ قریش، غطفان، بنو مرہ، اشجع، نسلیم اور بنو اسد پر مشتمل احزاب آپ ﷺ اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔“

خندق کی حفاظتی تدابیر: ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں: ابن سعد وغیرہ کے مطابق دیار بنی حارثہ کے قلعہ رائج (اور بعض روایتوں میں آطام شیخین) سے جبل ذباب تک کا حصہ مہاجرین کے سپرد ہوا اور وہاں سے جبل بنی عبید اور مذاد سے ہوتے ہوئے مسجد فتح تک انصار متعین کیے گئے۔ (آطام شیخین کی جانشین مسجد شیخین مجھے 1947ء میں جبل سلع اور جبل احد کے درمیان حرہ شرقی کے مغربی کنارے پر نظر آئی اور شاید دو گڑھیوں کی یادگار اس چھوٹی سی مسجد کی چھت پر برجیاں بنائی گئی ہیں غالباً رائج اس کے پاس ہی ہوگا) جبل ذباب پر رسول اللہ ﷺ کھدائی کے وقت خیمہ زن تھے۔ اس کی یادگار میں وہاں ”ذو باب“ یعنی دروازے والی مسجد تعمیر ہوئی جو اب تک ذباب کے نام سے مشہور ہے اور جبل سلع پر واقع ہے۔ جبل بنی عبید کا پتہ نہیں چل سکا۔ گمان ہوتا ہے کہ یہ حرہ غربی میں مسجد قبلتین کے قریب دو پہاڑیوں میں سے مغربی پہاڑی ہوگی۔ جبل مذاد میری دانست میں جبل سلع کے مغرب کی ہلالی شکل کی پہاڑی یا اس سے ملے ہوئے ٹکڑے کا نام ہے۔

مسجد فتح وہ مقام ہے جہاں محاصرہ شروع ہونے پر نبی ﷺ کا خیمہ منتقل ہوا۔ یہاں آپ ﷺ نے اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کی تھی۔ یہ ایک مشہور قدیمی زیارت گاہ ہے اور اب تک جبل سلع کی ایک مغربی چوٹی کے محفوظ مقام پر موجود ہے۔ ذباب بنی عبید مذاد اور مسجد فتح ایک مربع سا بن جاتا ہے۔ غالباً یہ آباد علاقہ تھا یہاں اب بھی کچھ باغات موجود ہیں۔ عام فوج اس محفوظ علاقے میں خیمہ زن ہوئی ہوگی۔ ذباب و شیخین کے نیچے کا رقبہ بھی آباد ہوگا کیونکہ 1945ء و ما بعد میں یہاں ایک بڑے شفا خانے کی تعمیر کے لیے جگہ صاف کرائی گئی تو بیسیوں پرانے کنویں برآمد ہوئے تھے۔


واقعی نے لکھا ہے کہ جب خندق کھودی گئی تو شہر کے جنوبی اور مغربی علاقوں کے بسنے والوں نے خندق کو اپنے طور پر عہد نبوی کی عید گاہ (مصلیٰ جہاں اب مسجد غمامہ ہے) کے قریب سے گزارا اور خاصی دور تک قباء کے رخ بڑھا دیا۔ مطری نے التعلیف (تاریخ مدینہ) میں لکھا ہے کہ اب وادی بطحان سابقہ گزرگاہ کو بدل کر اس جگہ سے گزرتی ہے جہاں خندق کا یہ حصہ کھودا گیا تھا۔ اس سے وادی بطحان کی سابقہ گزرگاہ کے ایک حصے کا اگرچہ پتہ نہیں چلتا، لیکن مذکورہ ذیلی خندق کے تعین میں موجودہ گزرگاہ سے معقول رہنمائی ہو سکتی ہے۔ واقعی نے لکھا ہے کہ قباء میں بعض قبائل نے اپنے قلعوں (آطام) کے گرد بھی خندقیں کھودی تھیں۔

محاصرین کا زور نہ چل سکا تو یہود خیبر نے مدینے کے بنو قریظہ کو تنگ و ناموس کا واسطہ دے کر غدار ی پر آمادہ کر لیا اور وہ حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اس کے سد باب کے لیے ایک نو مسلم (نعیم بن مسعود صحیحی غطفانی) نے جس کے اسلام لانے کی خبر ابھی تک پھیلی نہ تھی ایک چال چلی۔ انہوں نے پہلے بنو قریظہ کو سمجھایا کہ جنگی اقدام سے پہلے قریش سے یرغمال حاصل کر لو کہ وہ ادھوری جنگ چھوڑ کر نہ چلے جائیں ورنہ تم تنہا محمد ﷺ کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر قریش کے پڑاؤ میں جا کر مشہور کیا کہ بنو قریظہ نے محمد ﷺ سے ساز باز کر لی ہے اور دوستی کا ثبوت دینے کے لیے وعدہ کیا ہے کہ قریش کے چند سرداروں کو پکڑ کر نبی ﷺ کے سپرد کر دیں گے۔ پھر یہی خبر اسلامی لشکر میں پھیلائی اور کسی کے دریافت کرنے پر نبی ﷺ نے فرمایا: (لَعَلْنَا أَفْرَنَّا هُمْ بِذَلِكَ) ”ہو سکتا ہے ہم نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہو۔“ اس کی اطلاع بھی قریش کے پڑاؤ


تک پہنچی تو دشمنوں میں باہمی غلط فہمیاں پختہ ہو گئیں اور بنو قریظہ و قریش کے تعاون کے امکانات ختم ہو گئے۔ اس اثنا میں دشمن کا سامان رسد ختم ہونے لگا اور اللہ تعالیٰ نے قریش اور غطفان پر سخت آندھی بھیجی جس سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، سردی بڑھ گئی، شدید طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ تب قریش اور ان کے ساتھی قبائل مایوسی کے عالم میں محاصرہ اٹھا کر واپس چل دیے اور مطلع صاف ہو گیا۔

(اروودائرہ معارف اسلامیہ، جلد: 9، ص: 10۴6)





سلط پر از کا ایک رخ: یہیں جنگ خندق کے موقع پر فوجی
 ہیڈ کوارٹر تھا جہاں مسجد فتح تعمیر کی گئی اور مسجد ابو بکر، مسجد علی
 اور مسجد سلمان فارسی جی لکھ بھی نمایاں ہیں



غزوہ بنو قریظہ (ذوالقعدہ 5 ہجری)

اس غزوے کا سبب بنو قریظہ کو علانیہ بغاوت اور صریح بدعہدی کی سزا دینا تھا۔ خصوصاً جبکہ ان کا یہ جرم دوران جنگ میں سرزد ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ لشکر لے کر ان کی طرف چلے۔ وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ آخر کار تنگ آ کر خود درخواست کی کہ ہمارے بارے میں اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا: ”ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، مال تقسیم کر لیے جائیں اور بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے اور غلام بنا لیے جائیں۔“ بنو قریظہ نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ اپنے جرم سے خوب واقف تھے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

بنو قریظہ یثرب کے تین یہودی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جو بنو نضیر کا رشتے دار تھا۔ دونوں قبیلے مل کر بنو نضیر کہلاتے تھے۔ یہ دوسرے یہودیوں کے مقابلے میں خاصی مدت بعد یثرب میں آباد ہوئے۔ بنو قریظہ کی دو شاخیں تھیں: بنو کعب اور بنو عمرو۔ وہ شہر سے باہر جنوب کی طرف وادی مزور میں اپنے ہم نسب قبیلے ہدل کی معیت میں رہتے تھے۔ ان کے شمال مغرب میں قبیلہ اوس کا علاقہ تھا، شمال مشرق میں بنو عبد الاشمل کا اور مشرق میں الحوہ واقع تھا۔ قریظہ جو زمینوں کے مالک تھے، اپنی زرعی پیداوار نیز تجارت کی بدولت بڑی فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت محمد ﷺ کی مدینے میں تشریف آوری کے وقت ان میں 750 سپاہی تھے اور ان کے پاس ہتھیاروں اور زروہوں کے بڑے ذخیرے موجود تھے۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 16/2 صفحہ: 110)

بنو قریظہ کا محاصرہ: رسول اللہ ﷺ غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ”میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔“ اور یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے۔ (صحیح بخاری، حدیث: 2813)


ادھر رسول اللہ ﷺ نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص ”سمع و طاعت“ پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ (صحیح بخاری، حدیث: 946) اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا پھر پرا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کی۔ رسول اللہ ﷺ بھی

مہاجرین و انصار کے جلو میں نکلے اور بنو قریظہ کے ”انا“ نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنی گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ انہیں لڑائی کی جرأت نہ ہوئی۔

بنو قریظہ کا انجام: محاصرہ کی طوالت سے بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، چنانچہ پچیس روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ آپ ﷺ نے مردوں کو باندھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے کہ ہمارے ان حلیفوں پر احسان فرمائیں جس طرح خزرج کے حلیف بنو قیظہ پر احسان فرمایا تھا۔ آپ ﷺ نے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم (قاضی) مقرر کیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ ”مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے ان کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔“

(تجلیات نبوت: ص: 235 تا 237)





سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قُرطاء کی طرف (10 محرم 6 ہجری)

وہ تیس سوار لے کر قُرطاء قبیلہ کی طرف گئے۔ یہ قبیلہ کلاب کی شاخ بنو بکر سے تعلق رکھتا تھا۔


اضافی توضیحات و تشریحات

بنو بکر بن کلاب کا ایک قبیلہ ضریہ کی جانب جو مدینہ سے سات دن کی مسافت پر واقع ہے، مقام بکرات میں آباد تھا۔ نبی ﷺ نے 10 محرم 6ھ کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 30 سوار دے کر ان کی طرف بھیجا۔ جب انہوں نے بنو بکر پر حملہ کیا تو وہ جان بچا کر بھاگ گئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کے اونٹوں اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور محرم کی 29 تاریخ کو مدینہ منورہ واپس آ گئے اور ثمامہ بن اثال کو بھی قید کر کے لے آئے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔
(مختصر سیرۃ الرسول ص: 292)

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”کعب بن اشرف کا قتل“

بنو بکر بن کلاب: یہ قبیلہ بکر بن کلاب سے منسوب ہے جو قیس بن عیلان کی اولاد میں تھے۔ ان کے علاقے نجد میں ہرکنہ و عامہ السی اور الفالح ہیں اور المطالی، المضاجع، ضریہ کی چراگاہ، الحضر، احسن اور الہردہ میں بھی رہتے ہیں۔
(معجم قبائل العرب جلد 1)





غزوہ بنی لحيان (ربیع الاول 6 ہجری)

غُصَل اور قَارَہ قبیلوں کے کچھ لوگوں نے غدر کرتے ہوئے چھ اصحاب رسول ﷺ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ربیع کنویں پر پیش آیا تھا۔ یہ کنواں بنو ہذیل کا تھا اور حجاز کے علاقے میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ دو سو مسلمانوں کو لے کر حج پہنچے لیکن دونوں قبیلوں کے لوگ ڈرتے ہوئے بچنے کے لیے دوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھی عسکان میں فروکش ہو گئے تاکہ قریش کو پتہ چل جائے کہ آپ مکہ کے اتنے قریب آچکے ہیں، نیز ان پر مسلمانوں کی قوت اور جرأت واضح ہو جائے۔

اضافی توضیحات و تشریحات


بنو لحيان وہی تھے جنہوں نے ”ربیع“ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا۔ یہ حجاز کے بہت اندر عسکان کی حدود میں آباد تھے اس لیے نبی ﷺ نے ان سے منہنے میں قدرے تاخیر کی۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ ﷺ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ ﷺ نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپ کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحيان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے ”بطن غُران“ تک جا پہنچے۔ یہ اُنج اور عسکان کے درمیان ایک وادی ہے اور یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور دو روز یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لحيان کو خبر ہو گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آسکا۔ پھر آپ ﷺ نے عسکان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائیں۔ اس دستے نے گراع الغسیم تک چکر لگایا۔ اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ (طبقات ابن سعد: 2/78-80)

اُنج: اُنج اور غُران دو وادیاں ہیں جو 7 ہجری تک سے نکلتی ہیں اور سمندر (بحیرہ احمر) میں جا گرتی ہیں۔ اُنج مدینہ (اور مکہ) کے اطراف میں ایک بہت بڑی بستی ہے۔ اس میں بہت سے کھیت اور کھجوریں ہیں۔ (معجم البلدان: 1/250) معجم ما سئعم: 1/190

عسکان: یہ مکہ اور جحفہ کے درمیان پانی کا گھاٹ ہے اور مکہ سے 36 میل کے فاصلے پر تھام کی حد پر واقع ہے۔

(معجم البلدان: 4/121, 122)

کُراع الغسیم: یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان حجاز کے علاقے میں ایک مقام ہے اور یہ ایک وادی ہے جو عسکان کے سامنے 8 میل پر واقع ہے۔ اور کُراع رُبَّہ دیار جذام میں ہے۔



غزوہ ذی قرد (الغابہ) (ربیع الاول 6 ہجری)

غُیْنَسَہ بن حصن فزاری غطفان کے کچھ سواروں کی معیت میں رسول اللہ ﷺ کی دودھ والی حاملہ اونٹنیاں بھگا کر لے گیا جو مدینہ منورہ سے باہر ”غابہ“ میں چر رہی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ پانچ سو ساتھیوں کو لے کر ان کے پیچھے چلے نتیجتاً اونٹنیاں ان سے چھڑائی گئیں۔ آپ نے ذی قرد تک ان کا پیچھا کیا۔ پھر آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

نبی ﷺ نے اپنے اونٹ ”أَحَدُ“ کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ ان کے ساتھ آپ ﷺ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکوع جیٹے تھے۔ حضرت سلمہ جیٹے کے پاس ابو طلحہ جیٹے کا گھوڑا بھی تھا۔ اچانک غُیْنَسَہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک لے گیا۔ حضرت سلمہ جیٹے نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دیں اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور تین بار نہایت بلند آواز سے پکارا: (یا صبا حاہ!) ”ہائے صبح کا حملہ!“

پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے۔ غرض وہ فزاریوں پر مسلسل تیر برساتے اور انہیں زخمی کرتے رہے۔ جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے۔ دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور ان پر پتھر لڑھکانے لگے۔ یوں ان کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ انہوں نے سارے اونٹ چھوڑ دیے لیکن حضرت سلمہ جیٹے نے پھر بھی ان کا پیچھا کیے رکھا اور تیر مارتے رہے یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے دشمنوں نے تیس چادریں اور تیس نیزے پھینک دیے۔ اس دوران میں نبی ﷺ اور دیگر صحابہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت سلمہ جیٹے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ سب پیاسے تھے۔ اگر آپ مجھے سو آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔“


آپ ﷺ نے فرمایا: ”اکوع کے صاحبزادے! تم قابو پا گئے۔ اب نرمی برتو۔“ (بخاری حدیث نمبر 4194) ”البدایۃ والنبایۃ: 2/151، 154)

ذی قَرْد: یہ مدینہ اور خیبر کے درمیان مدینے سے دور اتوں کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس طرف غُیْنَسَہ کی تلاش میں گئے تھے جب وہ آپ ﷺ کے اونٹ ہانک لے گیا تھا۔ قبیسہ کی حدیث (صحیح بخاری) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اونٹ ذی قَرْد میں تھے جنہیں غطفانی ہانک لے گئے تھے اور یہ غلط ہے کہ وہ مدینے کے قریب غابہ (جنگل) میں تھے۔ اور محمد بن موسیٰ خوارزمی کہتے ہیں: غزوہ غابہ ہی غزوہ ذی قرد ہے جو 6ھ میں پیش آیا۔ (معجم البلدان۔ جلد 4)

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ: سلمہ بن عمرو بن اکوع رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو قعدہ کی ایک شاخ بنو اسلم سے تھا۔ یہ قبیلہ مر الظہر ان اور اس کے قرب وجوار میں آباد تھا۔ وہ 6ھ سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے۔ خدیجہ کی پہلی شب نبی ﷺ کے زیر ہدایت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے قافلے کی نگرانی کی۔ وہ بیعت رضوان میں اپنے قبیلے سمیت شریک تھے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے۔ انہوں نے غزوہ خیبر، حنین و طائف اور دیگر غزوات میں دادِ شجاعت دی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو شہادت عثمانی رضی اللہ عنہ کا اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ مدینہ منورہ میں سکونت ترک کر کے ربذہ میں جا بسے۔ وہ 74ھ میں مدینہ منورہ واپس آئے اور چند دن بعد وفات پائی۔

(خیر البشر ﷺ کے 40 جاں نثار۔ طالب ہاشمی)





سریہ عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ غمر کی طرف (ربیع الاول 6 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو چالیس آدمی دے کر بنو اسد کے کنوئیں غمر مرزوق کی طرف بھیجا جو مدینہ منورہ سے دودن کے فاصلے پر تھا لیکن وہاں لڑائی نہ ہوئی اور صحابہ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

ربیع الاول سن 6 ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو الغمر جو غمر مرزوق کے نام سے معروف ہے کی طرف چالیس سواروں کا دستہ دے کر روانہ کیا۔ غمر بنو اسد کا کثیر پانی کا چشمہ تھا۔ غمر کے معنی بھی کثیر پانی کے ہیں۔ یہ کنواں مدینہ سے دودن کی مسافت پر (شمال مشرق میں) واقع تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے غمر پہنچے۔ دشمن ڈر کر بھاگ گیا اور انہوں نے علیا میں جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ مسلمانوں نے ان کے گھروں کو خالی پایا۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے شجاع بن وہب کو دشمن کے کھوج میں بھیجا تو انہوں نے اونٹوں کے نشان قدم دیکھ لیے۔ مسلمانوں نے ان کے براول کو پایا۔ اسے امن دے کر ان کے اونٹوں کے متعلق پوچھا تو اس نے بتا دیا چنانچہ مسلمانوں نے ان کے اونٹ پکڑے اور ہانک کر مدینہ منورہ لے آئے۔ یہ دوسواونٹ تھے جو انہوں نے لڑائی لڑے بغیر حاصل کیے۔

(طبقات ابن سعد: 2/85,84)


عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ: ان کا پورا نام عکاشہ بن محسن بن خرقان بن قیس بن مخزہ بن کثیر اسدی رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو محسن ان کی کنیت ہے۔ یہ بنو عبد شمس کے حلیف تھے۔ صحابہ میں ان کا بلند مقام تھا۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ ﷺ نے کھجور کی ٹہنی دے دی وہ عکاشہ کے ہاتھ میں لوہے کی چمکتی ہوئی تلوار بن گئی جس کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو فتح سے ہم کنار کیا۔ یہ تلوار ان کے پاس رہی۔ اسی کے ساتھ وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے کی تمام جنگوں میں شریک ہوئے حتیٰ کہ ارتداد کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں طلحہ اسدی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس تلوار کا نام ”عون“ یعنی ”مدد“ تھا۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے بغیر حساب جنت میں داخلے کی خوش خبری سنائی تھی۔

(اسد الغابہ: 4/65,64)

غمر: مکہ میں اس نام کا ایک قدیم کنواں ہے۔ غمر ارا کہ غمر بنی جذیمہ (نواح شام میں) غمر طے اور غمر ذی کندہ مشہور ہیں۔ روۃ کی حدیث میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ الغمر پہنچے جو بنی اسد کا ایک چشمہ ہے جبکہ بنو طے اسلام پر راسخ ہو گئے اور

زکوٰۃ ادا کر دی۔ اور ابن فقہ کہتے ہیں: غمرہ مدینہ کے اطراف میں نجد کے راستے پر واقع ہے۔ نبی ﷺ نے عکاشہ بن محسن کو اس طرف لڑائی کے لیے بھیجا۔ اور غمرہ ایک پہاڑ ہے۔
(معجم البلدان۔ جلد 4)





سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ذوقصہ کی طرف (ربیع الآخر 6 ہجری)

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ دس ساتھیوں کے ساتھ بنو ثعلبہ کی طرف گئے۔ اعرابیوں نے نیزوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو گئے۔ اتفاقاً ایک مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ انہیں اٹھا کر مدینہ منورہ لے آیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات


نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ربیع الآخر چھ ہجری میں بنو ثعلبہ اور بنو عوال کی طرف بھیجا جو کہ ”ذوقصہ“ میں تھے۔ ربذہ کے راستے میں واقع ذی القصہ اور مدینہ کے درمیان چودہ میل کا فاصلہ ہے۔ یہ سریہ دس افراد پر مشتمل تھا۔ یہ مجاہدین رات کے وقت ان کے پاس پہنچے۔ سو آدمیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ خاصی دیر تک یہ مزاحمت کرتے رہے بالآخر بدوی ان پر غالب آ گئے اور وہ سارے شہید ہو گئے۔ صرف حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں پڑے تھے۔ بدویوں نے ان کے ٹخنے پر ضرب لگائی لیکن انہوں نے حرکت نہ کی۔ ان لوگوں نے ان کے کپڑے بھی اتار لیے۔ بعد میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک مسلمان آدمی گزرا۔ وہ انہیں اٹھا کر مدینہ لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو چالیس آدمی دے کر میدان جنگ کی طرف بھیجا لیکن وہاں کوئی نہ ملا۔ وہ بکریاں اور اونٹ لے کر مدینہ واپس آ گئے۔

(طبقات ابن سعد: 2/85)

ذی القصہ: یہ دُبالہ اور شقوق کے درمیان ایک مقام ہے۔ اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لڑائی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذی القصہ سُفَی میں طے کے دو پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جو سقف اور غُصُور کے پاس ہیں۔ اور نصر نے کہا: ”ذوقصہ“ ربذہ کے راستے میں مدینے سے 24 میل پر ایک جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ثعلبہ بن سعد کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ ”اور کتاب سیف میں لکھا ہے: ”حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ذی القصہ کی طرف گئے اور وہ نجد کی جانب مدینے سے ایک ڈاک چوکی کے فاصلے پر ہے۔“

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ (قل کعب بن اشرف)





سریۃ ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ذوقصہ کی طرف (ربیع الاخر 6 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو قتل کرنے والے بنو ثعلبہ اور بنو محارب کو سزا دینے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو چالیس مجاہدین کے ساتھ بھیجا۔ وہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تتر بتر کر دیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو ربیع الآخر چھ ہجری میں چالیس صحابہ کے ساتھ بنو ثعلبہ اور انمار کے علاقوں کی طرف بھیجا۔ بنو ثعلبہ اور انمار کے علاقے قحط زدہ تھے جبکہ مرض نامی جگہ پر بارشیں ہو رہی تھیں۔ مرض مدینہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر ہے۔ محارب بنو ثعلبہ اور انمار مرض چلے گئے تھے۔ انہوں نے مدینہ کے موشیوں کو لوٹنے کا پروگرام بنایا جو بیفانامی جگہ پر چرتے تھے جو کہ مدینہ سے سات میل کے فاصلے پر ہے۔ اسلامی لشکر مغرب کی نماز پڑھ کر روانہ ہوا حتیٰ کہ صبح کے قریب ذوقصہ پہنچ گیا۔ وہ سارے لوگ فرار ہو کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ صرف ایک آدمی گرفتار ہوا جس نے اسلام قبول کر لیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے ان کے موشی اور دیگر مال و اسباب سمیٹا اور مدینہ واپس آ گئے۔

(طبقات ابن سعد: 2/86)

مرض: ادسی کے بقول یہ شعر الشماخ میں ایک وادی ہے جبکہ کسی اور نے کہا ہے: مرض حجاز کے راستے پر کوفے کے نواح میں واقع ہے۔ بہر حال مرض اطراف مدینہ میں تھا۔

ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ: یہ سابقون اولون، اصحاب بدر، عشرہ مبشرہ اور اصحاب الشجرہ (بیعت رضوان) میں سے ہیں۔ اصل نام عامر تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عامر بن عبد اللہ بن جراح بن ہلال بن ابیہ بن ضبہ بن حارث بن فہر۔ ان کی والدہ امیر بنت غنم فہر یہ رضی اللہ عنہا کو بھی شرف صحابیت حاصل ہوا۔ انہوں نے ہجرت کے دوسرے قافلے میں شمولیت کی۔ مدینہ منورہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی مواخات قائم ہوئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو صدقات کی وصولی کے لیے نجران بھیجا گیا اور انہوں نے دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب پایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انہوں نے فتوحات شام میں اسلامی لشکروں کی قیادت کی۔ انہوں نے 18ھ میں طاعون عمواس میں وفات پائی۔

(رحمت دارین رضی اللہ عنہ کے سوشیدائی۔ طالب ہاشمی)

سریۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

بنو انمار: دیکھیے ”غزوۃ ذات الرقاع“

ذوالقصدہ: زبّہ کے راستے پر مدینہ اور ذوالقصدہ کے درمیان 24 میل کا فاصلہ ہے۔



سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ (بنو سلیم کی طرف)

ربیع الآخر 6 ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے وادی نخل میں نجوم کے مقام پر بنو سلیم کے خلاف لشکر کشی کی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

نبی ﷺ نے ربیع الآخر چھ ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنو سلیم کی طرف بھیجا جو کہ بطن نخل کی بائیں جانب نجوم نامی جگہ پر آباد تھے۔ بطن نخل مدینہ سے چار برید کے فاصلے پر ہے۔ انہیں وہاں مزینہ قبیلے کی ایک عورت حلیمہ بنی جس نے ان کی بنو سلیم کے ٹھکانوں کی طرف راہنمائی کی جہاں انہیں بہت ساری بکریاں، اونٹ اور قیدی ملے جن میں حلیمہ مزینہ کا خاوند بھی تھا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مال غنیمت کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو نبی ﷺ نے حلیمہ مزینہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی۔ انہوں نے اس سے شادی کر لی۔
(طبقات ابن سعد: 2/86)

بنو سلیم: دیکھیے ”غزوہ بنی سلیم“

بطن نخل: یہ مدینہ کے قریب بصرہ کے راستے پر ایک بستی ہے۔ بطن نخل اور مدینہ کے درمیان الطرف واقع ہے اور مدینہ سے مکہ جانے والا ابرق العزاف کے بعد بطن نخل پہنچتا ہے۔
(معجم البلدان جلد اول)

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”غزوہ موتہ“



سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما عمیس کی طرف (جمادی الاولیٰ 6 ہجری)

ان کے ساتھ 170 آدمی تھے۔ ان کا مقصد قریش کے ایک تجارتی قافلے کو شام سے واپسی پر راستے میں روکنا تھا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ کو جمادی الاولیٰ چھ ہجری میں پتا چلا کہ قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف سے آرہا ہے۔ نبی ﷺ نے اسے روکنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو ایک سو ستر افراد کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے قافلے کے افراد کو گرفتار کر لیا اور ان سے مال چھین لیا جس میں صفوان بن امیہ کی بہت سی چاندی بھی تھی۔ اس قافلے میں نبی ﷺ کے داماد ابوالعاص بن ربیع بھی تھے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے پناہ طلب کی، انہوں نے انہیں پناہ دے دی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جسے تم نے پناہ دی، ہم نے بھی اسے پناہ دی۔“ ابوالعاص سے جو کچھ چھینا گیا تھا وہ انہیں واپس کر دیا گیا۔

(طبقات ابن سعد: 2/87)

عمیس: یہ یروشلم کے علاقے میں ایک جگہ ہے جہاں چشمہ ہے جسے ”ذنبان العیس“ کہتے ہیں۔ اس کا ابوبصیر والی حدیث میں بھی ذکر آتا ہے۔ وہ ذی مروت کی جانب ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے جہاں سے قریش شام جاتے ہیں۔

(معجم البلدان: 4/173)

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما: دیکھیے ”غزوہ مؤتہ“

زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا: دیکھیے ”آل مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز“

ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ: ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اکثر کی رائے کے مطابق ان کا نام لقیط ہے۔ یہ نبی ﷺ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ ابوالعاص کفار مکہ کی معیت میں جنگ بدر میں شریک ہوئے اور گرفتار ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کے فدیے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دیا گیا بار بھیجا تو نبی ﷺ نے صحابہ کے مشورے سے انہیں بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا۔

ابوالعاص فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے اور واپسی پر پھر گرفتار ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اعلان کیا کہ میں ابوالعاص کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی ﷺ اور صحابہ نے ان کی پناہ مانگتے ہوئے ابوالعاص کو رہا کر دیا اور ان

کا مال بھی واپس کر دیا۔

ابوالعاص نے مکہ جا کر لوگوں کے مال واپس کیے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ
12ھ میں فوت ہوئے۔ (اسد الغابہ: 6/182، 183)



سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ (طرف)

جمادی الآخرہ 6 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بنو نعلبہ کی طرف لشکر کشی کی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے جمادی الآخرہ 6ھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پندرہ افراد کے ساتھ بنو نعلبہ پر حملہ کرنے کے لیے ”طرف“ نامی جگہ کی طرف بھیجا۔ یہ مراض کے قریب ایک چشمے کا نام ہے اس کے اور مدینہ کے درمیان چھتیس میل کا فاصلہ ہے۔ جب زید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی وہاں پہنچے تو بنو نعلبہ فرار ہو گئے اور یہ بیس اونٹ اور بکریاں لے کر مدینہ واپس آ گئے۔

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ زید بن حارثہ (قرہ)
بنو نعلبہ: دیکھیے سریہ ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ (ذوالقصد)



سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جسمنی کی طرف (جمادی الآخرہ 6 ہجری)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ 500 مجاہدین کے ساتھ قبیلہ جذام کے علاقہ جسمنی کی طرف گئے کیونکہ انہوں نے حضرت وحید بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو لوٹ لیا تھا اور ان سے ہر چیز چھین لی تھی جو ان کے پاس تھی۔ صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا جس کی کوئی قیمت نہ تھی۔


اضافی توضیحات و تشریحات

حضرت وحید بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ قیصر روم کے پاس سے آرہے تھے۔ اس نے انہیں بہت سے تحائف دے کر روانہ کیا۔ راستے میں ہنید بن عارض اور اس کے بیٹے عارض بن ہنید نے بنو جذام کے لوگوں کے ساتھ مل کر ”خسمنی“ نامی جگہ پر ان سے سب کچھ چھین لیا۔ حضرت وحید رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کو آ کر بتایا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پانچ سو افراد کے ساتھ بھیجا اور حضرت وحید رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ دن کے وقت چھپ جاتے اور رات کے وقت سفر کرتے۔ ان کے ساتھ بنی عذزہ کا ایک گائیڈ بھی تھا۔ انہوں نے اچانک حملہ کر کے ہنید اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور ان کے مویشی، اونٹ اور عورتیں پکڑ لیں۔ مال غنیمت میں ایک ہزار اونٹ، پانچ ہزار کمریاں اور قیدیوں میں ایک سو عورتیں اور بچے تھے۔ نبی ﷺ نے زید بن رفاعہ جذامی کے کہنے پر ان کے قیدی رہا کر دیے اور ان کے اموال واپس کر دیے۔ (طبقات ابن سعد: 2/88)

”خسمنی“ یہ شام کے جنگلات میں سے ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کے اور وادی القرئی کے درمیان دورات کا فاصلہ ہے اور اہل تبوک اپنے مغرب میں خسمنی کے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ (معجم البلدان: 2/258)

نوٹ: دراصل خسمنی سعودی عرب کے صوبہ تبوک میں واقع ہے۔ عہد نبوی اور قرون وسطیٰ میں فلسطین، اردن، لبنان اور سعودی عرب کے شمالی علاقے ”شام“ میں شامل سمجھے جاتے تھے۔
زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دیکھیے ”غزوہ موتہ“





سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وادی القرئی کی طرف (رجب 6 ہجری)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وادی القرئی کے علاقے میں ام قرقہ کی طرف گئے۔ ان کا مقصد قبیلہ فزارہ کی شاخ بنو بدر کے کچھ لوگوں کو مرادینا تھا جنہوں نے مسلمانوں کا ایک تجارتی قافلہ لوٹ لیا تھا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت رمضان 6ھ میں روانہ کیا گیا۔ بنو فزارہ کی ایک شاخ بنو بدر کی ایک شیطان صفت عورت ام قرقہ تھی۔ وہ نبی ﷺ کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے تیس شہسوار بھی تیار کیے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی لشکر کشی سے اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے تیسوں سوار مارے گئے۔


حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ زید بن حارثہ (القرودہ، نجد)

بنو بدر: یہ قبیسی قبیلہ بدر بن عدی بن فزارہ بن ذبیان بن ریش بن غطفان سے منسوب تھا۔ جاہلیت میں بنو فزارہ کی قیادت بنو بدر ہی کے پاس تھی اور وہ پورے غطفان کی بھی نمائندگی کرتے تھے۔

وادی القرئی اور العلا: مدینہ سے شام جاتے ہوئے یہ وادی راستے میں پڑتی ہے۔ اس میں کئی بستیاں ہیں۔ نبی ﷺ نے جمادی الآخرہ 7ھ میں فتح خیبر کے بعد اسے فتح کیا اور وہاں کے یہودیوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ نبی ﷺ نے یہودیوں کے کھجوروں کے باغات اور زمینیں انھی کے پاس رہنے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں وادی القرئی سے جلا وطن کر دیا۔ محدث یحییٰ بن ابی عبیدہ الوادی (متوفی 240ھ) اور عمر بن داود بن اذان مولیٰ عثمان بن عفان معروف بہ عمر الوادی خلیفہ ولید بن یزید اموی کے عہد میں مہندس (جیومیٹری کے ماہر) تھے۔ (معجم البلدان جلد 5)

غالباً العلا ہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر حدیث و تاریخ کی کتابوں میں وادی القرئی کے نام سے ملتا ہے۔ مدائن صالح (قوم ثمود کے آثار کی ہستی) وہاں سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ (سفرنامہ ارض القرآن ص: 206)

وادی القرئی میں سب سے اہم مقام العلا ہے۔ کسی زمانے میں فُرح وادی القرئی کا سب سے مشہور تجارتی مرکز تھا۔ قدیم شہر دیدان جو اب الحریہ کے نام سے معروف ہے اس کے کھنڈر العلا کے باغات کے شمال مشرق میں ہیں۔ 2ھ میں جب بنو قینقاع کو مدینہ سے نکالا گیا اور وہ شام کو جاتے ہوئے وادی القرئی سے گزرے تو یہاں کے یہودیوں نے انہیں ایک ماہ تک اپنے ہاں پناہ دی اور سفر کے لیے زاد راہ اور گھوڑے اکٹھے کر کے دیے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 22)



سریہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دومۃ الجندل کی طرف (شعبان 6 ہجری)

یہ دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کی طرف گئے تو اصغ بن عمرو کلبی مسلمان ہو گیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اصغ کی بیٹی ثنار سے شادی کر لی جن سے ابوسلمہ پیدا ہوئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

نبی ﷺ نے شعبان چھ ہجری میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دومۃ الجندل میں بنو کلب کی جانب بھیجا۔ نبی ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا اور فرمایا: ”اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑو۔ نہ خیانت کرنا نہ غداری کرنا اور نہ کسی نو جوان کو قتل کرنا۔“ آپ نے مزید فرمایا: ”اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا۔“

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دومۃ الجندل پہنچ کر تین دن تک انہیں دعوت اسلام دیتے رہے۔ آخر کار ان کا سردار الاصغ بن عمرو کلبی مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم کے بہت سے افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ثنار بنت الاصغ سے شادی کر لی اور اسے مدینہ لے آئے۔ یہی ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔

(طبقات ابن سعد: 2/89)

دومۃ الجندل: وادی سرخان کے جنوبی سرے پر ایک نخلستان ہے۔ مدینہ اور دمشق کے درمیان سیدھے راستے پر واقع ہے۔ یہ نخلستان یا وسیع نشیبی زمین میں ہے جس کا طول تین میل اور عرض آدھ میل اور گہرائی ارد گرد کے صحرا کی بلند سطح سے پانچ سو فٹ نیچی ہے۔

دومہ غالباً ایک آرامی لفظ ہے قدیم فضلاء عرب مثلاً ابن کلبی اور الزجاجی کے کہنے کے مطابق یہ نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لڑکوں میں سے ایک کے نام سے ماخوذ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ”دوما“ نام بائبل میں بھی آیا ہے (پیدائش 14:25، احبار 1:30) اور وہاں اسے ایک اسمعیلی قبیلے کا نام بتایا گیا ہے۔ سب مصنفین نے کہا ہے کہ جب تہامہ اسمعیل علیہ السلام کے کثیر التعداد گھرانوں کے لیے کافی چراگاہیں مہیا نہ کر سکا تو ان کا مذکورہ فرزند اس علاقے میں ہجرت کر کے چلا آیا اور اسی کے نام پر اس علاقے کا نام دومہ پڑ گیا اور اس نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا۔


ایک قدیم قلعے کے کچھ بچے کچھے نشانات انیسویں صدی تک باقی تھے اور Euting نے 1883ء میں ان کا ایک

خاکہ بھی بنایا تھا۔ یہ قلعہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے گرد ایک دیوار بھی پتھر ہی کی تھی۔ ان تعمیرات ہی کی بنا پر اس کے نام کے ساتھ الجندل کا لفظ بڑھایا گیا تھا جس کے معنی پتھر کے ہیں۔ قبل اسلام یہاں وہبت کی پرستش ہوتی تھی۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 9/473)

دومۃ الجندل شمالی سعودی عرب کے صوبہ الجوف میں واقع ہے۔ تبوک سے القلیبہ کے راستے اس کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ صحرائے نفود الکبریٰ دومۃ الجندل کے جنوب میں ہے۔ دومۃ الجندل سے الجوف کا صوبائی دارالحکومت سکا کا تقریباً 40 کلومیٹر شمال مشرق میں ہے۔ سکا کا سے مرکز سعودی عرب کی سرحد عراق پر واقع شہر جدیدہ عرعر کو جاتی ہے۔
(اطلس المملكة العربية السعودية والعالم)





جوزف شہر اور اس کا قلعہ (شمالی سعودی عرب)



حائل شہر اور اس کا قلعہ (صوبہ حائل)

سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فدک کی طرف (شعبان 6 ہجری)

بنو سعد بن بکر کی بہت بڑی تعداد فدک میں جمع ہو گئی جن کا مقصد خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 100 آدمی لے کر ان کی طرف چلے۔ بنو سعد بھاگ گئے لہذا لڑائی نہ ہو سکی اور آپ مدینہ واپس آ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات


نبی ﷺ نے شعبان 6ھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فدک میں بنو سعد بن بکر کی طرف بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی ﷺ کو پتا چلا کہ یہ یہود خیبر کی مدد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو آدمی لے کر نکلے یہاں تک کہ کچھ پہنچ گئے جو کہ خیبر اور فدک کے درمیان ایک چشمے کا نام ہے۔ فدک اور مدینہ کے درمیان چھ میل کا فاصلہ ہے۔ وہاں انہیں ایک آدمی ملا انہوں نے اس سے قوم کے متعلق پوچھا۔ وہ کہنے لگا اگر تم مجھے امان دے دو تو میں ان کے متعلق بتاتا ہوں۔ انہوں نے امان دے دی تو اس نے راہنمائی کر دی۔ لشکر نے حملہ کیا تو بنو سعد فرار ہو گئے۔ انہوں نے پانچ سوانٹ اور دو ہزار بکریاں بطور مال غنیمت حاصل کیں اور مدینہ واپس آ گئے۔ (طبقات ابن سعد: 2/89، 90)

بنو سعد بن بکر: یہ ہوازن کی ایک شاخ ہے۔ یہی قبیلہ ہے جس میں نبی ﷺ کی رضاعت ہوئی۔ بنو سعد نے 9ھ میں خمام بن ثعلبہ کو نمائندہ بنا کر نبی ﷺ سے گفتگو کے لیے بھیجا۔

(معجم قبائل العرب: 2/513)

حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیے ”آل مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز“





سریہ عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف (رمضان 6 ہجری)

حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ چار آدمیوں کے ساتھ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق ثعنی کو قتل کرنے کی غرض سے گئے اور خیبر میں جا کر اسے قتل کر دیا۔ یہی وہ شخص تھا جو بنو غطفان اور دوسرے مشرکین عرب کو اکٹھے کر کے مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں لے آیا تھا اور ان کو مسلمانوں سے لڑنے پر اکساتا رہا تھا۔

سلام بن ابی الحقیق کے قتل کی تفصیل: یہودیوں کے بہت سے سردار جن میں ابو رافع سلام بن ابی الحقیق بھی شامل تھا، خیبر سے مکہ پہنچے تھے اور قریش کو رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا اور کہا: ”محمد (ﷺ) کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے لیے ہم ہر طریقہ سے تمہارے ساتھ ہیں۔“ قریش کہنے لگے: ”بڑی اچھی بات ہے۔ جو بھی محمد (ﷺ) کے خلاف ہماری مدد کرے ہمیں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز ہے مگر ہمیں تم پر یقین نہیں۔ ہاں! تم ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔“ یہودیوں نے بلا تامل سجدہ کر ڈالا۔“ قریش کہنے لگے: ”اے یہودیو! تم پرانے اہل کتاب ہو اور خوب علم رکھتے ہو۔ ہمیں بتاؤ کہ جس چیز کے بارے میں ہمارے اور محمد (ﷺ) کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس میں ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا؟ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا محمد؟“ یہودی کہنے لگے: ”تمہارا دین محمد (ﷺ) کے دین سے بہتر ہے تم حق کے زیادہ قریب ہو اور تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو کیونکہ تم بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہو، حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہو اللہ کے نام پر قربانیاں ذبح کرتے ہو نیز تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو لہذا تم اس سے زیادہ حق پر ہو۔“^① تب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نُصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ۝﴾

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا مگر وہ بتوں اور شیطانوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور وہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں: یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو چکی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت ڈال دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔“ (النساء: 51/52)

یہودیوں کی ان باتوں سے قریش بڑے خوش ہوئے اور ان کے مختلف قبائل سے 50 آدمی نکلے۔ انہوں نے اپنے

سینے کعبہ سے لگا کر حلف اٹھایا: ”جب تک ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی زندہ ہے ہم محمد (ﷺ) کے خلاف یکجان رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔“ یہ حلف اٹھاتے وقت انہوں نے کعبہ کے پردے بھی پکڑ رکھے تھے۔ پھر ابن ابی الحقیق اور اس کے ساتھی غطفان قبیلے کے پاس گئے اور ان کو رسول اللہ ﷺ کے خلاف خوب بھڑکایا اور جنگ پر ابھارا۔ کہنے لگے: ”اس مسئلہ میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور قریش پہلے ہی ہم سے معاہدہ کر چکے ہیں۔“ نیز انہیں لالچ دینے کے لیے یہودیوں نے ہر سال خیبر کا نصف پھل دینے کا عہد کیا۔

جب غزوہ خندق اپنے انجام کو پہنچ گیا جس کا سبب یہودیوں کا قریش کو ابھارنا تھا اور اس نازک موقع پر بد عہدی کرنے والے بنو قریظہ کا کام بھی تمام ہو گیا تو بنو خزرج نے سلام بن ابی الحقیق کے قتل کی اجازت طلب کی کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ وہ اس وقت خیبر میں رہتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی تو خزرج کے ایک قبیلے بنو سلمہ میں سے پانچ آدمی اس مقصد کے لیے نکلے اور وہ عبد اللہ بن عتیک، مسعود بن سنان، عبد اللہ بن انیس، ابو قتادہ (حارث بن ربیع النضاری) اور خزاعی بن اسود جہنمی تھے۔ مؤخر الذکر شخص بنو اسلم سے تھا اور بنو سلمہ کا حلیف تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عتیک ؓ کو ان کا امیر مقرر فرمایا اور نصیحت فرمائی: ”کسی بچے یا عورت کو قتل نہ کرنا۔“ یہ لوگ خیبر پہنچے اور رات کے وقت ابن ابی الحقیق کے گھر داخل ہو گئے اور اسے جہنم رسید کر دیا تاکہ وہ غزوہ احزاب کے لیے اپنی کوششوں کا وبال چکھ سکے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

ابورافع سلام بن ابی حقیق حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا اور ان بڑے مجرموں میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف کفار کی جماعتوں کو درغلانے کا کام کیا تھا چنانچہ جب مسلمان غزوہ احزاب اور بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے پانچ آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کے قائد عبد اللہ بن عتیک ؓ نے کہا:

”تم لوگ یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہریدار کے ساتھ کوئی لطیف حیلہ اختیار کرتا ہوں۔ ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔“

اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہریدار نے زور سے پکار کر کہا:

”اواللہ کے بندے! اگر اندر آتا ہے تو آ جا ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔“

عبد اللہ بن عتیک ؓ اندر داخل ہو کر چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابورافع کے حجرے کا رخ کیا۔ اوھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتا لگ بھی جائے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ ابورافع کو قتل کر لیں۔ جب

وہ اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتا نہ کر بل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے لہذا انہوں نے آواز دی: ”ابورافع!“ اس نے کہا: ”کون ہے؟“ انہوں نے آواز کا رخ کیا اور تھار کی ایک ضرب لگائی، لیکن ضرب کاری نہ لگ سکی اور اس نے زور سے چیخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدلا۔ رآئے گویا مدد کرنے آئے ہوں۔ کہا: ”ابورافع! یہ کیسی آواز تھی؟“ اس نے کہا: ”تیری ماں برباد ہو۔ ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار مار دی ہے۔“

اب انہوں نے دوبارہ اس کے پاس جا کر تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک جا نکلی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بڑھایا تو سیرھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے گھڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ رہے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ”میں اہل حجاز کے تاجر ابورافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔“


عبد اللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ وہ مر چکا ہے لہذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔

عبد اللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ: یہ خزرجی انصاری تھے۔ ان کا نسب عبد اللہ بن عتیک بن قیس بن اسود بن مُرَحی بن کعب بن غنم بن سلمہ بن خزرج ہے۔

عبد اللہ بن عتیک خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں یمامہ کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

(الاصابہ جلد 4۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی)





سریہ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیر میں اُسیر بن زارم یہودی کے خلاف (شوال 6 ہجری)

اُسیر بن زارم وہ شخص تھا جو رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگ پر اکسانے اور آمادہ کرنے کے لیے غطفان اور دوسرے قبائل کے پاس گیا تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ 30 ساتھی لے کر خیر گئے۔ اس نے امان مانگی جو اسے دے دی گئی مگر اس کے باوجود اس نے بد عہدی کی لہذا اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کے قتل کے بعد یہودیوں نے اُسیر بن زارم کو اپنا سردار بنالیا۔ اُسیر بن زارم نے عہدہ ملنے کے بعد غطفان وغیرہ کو رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے جمع کیا جس کی خبر رسول اللہ ﷺ تک پہنچ گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو رمضان میں تین آدمیوں کے ساتھ اُسیر کی خبر لانے کے لیے خفیہ طور پر روانہ کیا۔ جب عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو خبر دی تو آپ نے تیس جوان شوال 6 ہجری میں اُن کی سرکردگی میں روانہ فرمائے۔ اُسیر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا: ”ہم امن چاہتے ہیں حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تجھ پر پیش کر دیں۔“ اُسیر نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے بھی تمہاری طرف سے اس جیسی شرط ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ تو ہمارے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ تجھے خیر پر امیر مقرر کر دیں گے اور اچھا برتاؤ کریں گے۔ پس وہ طمع میں آ گیا اور مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے ساتھ تیس یہودی بھی لے لیے۔ ہر یہودی کے پیچھے ایک مسلمان سوار تھا۔ جب وہ ”قرقرہ شاد“ تک آ گئے تو اُسیر کو پشیمانی ہوئی۔ عبد اللہ بن انیس (رضی اللہ عنہ) جو اس سریہ میں شامل تھے کہتے ہیں: ”اُسیر یہودی نے اپنا ہاتھ میری تلوار کی طرف بڑھایا تو میں اس کی حرکت کو سمجھ گیا“ لہذا میں نے اپنے اونٹ کو دوڑایا اور کہا: اللہ کے دشمن! دھوکا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری مرتبہ اس نے پھر یہ حرکت کی۔ میں اپنے اونٹ سے اترا اور قوم (یہود) کے آگے آگے چلنے لگا حتیٰ کہ اُسیر کو علیحدہ لے گیا اور اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی ران اور پنڈلی کا اکثر حصہ کٹ کر گر گیا اور وہ خود بھی اونٹ سے گر پڑا۔ اس کے ہاتھ میں مڑے ہوئے سرے والی چھڑی تھی جو اس نے میرے سر میں ماری پھر ہم اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو بھی قتل کر دیا سوائے ایک آدمی کے جو بھاگ گیا تھا۔ اس سریہ میں مسلمانوں کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔ پھر ہم نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ نے تمہیں خاتم قوم سے نجات دے دی۔“


(طبقات ابن سعد: 2/92)

قُرْقَرُہ بِنَار: یہ خیر سے چھٹا۔ ایک جگہ کا نام ہے۔ (معجم البلدان: 2/72، معجم ما سقح: 3/1066)

عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ: عباد۔ رواحہ بن ثعلبہ بن امرؤ القیس النزاری خزرجی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے۔ وہ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے اور نقیب تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدر احد خندق حدیبیہ خیبر عمرہ القضاء اور دیگر غزوات میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ اس سے قبل شہید ہو چکے تھے۔ غزوہ موتہ کے امراء میں سے ایک امیر تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے موتہ کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور فرمایا: ”اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تمہارے امیر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو جائیں تو مسلمان جس کو پسند کریں اپنا امیر چن لیں۔“ مصعب بن شیبہ روایت کرتے ہیں: عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب لڑائی کے لیے میدان میں اترے تو انہیں نیزہ لگا۔ انہوں نے زخم کا خون اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اپنے چہرے پر مل لیا پھر دو مضمون کے درمیان گر پڑے اور شہید ہو گئے۔

(اسد الغابہ: 3/235-238)





سرینہ کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ

عربینہ کی طرف (شوال 6 ہجری)

عربینہ قبیلہ کے آٹھ آدمیوں نے غدر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) یسار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ میں آدمی لے کر ان کے پیچھے دوڑے۔ آخر ان کو جالیا اور پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے۔ یہاں انہیں ان کے غدر کی سزا میں جہنم رسید کیا گیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات


شوال سن 6 ہجری میں عربینہ کے لوگوں سے جنگ ہوئی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے غلام کو قتل کر دیا تھا اور اونٹ ہانک کر لے گئے تھے۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ یہ سرینہ واقعہ حدیبیہ کے بعد ذی قعدہ میں پیش آیا تھا۔ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عکھل اور عربینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے رسول اللہ! ہم لوگ جنگل میں جانور پالنے اور دودھ پینے کے عادی ہیں..... مدینے کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آئی اور ہم بیمار پڑ گئے ہیں۔ آپ نے انہیں اونٹوں میں جانے اور ان کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا۔ وہ وہاں گئے اور تندرست ہونے کے بعد مرتد ہو گئے آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ انہوں نے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلانیاں بھی پھیریں۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے تعاقب میں فوج بھیجی جن کا امیر کرز بن جابر رضی اللہ عنہ کو بنایا اور جب وہ انہیں پکڑ لائے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ان کی آنکھوں میں بھی گرم سلانیاں پھیریں اور ان کے ہاتھ کاٹ کر ان کو حرہ کی ایک طرف پھینک دیا جہاں انہوں نے تڑپ تڑپ کر جانیں دیں۔

(مختصر سیرت الرسول اردو ص: 470، 471۔ طبقات ابن سعد: 2/93)

کرز بن جابر الفہری رضی اللہ عنہ: حضرت کرز بن جابر بن حسیل بن احب..... بن فہر بن مالک قرشی فہری ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے: کرز بن جابر نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا تھا جس کے تعاقب میں رسول اللہ ﷺ نکلے تھے مگر وہ بچ کر نکل گیا اور وادی سخوان میں پہنچ گیا۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو کرز رضی اللہ عنہ بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ عربینہ قبیلہ کے تعاقب میں آپ نے انہیں کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل تھے۔ ان کا اور حُبیش کا مشرکین سے ٹکراؤ ہوا جس کے نتیجے میں حُبیش رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کو اپنے پاؤں کے درمیان رکھتے ہوئے کرز رضی اللہ عنہ نے دشمن کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔

(اسد الغاب: 4/443)



سریہ عمر و بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ کی طرف (6 ہجری)

ابوسفیان نے ایک آدمی مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ موقع پا کر رسول اللہ ﷺ کو قتل کر دے۔ پتہ چلنے پر حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ گئے تاکہ داؤ لگے تو ابوسفیان کو قتل کر دیں۔ معاویہ نے انہیں پہچان لیا۔ قریش کہنے لگے عمرو خیر کے ارادے سے نہیں آیا۔ اس لیے وہ اکٹھے ہونے لگے تاکہ ان کو پکڑ لیں چنانچہ یہ دونوں مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

ایک مرتبہ ابوسفیان نے قریش مکہ سے کہا: کوئی ہے جو محمد (ﷺ) کو بے خبری میں جالے کیونکہ وہ بازار وغیرہ بھی جاتے ہیں۔ ایک بدو آیا اور کہنے لگا: میں بہت مضبوط دل کا مالک ہوں میری گرفت بڑی سخت ہے اور بہت تیز دوڑ لیتا ہوں۔ اگر تو مجھے قوت دے تو میں جاتا ہوں۔ میرے پاس ایک خفیہ خنجر ہے جس کے ساتھ اس (محمد) پر حملہ کر کے اونٹ پر بیٹھ کر لوگوں سے بچتا ہوا نکل آؤں گا جبکہ راستے کا تو میں ماہر ہوں۔ ابوسفیان نے کہا تم ہی تو ہمارے کام کے آدمی ہو۔ ابوسفیان نے اسے اونٹ اور خرچہ دیا۔ وہ مکہ سے رات کو نکلا اور مسلسل سفر کرتا ہوا چھٹے دن صبح کے وقت حرہ کے علاقے میں پہنچ گیا۔ یہاں وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھتا رہا آخر کسی نے بتا دیا جبکہ رسول اللہ ﷺ اس وقت بنی عبدالاشہل کی مسجد میں تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا یہ دھوکا سے کوئی وار کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے آپ پر حملہ کرنا چاہا تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اسے اس کی چادر سمیت پکڑا اور خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن سے پکڑ کر اس کو دھکا دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بچ بول یہ کیا ماجرا ہے؟ اور تو کس نیت سے آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے امن ہے؟ تو آپ نے اسے امن دے دیا۔ اس نے سارا قصہ کہہ سنایا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن امیہ اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو ابوسفیان کی طرف بھیجا تاکہ وہ اسے دھوکے میں قتل کر دیں۔ مکہ پہنچ کر عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ رات کو بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور قریش کو خبر دے دی جس سے انہیں خطرہ محسوس ہوا اور ان (عمرو رضی اللہ عنہ) کی تلاش شروع کر دی۔ عمرو اور سلمہ رضی اللہ عنہ بھاگ گئے۔ عمرو کے راستے میں عبید اللہ بن مالک النجفی آیا تو اسے قتل کر دیا۔ بنو دیل کا ایک آدمی بھی ہتھے چڑھ گیا اسے بھی قتل کر دیا جو یہ شعر گارہا تھا: ”جب تک میں زندہ ہوں مسلمان نہیں ہوں گا اور مسلمانوں کا دین کبھی قبول نہیں کروں گا۔“

قریش نے دو آدمی ان کے پیچھے خبریں معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے جن میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ ﷺ کو خبر دی تو آپ مسکرا دیے۔

(طبقات ابن سعد: 2/93، 94)


عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ: عمرو بن امیہ بن خویلد بن عبد اللہ الکنانی الضمری کی کنیت ابو امیہ ہے۔ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے پھر مدینے کی طرف بھی ہجرت کی اور معرکہ بدر معونہ میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ اکثر ان کو مختلف کاموں کے لیے روانہ فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے قریش کی خبر لینے کے لیے ان کو بھیجا تو وہ حضرت ضعیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو ان کی سولی کی لکڑی سے اٹھا لائے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے عمرو رضی اللہ عنہ کو نجاشی کی طرف بھیجا اور ایک تحریر دی جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس تحریر میں یہ تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ ﷺ سے کر دیا جائے اور انہیں اور جتنے مسلمان حبشہ کے علاقے میں ہیں انہیں مدینہ بھیج دیا جائے۔ عمرو بن امیہ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی وکالت کی۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں سن 60 ہجری سے قبل فوت ہوئے۔

(اسد الغابہ: 4/181، 182)

سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ: سلمہ بن اسلم بن حریش بن عدی انصاری اوسی کی کنیت ابو سعد تھی۔ وہ بدر اور بعد کے تمام معرکوں میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے۔ فتوحات عراق کے دوران میں جسر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جنگ میں 83 سال کی عمر میں شہادت پائی۔

(اسد الغابہ: 2/516)





غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان (ذوالقعدہ 6 ہجری)

رسول اللہ ﷺ 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ تھے۔ سب نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا تا کہ کسی کو جنگ کا خدشہ نہ رہے اور قریش کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ صرف بیت اللہ کی زیارت اور تعظیم کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام حدیبیہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش نے قسمیں اٹھا لیں: ”ہمارے جیتے جی محمد (ﷺ) مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔“ لیکن پھر قریش نے مختلف لوگ آپ کی خدمت میں بطور وفد بھیجے مثلاً: بذیل بن ورقاء خزاعی، مکرز بن حفص، خلیس بن علقمہ اور عروہ بن مسعود ثقفی، مگر بات نہ بن سکی حتیٰ کہ صحابہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ”اگر لڑائی ہوئی تو مرجائیں گے، بھاگیں گے نہیں۔“ پھر قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح کی کارروائی کے لیے بھیجا جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ طے پائی کہ دس سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ گویا قریش نے اسلامی حکومت کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ بھی طے پایا کہ عمرہ آئندہ سال ہوگا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سن 6 ہجری میں مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سردوں کو منڈوایا اور قصر کرایا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ بروز پیر، یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو چودہ سو مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلامی لشکر مکہ کے پاس حدیبیہ آ کر مقیم ہوا۔

مشرکین مکہ کو جب اطلاع پہنچی تو وہ مزاحم ہوئے۔ نبی ﷺ نے اس مسئلے کا پر امن حل نکالنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ مکہ والوں نے ان کو روک لیا۔ اس پر انہوہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ نبی ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی جسے بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کچھ دنوں بعد واپس آ گئے۔ اہل مکہ کی جانب سے مختلف سفیر آتے رہے۔ آخر نبی ﷺ اور اہل مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں اور اس میں درج ذیل شرطیں طے ہوئیں:

- 1- رسول اللہ ﷺ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مکہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میاں کے اندر تلواریں ہوں گی۔
- 2- فریقین میں دس سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔
- 3- جو محمد (ﷺ) کے ”عہد“ میں داخل ہوتا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا

4- قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ (تلخیص حدیث بخاری 2732)

اس صلح کو قرآن مجید کی سورۃ فتح میں ”فتح مبین“ قرار دیا گیا کیونکہ اس کی بعض شرائط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ناپسندیدہ تھیں، ان میں خیر کے پہلو تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش کی جارحیت کا مستقل خاتمہ ہو گیا اور 8ھ میں فتح مکہ کے ساتھ ہی پورے عرب میں فروغ اسلام کی راہ ہموار ہو گئی۔

حدیبیہ: یہ حرم مکہ کی مغربی حد ہے۔ جب وادی کعبہ میں بیت اللہ (کعبہ) کی تعمیر ہوئی اور مکے کی آبادی حضری زندگی کی ایک مستقل بستی بنی تو اس تعمیر کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو ایک حرم (یا سیاسی اصطلاح میں ایک شہری مملکت) قرار دیتے ہوئے اس کی حدود مقرر کیں اور مختلف سمتوں میں حدود حرم پر منارے تعمیر کیے گئے۔ عہد نبوی میں یہ نہ صرف ایک قدیم چیز تھی بلکہ آپ نے ان کی مرمت بھی کرائی تھی۔ یہ اب تک چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حد حدیبیہ بھی ہے۔

حدیبیہ مکے سے کوئی دس میل اور جدے سے کوئی تیس میل پر واقع ہے۔ یہاں وہ پہاڑ جو مکے کو گھیرے ہوئے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور ساحلی میدان شروع ہوتا ہے۔ آغاز اسلام کے وقت یہاں ایک کنواں تو تھا جو مسافروں اور حاجیوں کے کام آتا ہوگا لیکن کسی آبادی کا ثبوت نہیں ملتا۔ غالباً زیر زمین پانی ٹٹھا اور کافی ہے اسی لیے بول وغیرہ کے جنگلی درخت یہاں غیر معمولی طور پر بلند نظر آتے ہیں۔ یہیں ایک درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام سے جان نثاری کا عہد لیا تھا۔ اس کے سائے میں مریضوں کی صحت وغیرہ کے غیر اسلامی معتقدات تو ہم کی شکل اختیار کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اکھڑا دیا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ ترکی دور میں اس پر کوئی کتبہ نہ تھا۔ اب ترمیم و تزئین کے بعد اس پر سلطان عبدالعزیز بن سعود کے نام کا کتبہ پایا جاتا ہے۔ یہ مسجد نئی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے ایک مدت بعد یہ مقام حجاج کی ضرورتوں کے تحت آباد ہونے لگا اور یہ گاؤں کم از کم آٹھویں صدی ہجری سے شہنشاہیہ کہلاتا ہے اور اب پولیس کی اہم چوکی ہے۔ (ان دنوں حدیبیہ شہنشاہیہ کہلاتا ہے۔)

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 7/958)



ثُمَّ لَقِيَ رَجُلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ إِذْ يُبَايِعُكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝


”اے محمدؐ! تیری قوموں سے اسٹی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے
آپ سے دعا کیے۔ یہ دعوت درخت تھے۔ اے محمدؐ! تیری قوموں کے
دووں میں یہ دعوت ہوئی کہ ان میں سے ایک پر ایمان لے لو اور دوسرے
اور ان کے ساتھ ہیں۔“ (الحج: 18/48)

حد پیر کا مقام


میتھامٹکس کی علامت

آقا زحر مکی علی مست


حزب کی کمیٹی



اہل شام، مصریوں اور ان سب کے لیے میقات جو خشکی یا سمندر کے راستے ادھر سے آئیں



حدیبیہ کے مقام پر قدیم و جدید مسجد الحدیبیہ (بیعت الرضوان)



غزوہ خیبر، فدک اور وادی القریٰ (محرم 7 ہجری)

یہ غزوات خیبر کے یہودیوں کی علانیہ طور پر روایتی دشمنی، بنو غطفان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے اور خیبر کی ریاست کے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے خاتمے پر حلف اٹھانے کی بنا پر ہوئے۔
رسول اللہ ﷺ نے ان کی سازشوں کا قلع قمع کرنے کے لیے ایک بھرپور وار کا فیصلہ فرمایا جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہودیوں کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ خیبر میں قلعوں کے تین سلسلے تھے: نطاۃ، شق، کتبہ۔
نطاۃ: تین قلعوں ناعم، صعب اور قلعہ پر مشتمل تھا۔ شق: دو قلعوں انبی اور نبوی پر مشتمل تھا۔
کتبہ: تین قلعوں قنوص، وطح اور سلام پر مشتمل تھا۔

آپ ﷺ نے یہودیوں کو خیبر سے نکالنے کی بجائے ان کو وہاں بطور مزارع ٹھہرنے کی اجازت دے دی کہ وہ خیبر کا نصف پھل مسلمانوں کو ادا کرتے رہیں گے البتہ یہ وضاحت فرمادی کہ جب ہماری مرضی ہوگی ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اسی طرح فدک کے یہودیوں نے بھی انہی شرائط پر آپ ﷺ سے مصالحت کر لی۔ پھر آپ نے وادی القریٰ کو بزور فتح فرمایا البتہ تیماء کو صلحا زیر دست کیا گیا۔

اس کے بعد والے واقعات کو ذہن نشین کرنے کے لیے نقشے دیے گئے ہیں تاکہ پوری وضاحت ہو جائے مثلاً:
بادشاہوں اور دیگر حکمرانوں کو بھیجے گئے خطوط کا نقشہ۔
باذان کے دو قاصدوں کے صنعاء سے مدینہ منورہ تک سفر کا نقشہ۔
حضرت مار یہ قبطیہ کے خطن سے مدینہ منورہ تک سفر کا نقشہ۔
رسول اللہ ﷺ کے قاصد کے ہر قل تک پہنچنے کا نقشہ۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ خیبر: تاریخ اسلام میں خیبر کی شہرت سن 7 ہجری موافق 628ء کے غزوہ نبوی کے باعث ہے۔ مدینہ سے نکلے ہوئے بنو نضیر خیبر میں آباد ہو چکے تھے اور انہی کی انگلیخت پر محاصرہ خندق پیش آیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی نئی مملکت کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئے تھے انہی سے نبینے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ میں قریش کی منہ مانگی شرطوں پر صلح کی تھی اور قریش سے صرف یہ خواہش کی تھی کہ وہ مسلمانوں کی جنگوں میں غیر جانب دار رہیں۔ صلح حدیبیہ کے ایک مہینے بعد پندرہ سو کی جمعیت لے کر آپ مدینہ سے خیبر روانہ ہوئے۔

خیبر اس زمانے کی عربی بستیوں کی طرح متعدد چھوٹے چھوٹے قبائلی محلوں پر مشتمل تھا، ہر محلے کا انتظام مستقل تھا۔ دفاعی لحاظ سے وہ سات بڑے اور متعدد چھوٹے قلعوں میں محفوظ تھے جن میں سے بعض میں متبحر قبیلے بھی نصب تھیں۔ سب سے پہلے ناعم کا قلعہ فتح ہوا، پھر اندرون شہر کا قلعہ قوص فتح ہوا جو خاندان ابوالحق (اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا) کا مسکن تھا۔ پھر حصن الشق، حصن النطاۃ اور حصن الکئیہ سر ہوئے۔ اس کے بعد حصن الوطیح اور حصن السلام کوئی دو ہفتوں کی کشتش کے بعد فتح ہوئے۔ فتح کے بعد نبی ﷺ نے ان کی جان بخشی کر دی، قبضے کے بعد یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے دیا اور اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ وہ غلے کا نصف مسلمانوں کو ادا کریں گے۔ اس جنگ میں یہودی سردار حنیسی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی جنگی قیدیوں میں آئی جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنے لیے پسند فرمایا۔

خیبر میں یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک برقرار رکھا گیا۔ اس کے بعد انہیں جلاوطن کر دیا گیا، کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا تھا: ”یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔“ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 9)

خیبر: خیبر ایک نخلستان ہے جو سطح سمندر سے 2800 فٹ بلند اور مدینہ منورہ سے 184 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ تقریباً ایک سو کلومیٹر تک خیبر کا راستہ تنگ اور چھ دار دروں میں سے گزرتا ہے۔ خیبر ایک حرہ (آتش فشاں چٹانوں کا سلسلہ) ہے مدینے سے آئیں تو شہر سے پندرہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پر سفید اور قابل کاشت لیکن افادہ زمینیں ملتی ہیں جو دس بارہ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بعد ازاں پھر حرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حرے میں شہر اہ کے دائیں جانب قدیم یہودی کھنڈریلوں تک پھیلے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ تالابوں کے منہدم شدہ بند نظر آتے ہیں۔ گرمی میں جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو ان کی تہہ میں جمی ہوئی مہین مٹی دور دور تک نظر آتی ہے۔ ان تالابوں میں ایک صہباء نامی تالاب ہے جہاں رسول اکرم ﷺ نے خیبر کو آتے جاتے قیام فرمایا تھا۔ اس کے آگے ایک پست اور وسیع وادی ہے جس میں شہر خیبر آباد ہے۔ یہ نخلستانوں سے اس قدر پنا ہوا ہے کہ کسی بلندی پر سے بھی شہر کے خدوخال نظر نہیں آتے۔ عہد نبوی میں الکئیہ میں کھجور کے چالیس ہزار بیڑ بیان کیے گئے ہیں۔ خیبر میں اب (1964ء میں) عنبرہ قبیلے کے عرب آباد ہیں۔ کہتے ہیں کہ فصل کٹنے کے زمانے میں ہنگامی آبادی پچیس تیس ہزار تک ہو جاتی ہے ورنہ مستقل آبادی پانچ ہزار کے لگ بھگ ہے۔

بعض مؤلفین کی رائے میں خیبر کے یہودیوں کی بولی میں ”خیبر“ قلعے کو کہتے ہیں۔ یا قوت نے ایک روایت بیان کی ہے کہ یہ اس کے بانی خیبر بن قانیہ بن مہلائکل کے نام سے منسوب ہے۔ خیبر کا سب سے بڑا قلعہ ”القوص“ تھا جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ یہاں ایک وادی کا نام ”نطاۃ“ ہے۔ اسی وادی میں مرحب کا قلعہ اور محل تھے۔ یہ محل فتح کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ الشق میں الحمرہ نامی ایک چشمہ ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے ”قسمۃ الملائکہ“ کا نام دیا تھا اس کا دو تہائی پانی ایک نالے میں جاتا ہے اور ایک تہائی دوسرے میں۔

یہودی شریک پندی: عہد نبوت میں خیبر یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ فلسطین سے جلاوطن ہو کر یہودی قبیلے خیبر اور یرشلم میں بھی آئے تھے۔

غزوہ احد کے بعد مدینہ سے کعب بن اشرف یہودی سترسوار لے کر مکہ آیا تاکہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کفار قریش سے معاہدہ کرے۔ کعب بن اشرف ابوسفیان کے پاس ٹھہرا اور باقی یہودی قریش کے مہمان بنے۔ وہاں انہوں نے عہد کیے اور قسمیں اٹھائیں کہ وہ محمد (ﷺ) کے خلاف لڑائی میں اکٹھے ہوں گے۔ ابوسفیان نے کعب بن اشرف سے کہا: ”تم اہل کتاب ہو اور کتاب پڑھتے ہو اور یہ (محمد ﷺ) بھی اہل کتاب ہے۔ بھلا بتاؤ کون ہم میں سے سیدھے راستے پر ہے ہم یا محمد (ﷺ)؟“ کعب بن اشرف نے کہا: تمہارا اور محمد کا کیا دین ہے؟ ابوسفیان نے کہا: ”ہم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ بڑی کو ہانوں والے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ دودھ اور پانی ملا کر پلاتے ہیں۔ قیدیوں کو چھڑاتے ہیں اور حجاج کو پانی (اور ستو) پلاتے ہیں جبکہ محمد (ﷺ) قطع رحمی کر کے الگ تھلگ ہے، حاجیوں کو لوٹنے والے بنو غفار اس کے پیروکار ہیں۔“ کعب اور اس کے ساتھیوں نے کہا: ”اللہ کی قسم! محمد (ﷺ) جس راستے پر ہیں تم اس کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكَائِهِمْ هُمْ سَوَاءٌ ۚ سَوَاءٌ مِّنْ صِرَاطٍ إِلَّاهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النساء: 51-52) انہی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر: 1/704 تفسیر القرطبی: 5/161)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق ابوسفیان نے کعب بن اشرف اور دوسرے یہودیوں سے گفتگو کے دوران کہا تھا: ”میں تم پر اعتبار نہیں۔ یہ تمہارا کمر بھی ہو سکتا ہے، لا یہ کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔“

یہودیوں کی انہی شرارتوں کے باعث بنو نضیر کو 4 ہجری میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔

اہل فدک کی سپردگی: فدک خیبر کے مشرق میں دو دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل ”حائل“ کے علاقے میں ”حائل“ کے نام سے معروف ہے۔ نبی ﷺ نے خیبر پہنچ کر مَخْبِصَہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ”یہود فدک“ کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، مگر انہوں نے تاخیر کی، لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ نبی ﷺ نے اسے منظور فرمایا، چنانچہ فدک کی زمین صرف نبی ﷺ کے لیے مخصوص تھی۔ اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے۔ بنو ہاشم کے بچوں کی عیال داری کرتے تھے اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے۔ (سیرت ابن ہشام: 2/337-353)

وادی القریٰ کی فتح: رسول اللہ ﷺ خیبر کے بعد ”وادی القریٰ“ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کیا نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کیا۔ پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے گیارہ آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی ایک آدمی مارا جاتا تو نبی ﷺ یہود کو اسلام کی دعوت دیتے اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود دھڑکتے کھائے اور مسلمانوں نے بہت سا


مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ اور ان کے لیے یہ بات تحریر کروادی۔


اہل یتیماء کی مصالحت: ”یتیماء“ کے یہود کو خیبر، فدک اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔

وادی القریٰ (الغلا): وادی القریٰ جو ان دنوں الغلا کہلاتا ہے صوبہ مدینہ منورہ میں صوبہ تبوک کے ساحلی شہر الوجہ سے تقریباً 150 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ الغلا سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال مشرق میں مدائن صالح واقع ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی عذاب یافتہ قوم کے حجری آثار ملتے ہیں۔ الغلا سے ایک سڑک البدائع اور قلعہ زمرد کے راستے خیبر کو جاتی ہے جو الغلا سے 190 کلومیٹر کے لگ بھگ دور ہے۔ الغلا سے مشرق میں حائل کو سڑک جاتی ہے۔ الغلا اور مدائن صالح کے وسط میں وادی حشیش نامی قصبہ ہے۔

یتیماء: یہ صوبہ تبوک کا مشہور شہر ہے جو خیبر کے شمال میں خفیزة العیدا کے راستے تقریباً 230 میل دور ہے۔ یتیماء سے کم و بیش 135 کلومیٹر شمال میں القلیبہ واقع ہے جہاں سے مغرب میں تبوک کو اور مشرق میں دومۃ الجندل کو سڑکیں نکلتی ہیں۔ المنجد فی الاعلام کے مطابق ”یتیماء شمالی سعودی عرب میں صحرائے نفود الکبریٰ کے جنوب میں ایک نخلستان ہے۔ اس کی آبادی 15 ہزار ہے۔“







رسول اکرم ﷺ کے خطوط (مکاتیب)
دقت کے بادشاہوں اور امراء کے نام

نبی کریم ﷺ کا مکتوب

منذر بن ساوی کے نام

نمبر شمار	حالیہ مکتوب	ملک و شہر	مکتوب الیہ
①	عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ	اکسوم (حبشہ)	نجاشی
●	علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ	بحرین	منذر بن ساوی
③	عبد اللہ بن حذافہ بن یشجب رضی اللہ عنہ	طیسون (مدائن)	کسراء فارس خسرو پرویز
④	ولید بن علی بن ابی ہاشم رضی اللہ عنہ	القدس (یروشلم)	قیصر روم ہرقل
⑤	حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ	اسکندریہ (مصر)	مقتویس
●	عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ	عثمان	جنرل و عہد پران چندی
●	سلیم بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ	یمامہ	ہوڑہ بن علی
●	شجاع بن وہب اسدی	خود (نواخ مشق)	حارث بن ابی شمر غسانی

انصافی توضیحات و تشریحات

رسول کریم ﷺ کے خطوط شاہان وقت کے نام

نمبر شمار	سفیر نبوت	شہر ملک	مکتوب الیہ حکمران
(1)	عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ	اکسوم (حبشہ)	نجاشی اصمہ بن ابجر
(2)	علاء بن حضری رضی اللہ عنہ	بحرین	منذر بن ساوی
(3)	عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ	طیسفون (مداائن)	کسریٰ (خسر پرویز)
(4)	وحید بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ	القدس (یروشلم)	قیصر روم ہرقل
(5)	حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ	اسکندریہ (مصر)	مقوقس (شاہ مصر)
(6)	عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ	عمان	جفر وعبید پسران جلدی
(7)	سلیط بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ	یمامہ	ہوذہ بن علی
(8)	شیعہ بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ	نحوطہ دمشق	حارث بن ابی شمر غسانی
(9)	حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ	مؤنبہ بقاء (اردن)	شرحیل بن عمرو غسانی

نجاشی حبشہ: نجاشی اصمہ نے عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے رسول کریم ﷺ کا خط مبارک لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھا پھر تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے نبی ﷺ کو اپنے اسلام لانے اور بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی ﷺ سے کر دیا انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کر دیا اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی ﷺ خیبر میں تھے۔

نجاشی اصمہ رضی اللہ عنہ نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی اور نبی ﷺ نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے جانشین کو بھی نبی ﷺ نے خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی مگر یہ معلوم نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ (تجلیات نبوت از مولانا صفی الرحمن مبارکپوری)

اکسوم: یہ ایتھوپیا (حبشہ) کا مقدس تاریخی شہر ہے۔ اس کی آبادی 20 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ یہ قدیم مملکت اکسوم کا دارالحکومت تھا جو ابتدائی سبکی صدیوں میں پروان چڑھی۔ یہیں نجاشی اصمہ کے پاس نبی کریم ﷺ کا خط پہنچا تھا۔ اس کے نوکیلے برج مشہور ہیں جن میں سے ایک اٹلی والوں نے استعماری دور میں روم میں لے جا کر نصب کیا۔ اکسوم شمالی ایتھوپیا میں اریتریا کے دارالحکومت اسمہ (اسمارا) سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب میں ہے جبکہ اریتریا کی بندرگاہ مصوع سے اکسوم

کا فاصلہ 210 کلومیٹر کے قریب ہے اور مدینہ منورہ کی قریبی بندرگاہ ینبع، مصوع سے تقریباً 1000 کلومیٹر شمال میں ہے۔
 قیصر روم ہِرَقْل: یہ یونانی النسل بادشاہ بازنطینی رومی سلطنت میں 610ء تا 641ء برسرِ اقتدار رہا۔ 611ء میں ایران کے ساتھ جنگ چھڑی تو ایرانیوں نے شام، فلسطین، ایشیائے کوچک کے خاصے علاقے اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ 614ء میں یروشلم کو بری طرح تباہ کیا اور عیسائیوں کی صلیب مقدس اٹھا کر مدائن لے آئے۔ اس پر قرآن مجید کی سورۃ روم کے آغاز میں فرمایا گیا: ”رومی نزدیک کی زمین (فلسطین) میں مغلوب ہو گئے اور وہ چند ہی سال میں غالب آ جائیں گے۔“ یہ پیشگوئی اس وقت پوری ہو گئی جب 622ء کے بعد ایرانیوں کی شکستوں کا دور شروع ہوا۔ جب 624ء میں رومیوں کو شام میں فتح حاصل ہوئی، اس وقت مسلمان بھی مدینہ منورہ میں غزوہ بدر میں فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ 29-628ء میں جب رسول کریم ﷺ نے ہرقل کو خط لکھا اس وقت بادشاہ یروشلم میں مقیم تھا۔ اس نے ابوسفیان سے جوان دنوں اتفاقاً ایک تجارتی قافلے کے ساتھ فلسطین میں تھے نبی ﷺ کے متعلق سوالات کیے۔

عمر و بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”سریہ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ“
 علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”نبی ﷺ کے امراء اور عثمان“

عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ: یہ قریش کی شاخ بنو سہم سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب کعب بن لؤی پر نبی ﷺ سے جا ملتا ہے۔ انہوں نے بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ ہجرت حبشہ اور غزوہ خدیبیہ (6ھ) میں شریک ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی ﷺ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو شاہ ایران کے نام خط دے کر بھیجا۔ عہد فاروقی میں شام کے ایک معرکے میں اسی اکاسی مجاہد بن رومیوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے۔ ان میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قیصر ہرقل نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نصرانی مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ بصورت دیگر تمہیں کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے گا اور پھر ان کے سامنے ایک اور اسیر مسلمان کو واقعی کھولتے تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا مگر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کمال استقامت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے رومی شہنشاہ کی پیشانی چومنے کی شرط اور مال و دولت اور حسین عورتوں کے لالچ کو بھی ٹھکرا دیا لیکن جب قیصر نے کہا کہ میری پیشانی چوم لو تو تمام مسلمان قیدی چھوڑ دیے جائیں گے تب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر شہنشاہ کی پیشانی چوم لی اور اس طرح اسی مسلمانوں کی جانیں بچ گئیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فتح مصر میں حصہ لیا۔ عین الشمس (ہیلیو پولس) نام کا شہر انہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ انہوں نے خلافت عثمانی میں مصر ہی میں وفات پائی۔

حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ: سیدنا وحیہ رضی اللہ عنہ کا تعلق حرب کے مشہور قبیلہ بنو کلب سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: وحیہ بن خلیفہ بن فروہ بن فضالہ کلبی۔ وہ قدیم الاسلام تھے البتہ بدر میں حاضر نہیں تھے۔ ہاں غزوات اُحد، احزاب اور خیبر وغیرہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔

6ھ میں نبی ﷺ نے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو ایک تبلیغی مکتوب دے کر قیصر روم کے پاس بھیجا۔ قیصر ہرقل ان دنوں

بیت المقدس (یروشلیم) آیا ہوا تھا۔ وہیں وحیدہ رضی اللہ عنہ نے مکتوب نبوی پیش کیا۔ اتفاق سے ابوسفیان بھی یہ سلسلہ تجارت وہاں گئے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ابوسفیان کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہرقل نے اپنے امراء و اساقفہ کے سامنے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی مگر ان کی شدید مخالفت کے باعث وہ قبول اسلام کے شرف سے محروم رہا۔ حضرت وحیدہ رضی اللہ عنہا انتہائی خوبصورت تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر ان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ وحیدہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں کتب سیر خاموش ہیں؛ البتہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت (41ھ تا 59ھ) میں ان کے بقید حیات ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ (طبقات ابن سعد، ابن اثیر، اسد الغابہ)

حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ: حضرت ابو عبد اللہ (یا ابو محمد) حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے اور بنو نضیم بن عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض اہل سیر نے انہیں قحطانی النسل قرار دیا ہے اور بعض نے ان کو بنو مذحج کا ایک رکن بتایا ہے۔ لیکن جمہور کی رائے میں وہ نجی یمنی ہیں۔ عہد جاہلیت میں گردش زمانہ انہیں مکہ لے آئی جہاں وہ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے حلیفانہ تعلقات قائم کر کے مستقل طور پر مقیم ہو گئے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سابقون الاولین میں سے ہیں۔ انہیں ہجرت کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف بھی ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقتول (شاہ مصر) کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے عہد خلافت حضرت عثمان ذوالنورین 30ھ میں وفات پائی اس وقت وہ عمر کی 65 منزلیں طے کر چکے تھے۔ خود امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی۔

(خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس جاں نثار۔ طالب ہاشمی)

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ: دیکھیے: ”سریۃ ذات السلاسل“


حارث بن عسیم رضی اللہ عنہ: حارث بن عسیم ازوی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر شام کی طرف بھیجا۔ موت (اردن) کے مقام پر انہوں نے مکتوب نبوی پیش کیا تو شریل بن عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر لیا اور باندھ کر شہید کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تین ہزار کا لشکر بھیجا جس کے نتیجے میں غزوہ موتہ پیش آیا۔ (اسد الغابہ: 1/628)

سلیط بن عمرو و عامری رضی اللہ عنہ: سلیط بن عمرو بن عبد شمس عامری رضی اللہ عنہ کو ابن اسحاق نے مہاجرین حبشہ میں شمار کیا ہے۔ وقادی اور ابو معشر نے انہیں اہل بدر میں لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمامہ کے حکمران ہوؤہ بن علی کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ وہ عہد صدیقی میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ (الاصابہ: 3/136)

شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”سریۃ شجاع بن وہب اسدی“



مہر نبوی (انگوٹھی)



وہ کمال جمال و عزت کا نشان ہے



بازان کے قاصدوں کی آمد

(صنعا سے مدینہ منورہ تک)

رسول اللہ ﷺ نے صلح حدیبیہ کے بعد دعوت اسلام کے قصد سے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے گزارش کی گئی: ”اے اللہ کے رسول! بادشاہ کوئی ایسا خط نہیں پڑھتے جس پر بھیجنے والے کی مہر نہ لگی ہو۔“ مہر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خط کے مضمون کی اہمیت واضح ہوتی ہے نیز یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان باتوں کو مرسل الیہ کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھے اور مہر سے جعل سازی اور تبدیلی کا خطرہ بھی نہیں رہتا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر نقش تین سطروں میں تھا سب سے خلی سطر میں لفظ ”محمد“ تھا درمیان میں لفظ ”رسول“ اور سب سے اوپر لفظ ”اللہ“ تھا۔ گویا نیچے سے اوپر کو پڑھا جاتا تھا اور مہر کی کتابت الٹ تھی تاکہ مہر لگنے کے بعد تحریر سیدھی پڑھی جاسکے۔

یہ انگوٹھی رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں رہی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی حتیٰ کہ ان سے بڑا ریس میں گر گئی۔ (بڑا ریس مسجد قباء کے قریب ایک کنواں ہے۔) وہ تین دن تک انگوٹھی تلاش کرتے رہے حتیٰ کہ کنویں کا سارا پانی نکالا گیا مگر اسے نہ ملتا تھا نہ ملی۔ اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔

رسول اللہ ﷺ انگوٹھی داہنے ہاتھ کی چھنگلی میں پہنتے تھے۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔^① بعض دیگر صحابہ مثلاً حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں پہننا بھی منقول ہے۔^② کسریٰ پرویز بن ہرمز کی طرف خط: یہ خط لے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ فارس کے دارالحکومت مدائن گئے۔ خط کی عبارت یہ تھی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ خط محمد رسول اللہ کی جانب سے فارس کے حکمران کسریٰ کو لکھا جا رہا ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جو راہ ہدایت اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اور حضرت محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہوں۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ مجھے سب لوگوں کی طرف رسول بنا

① سنن ابی داؤد، الخاتم، باب ماجاء فی التخنم فی الیمین أو الیسار، حدیث: 4229

② صحیح مسلم، اللباس والزینۃ، باب فی لبس الخاتم فی الخنصر من الید، حدیث: 2095

کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں ہر اس شخص کو تنبیہ کروں جو زندہ ہے اور انکار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ثابت ہو جائے۔ آپ مسلمان ہو جائیں، محفوظ رہیں گے لیکن اگر آپ نے انکار کیا تو عام رعایا کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔^①

حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں محل کے دروازے پر پہنچا تو میں نے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ بالآخر میں بادشاہ تک پہنچ گیا تو میں نے اسے رسول اللہ ﷺ کا خط پہنچایا۔ خط پڑھا گیا تو وہ کہنے لگا: ”میرا ایک غلام مجھے ایسی باتیں لکھ کر بھیجتا ہے؟“^②

یہ کہہ کر اس نے خط پکڑ کر پھاڑ دیا۔ رسول اللہ ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو نکلے نکلے کرے!“^③

پھر کسریٰ نے یمن کے گورنر باذان کو لکھا کہ حجاز کے علاقہ میں اس آدمی کی طرف دو مضبوط فوجی بھیجو۔ وہ اسے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کریں۔ باذان نے خرخرہ اور بابو یہ دو افسر بھیجے اور ان کے ہاتھ ایک رقعہ بھی بھیجا جس میں آپ ﷺ سے کہا گیا تھا کہ آپ ان افسروں کے ہمراہ کسریٰ کے سامنے پیش ہوں۔ وہ دونوں طائف پہنچے وہاں انہوں نے ایک قریشی شخص سے آپ ﷺ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ آپ مدینہ میں رہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر طائف والے اور قریش بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے: ”اب خوش ہو جاؤ۔ تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسریٰ نے اس پر ہاتھ ڈال لیا ہے۔ وہ اسے سنبھال لے گا۔“

وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ بابو یہ کہنے لگا: ”کسریٰ نے باذان کو حکم بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیجا جائے۔ باذان نے مجھے بھیجا ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگر آپ حکم کی تعمیل کریں گے تو باذان کسریٰ سے آپ کی سفارش کر دے گا اور کسریٰ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر آپ نے انکار کیا تو پھر آپ جانتے ہی ہیں وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ آپ کو آپ کی قوم اور آپ کے علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔“

آپ ﷺ نے بے پروائی سے فرمایا: ”فی الحال واپس جاؤ، کل میرے پاس آنا۔“ رات کو آپ کے پاس آسمان سے وحی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے شیریہ کو مسلط کر دیا ہے جس نے اسے قتل کر دیا ہے۔“ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور یہ بات بتائی نیز آپ نے فرمایا: ”میرے رب نے آج رات تیرے رب (بادشاہ) کو مار دیا ہے۔“^④ جاؤ باذان کو بتادو کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب (بادشاہ) کو قتل کر دیا ہے۔“ وہ کہنے لگے: ”آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاشبہ ہم نے آپ پر آسان ترین بات کو پیش کیا تھا لیکن آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا، لہذا ہم آپ کی طرف سے یہ

① الطبقات الکبریٰ: 259/1 و الکامل فی التاریخ: 97/2

② السیرۃ النبویۃ لابن کثیر: 508/3

③ إعلام السائلین عن کتب سید المرسلین، ص: 9 و الطبقات الکبریٰ: 260/1

④ کسریٰ پر واپس اپنے بیٹے کے ہاتھوں منگل کی شب 10 جمادی الآخرہ 7 ہجری کو قتل ہوا (السیرۃ النبویۃ لابن کثیر: 511/3)


بات شاہ باذان کو پہنچا دیتے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! ہاں! اس کے ساتھ اسے یہ بھی بتا دینا کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک کسریٰ کی حکومت پہنچتی ہے بلکہ جہاں تک کسی اونٹ یا گھوڑے کی رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھے تیرنی حکومت پر برقرار رکھوں گا اور جو کچھ تیرے قبضے میں ہے وہ تیرے پاس رہے گا۔“


یہ دونوں افسروں واپس باذان کے پاس گئے اور اسے سب کچھ کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگا: ”اللہ کی قسم! یہ باتیں کسی بادشاہ کی نہیں۔ میرا خیال ہے وہ سچے نبی ہیں جیسے ان کا دعویٰ ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اگر ان کی یہ بات (کسریٰ کا قتل) صحیح ثابت ہوئی تو ان کے نبی ہونے میں کسی کو شک نہیں رہے گا۔ بالفرض یہ بات درست نہ ہوئی تو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔“

چند دنوں میں اس کے پاس شیردیہ کا خط آ گیا: ”میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے یہ کام فارسی عوام کی حمایت میں کیا ہے کیونکہ کسریٰ نے بہت سے معزز لوگ قتل کر دیے تھے۔ جب میرا یہ خط تیرے پاس پہنچے تو اپنے علاقے کے لوگوں سے میری بیعت لے لینا۔ باقی رہا وہ شخص جس کے بارے میں کسریٰ نے تجھے حکم نامہ لکھا تھا اسے کچھ نہ کہنا حتیٰ کہ میرا حکم تیرے پاس پہنچے۔“^①

جب شیردیہ کا یہ خط باذان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا: ”بلاشبہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“ پھر وہ خود اور یمن میں رہنے والے فارسی لوگ مسلمان ہو گئے۔

بابویہ نے باذان سے کہا: ”اللہ کی قسم! ان سے بات چیت کرتے وقت مجھ پر اتنا رعب طاری ہوا جو کسی بادشاہ سے بات کرتے وقت بھی طاری نہیں ہوا۔“ باذان نے پوچھا: ”کیا آپ ﷺ کے ساتھ پولیس ہوتی ہے؟“ بابویہ نے کہا: ”نہیں۔“





حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا (ملک مصر کے علاقہ اَنْصِنَا کی ایک بستی خُصن سے)

رسول اللہ ﷺ حدیبیہ (ذوالقعدہ ۶ ہجری) سے واپس تشریف لائے تو فرمایا: ”لوگو! کون شخص میرا یہ خط مصر کے حکمران تک پہنچائے گا؟ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔“ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور عرض کیا: ”اللہ کے رسول! میں یہ خدمت سرانجام دوں گا۔“ آپ نے فرمایا: ”حاطب! اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔“^①

حاطب رضی اللہ عنہ اسکندریہ پہنچے اور مقوقس شاہ مصر کے بارے میں پوچھا، انہیں بتایا گیا کہ شاہ مصر سمندر میں ایک مجلس میں شریک ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ جب بادشاہ کی مجلس کے برابر پہنچے تو خط دکھا کر بادشاہ کو متوجہ کیا۔ جب بادشاہ کی نظر پڑی تو اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ خط کا مضمون یہ تھا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ خط محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے مصر کے حکمران مقوقس کو لکھا جا رہا ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جس نے راہ ہدایت اختیار کی۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے۔ مسلمان ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبرا اجر عطا فرمائے گا لیکن اگر تم اعراض کرو گے تو رعایا کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ بھی تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا هَلْ أَكْتَبَ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَخْذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^②

”اے اہل کتاب! آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلمہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اپنے میں سے کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب نہ مانیں تو اے مسلمانو! تم اعلان کر دو کہ سب لوگ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔“ (آل عمران: 64/3)

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے مقوقس سے کچھ زبانی باتیں بھی کیں۔ فرمایا:

”ہمارا ایک دین ہے۔ ہم اسے تنہی چھوڑ سکتے ہیں جب ہمیں اس سے بہتر دین نظر آئے اور وہ دین اسلام ہے جو ہر لحاظ سے کافی ہے۔ بے شک اس نبی حضرت محمد ﷺ نے لوگوں کو دعوت دی تو سب سے زیادہ مخالفت قریش نے کی اور

① السيرة الحلبية: 280/3، السيرة النبوية والآثار المحمدية: 69/2

نبی ﷺ کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں! البتہ عیسائی مسلمانوں کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی قسم! حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوش خبری دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت محمد ﷺ کی تشریف آوری کی خوش خبری دینا ایک جیسی بات ہے۔ ہمارا آپ کو قرآن مجید کی دعوت دینا ایسا ہے جیسے آپ یہودیوں کو انجیل کی طرف بلاتے ہیں۔ جس امت میں بھی کوئی نبی آجائے وہ اس نبی کی امت بن جاتی ہے۔ ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس نبی کی اطاعت کریں۔ اس لحاظ سے آپ بھی ان نبی کریم ﷺ کی امت میں سے ہیں کیونکہ آپ نے ان کا دور پالیا ہے نیز ہم آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے دین سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو آپ کو اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں۔“ ①

مقوقس کہنے لگا: ”کیا یہ جن کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں نبی نہیں؟“

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”کیوں نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔“

مقوقس کہنے لگا: ”تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب انہیں ان کی قوم نے ان کے شہر سے نکالا تو انہوں نے بددعا کیوں نہ کی؟“ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بددعا کیوں نہ کی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا؟“

مقوقس کہنے لگا: ”بہت خوب! تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔“ ②

پھر اس نے اپنے کا تب کو بلایا تاکہ وہ عربی میں جواب لکھے اور اس نے یہ جواب لکھوایا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ خط حضرت محمد بن عبد اللہ کی خدمت میں قبطیوں (مصریوں) کے حکمران مقوقس کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے آپ کا مکتوب پڑھا اور آپ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے اور جس کی طرف دعوت دی ہے اسے اچھی طرح سمجھا ہے۔ مجھے یہ تو علم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں مگر میرا خیال تھا وہ شام میں آئیں گے۔ بہر حال میں نے آپ کے قاصد کی پوری تعظیم کی ہے اور بطور خدمت دو لونڈیاں آپ کو بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کپڑوں کے جوڑے اور آپ کی سواری کے لیے بہترین فچر بھی بھیج رہا ہوں۔ والسلام علیکم۔“

(شاہ مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو ایک 100 دینار اور پانچ کپڑے تحفہ میں دیے۔ واپسی کے وقت ساتھ حفاظتی دستہ بھیجا اور کہا: ”عنقریب آپ کے نبی کی حکومت اس علاقہ پر ہوگی۔“ دو لونڈیاں حضرت ماریہ اور شیرین رضی اللہ عنہا تھیں۔)

① عیون الأثر: 265/2 وإعلام السالطین: 20

② السیرة النبویة لابن کثیر: 514/3 وإسد الغابة: 660/1

حاطب بن عمرو اس کے پاس صرف پانچ دن ٹھہرے۔ جب وہ واپس رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کی آخری بات بتائی تو آپ نے فرمایا: ”اس نے صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی۔“

حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ نے شادی فرمائی اور ان سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے جب کہ حضرت شیرین رضی اللہ عنہا سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔

مقوقس کے باقی تحفوں میں ایک تو ”ذُلُزُل“ فخر تھا جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور تک باقی رہا۔ یہ سفید رنگ کا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے بنہا کا شہد، خوشبو، مصر کے مشہور قبائلی کپڑے کے 20 جوڑے اور ایک شیشے کا پیالہ بھی بھیجا۔ رسول اللہ ﷺ اس پیالے میں مشروب نوش فرمایا کرتے۔ اس نے ایک ماہر طبیب بھی بھیجا۔ آپ ﷺ نے اسے فرمایا: ”تم واپس چلے جاؤ۔ ہم لوگ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ہمیں بھوک نہ لگے اور کھاتے وقت بھی سیر ہو کر نہیں کھاتے (لہذا ہمیں طبیب کی ضرورت نہیں پڑتی)۔“^①

جن مشہور مقامات کا اس واقعہ میں ذکر ہوا ہے ان میں سے مصر اور اسکندریہ تو مشہور ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ ”حفن“ بستی سے تعلق رکھتی تھیں جو ”انہنا“ کے علاقے میں واقع تھی۔ ابن دقماق کی ”کتاب الانتصار“ میں لکھا ہے:

”انہنا ایک پرانا شہر ہے وہاں بہت سے آثار قدیمہ ہیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا تھا جس سے دریائے نیل کا پانی ماپا جاتا تھا۔ اس کا کچھ حصہ اب بھی باقی ہے۔ یہ شہر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر ”اشمونین“ بستی کے مقابل واقع ہے۔“

”اشمونین“ بستی مصر کے میدانی علاقے میں اسیوط کے نواح میں واقع ہے۔

”بنہا“ مصر کی ایک بستی ہے جسے آج کل ”بنہا“ کہا جاتا ہے اور یہ دریائے نیل کی ایک شاخ پر واقع ہے۔ مصر کا بہترین شہد اس بستی اور اس کے گرد و نواح سے حاصل کیا جاتا ہے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہ خاتون ملک مصر کی ایک بستی حفن سے تھیں جو انہنا کے علاقے میں ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا احترام کرتے ہوئے اپنی حکومت کے دوران میں اس علاقے والوں سے خراج لیتا بند کر دیا تھا کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ابراہیم کی والدہ محترمہ تھیں۔“^②



① الطبقات الکبریٰ: 1/260

② البدایہ والنہایہ: 5/264

مار یہ قبطیہ فی النہج کی مصر سے مدینہ آمد

الصعید: مصر کی وادی نیل میں اسوان سے لے کر فسطاط تک کا نسبتاً بلند علاقہ الصعید کہلاتا ہے جس میں دریائے نیل کے دونوں طرف کی زرخیز زمین شامل ہے۔ اس میں اسوان، قنا، قاہرہ، اسیوط اور الاقصر کے شہر دریائے نیل پر واقع ہیں۔ مشہور مؤرخ و مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسیوط کی نسبت ہی سے سیوطی کہلاتے تھے۔ الاقصر کے نزدیک ”بادشاہوں کی وادی“ میں وسطی دور کے فرعونوں کے زیر زمین مقبرے ہیں۔ الصعید ہی میں حفن نامی گاؤں میں مار یہ قبطیہ پیدا ہوئیں اور حصن بابلیون کے راستے شاہی دربار (اسکندریہ) میں پہنچیں۔ 6ھ میں مقتوس شاہ مصر نے مار یہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حاطب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ روانہ کیا اور وہ نہما (نیل کی شاخ پر واقع) فلسطین کی بندرگاہ ایلہ (موجودہ ایلات) تہوک اور العلا سے ہو کر مدینہ منورہ پہنچیں۔

حصن بابلیون: یہ شہر دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ہمراہ بابل (عراق) سے ہجرت کر کے کنار نیل پہنچے تو انہوں نے اس علاقے کی شادابی دیکھ کر کہا: ”بابلیون“ یعنی ”شاداب بابل“ وہ لوگ وہیں بس گئے اور اس بستی کا نام ہی ”بابلیون“ پڑ گیا جبکہ ”بابل“ کے معنی نہریادریا کے ہیں کیونکہ یہ دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ بابلیون کے مقام ہی پر بعد میں ممفس آباد ہوا۔

اسکندریہ: یہ مصر کی مشہور بندرگاہ ہے۔ اس کی آبادی 30 لاکھ ہے۔ سکندر اعظم نے 332 ق م میں مصر فتح کر کے اپنے نام سے یہ شہر آباد کیا تھا۔ بطلمیوس بادشاہوں کے عہد (306 ق م تا 30 ق م) میں اسکندریہ مصر کا دار الحکومت رہا۔ یہیں یونانی سائنسدان بطلمیوس کلاڈیس (90ء تا 168ء) پیدا ہوا جس کی شہرہ آفاق تصانیف المجسطی (فلکیات) اور ”جغرافیہ بطلمیوس“ مشہور ہیں۔ عہد نبوی میں شاہ مصر مقتوس رومی سلطنت کا باجگزار تھا اور اس کا دار الحکومت اسکندریہ ہی تھا۔ دکتور شوقی ابوخلیل نے لکھا ہے کہ ”جب سفیر رسول حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ اسکندریہ پہنچے تو مقتوس (شاہ مصر) سمندر پر اعلیٰ سطحی مجلس میں شریک تھا چنانچہ حاطب رضی اللہ عنہ کشتی میں سوار ہو کر اس کی مجلس (دربار) میں پہنچے۔ ”دراصل ان دنوں اسکندریہ کا قلعہ اور قصر بندرگاہ کے قریب ایک جزیرے پر واقع تھے اور مقتوس وہیں مقیم تھا۔ اسی لیے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کشتی میں سوار ہو کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس جزیرے کا نام فاروس تھا جس پر یونانیوں نے بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کا مینار لائٹ ہاؤس تعمیر کیا تھا جو قدیم زمانے کے سات عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے۔ یا قوت حموی متوفی 626ھ/1228ء اپنا مشاہدہ یوں بیان کرتا ہے: ”میں نے اسے ایک ستون کی شکل میں دیکھا جسے عمود السواری کہا جاتا ہے۔ یہ مینار اسکندریہ کی بندرگاہ میں ابھرے ہوئے ایک جزیرے کی ایک جانب پہاڑی کی چوٹی پر اونچے قلعے کی شکل میں

ہے۔ اس جزیرے اور خشکی کے درمیان گھوڑے کے ایک چکر جتنا فاصلہ ہے مگر کھلے سمندر کے سوا اس تک جانے کا کوئی راستہ نہیں۔“ (معجم البلدان جلد اول)

اردو دائرہ معارف اسلامہ جلد 2 میں لکھا ہے: ”جزیرے کے شمال مشرقی کونے میں بطلمیوس سوتر کا بنوایا ہوا روشنی کا مینار فاروس تھا۔ 1324ء میں اس کا ایک بڑا حصہ (زلزلے میں) گر گیا۔ تھوڑے عرصے بعد یہ سارے کا سارا منہدم ہو گیا۔ 1477ء میں قاہرہ کے (سلطان قاہیائی) نے اس کے کھنڈروں پر موجودہ قلعہ فاروس بنوایا۔“


چند سال پہلے جزیرہ (اسکندریہ) کے اس حصے کے آثار سمندر کی تہ سے دریافت ہوئے ہیں جو چودھویں صدی عیسوی کے زلزلے میں سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔

ایلیہ: بنی اسرائیل اور رومیوں کے زمانے کا یہ شہر ان دنوں ایلات کہلاتا ہے جو اسرائیل کے تسلط میں ہے۔ بندرگاہ ایلات اردنی بندرگاہ عقبہ کے شمال مغرب میں خلیج عقبہ کے سرے پر واقع ہے۔

تبوک: یہ سعودی عرب کی اہم چھاؤنی اور صوبہ تبوک کا دار الحکومت ہے۔ یہیں 9ھ میں غزوہ تبوک پیش آیا تھا۔
العلما: یہ تبوک اور مدینہ منورہ کے تقریباً وسط میں اہم شہر ہے۔ اس کے شمال مشرق میں قوم صالح علیہ السلام کی بستیوں (مدائن صالح) کے کھنڈر ہیں۔ قرآن مجید میں اسے الحجر کہا گیا ہے۔ مزید دیکھیے ”غزوہ خیبر“ میں ”وادی القرئی (العلما)“

مصر کے شہر اسیوط کا فضائی منظر





رسول اللہ ﷺ کا قصہ ہرقل کو خط

(آغاز 7 ہجری / 628ء)

ابوسفیان صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ غزہ گیا۔ ادھر روم کا بادشاہ ہرقل حمص سے بیت المقدس بطور نذر پیدل گیا ہوا تھا تاکہ وہاں نماز شکر ادا کرے کیونکہ اسے فارس پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت غمگین حالت میں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فوجی کمانڈر کہنے لگے۔ ”جناب! آپ بہت غمگین ہیں۔ کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا: ”مجھے رات خواب آیا ہے کہ نختہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔“

پھر بادشاہ نے اپنے پولیس افسر کو بلایا اور کہا: ”سارے شام کو چھان مارو حتیٰ کہ میرے پاس اس آدمی کی قوم سے کوئی شخص لاؤ جس نے دعوائے نبوت کیا ہے تاکہ میں اس سے اس نبی کے بارے میں تحقیق کروں۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ”میں اور میرے ساتھی غزہ میں تھے کہ اچانک پولیس افسر ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا: ”تم کون ہو؟“ ہم نے بتایا: ”ہم عرب ہیں۔“ وہ ہم سب کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا: ”تم میں سے اس نبی کا زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟“ میں نے کہا: ”میں ہوں۔“ وہ پولیس افسر سے کہنے لگا: ”اسے میرے قریب کر دو۔“ پھر اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھالیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھالیا اور ان سے کہنے لگا: ”اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم اسے ٹوک دینا۔“ ابوسفیان کہتے ہیں: ”مجھے یقین تھا کہ اگر میں غلط بیانی بھی کروں تو وہ میری تردید نہیں کریں گے لیکن میں سردار تھا۔ میں اپنے آپ کو اس بات سے بلند مرتبہ سمجھتا تھا کہ جھوٹ بولوں اور یہ میرے لیے شرم کی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ کم از کم وہ واپس مکہ جا کر ضرور لوگوں سے میرا جھوٹ بیان کریں گے اس لیے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔“

ہرقل اور ابوسفیان کے درمیان خاص سوال و جواب ہوئے۔ آخر میں ہرقل کہنے لگا: ”تو خود کہتا ہے کہ وہ اعلیٰ اور خالص نسب رکھتا ہے۔ واقعاً اللہ تعالیٰ اعلیٰ نسب کے شخص ہی کو نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس کے خاندان میں کسی اور نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ کہا جائے یہ اس کی نقل کرتا ہے؟ تو نے صاف نفی میں جواب دیا۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد حکمران رہے ہیں کہ تم نے وہ حکومت چھین لی ہو اور وہ دعوائے نبوت کے ذریعے سے اپنی گم شدہ حکومت بحال کرنا چاہتا ہو؟ تو نے اس کی بھی نفی کی۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا: کیا اس کے پیروکار اس سے محبت اور احترام کا سلوک کرتے ہیں یا اس سے ناراض ہو کر اسے چھوڑ جاتے ہیں؟ تو نے خود بتایا کہ اس کا کوئی پیروکار اسے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یاد رکھ! ایمان کی لذت ایسی ہی ہوتی ہے جب کسی دل میں داخل ہو جائے تو نفی نہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا: تمہاری اس سے ہونے والی جنگوں کا نتیجہ کیا نکلتا رہا ہے؟ تو نے کہا: جیسے ڈول کبھی ایک کے

ہاتھ میں اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی طرح کبھی اسے غلبہ حاصل ہوتا رہا ہے کبھی ہمیں۔ سن لے! انبیاء کی کیفیت یہی ہوا کرتی ہے، البتہ انجام کار وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا تھا: کیا وہ بد عہدی کرتا ہے؟ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ تو نے کہا: ہرگز نہیں۔ پھر میں نے پوچھا: وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتا ہے؟ تو نے خود بتایا: وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، بتوں کی پوجا اور ہر قسم کے شرک سے منع کرتا ہے نیز وہ نماز، سچائی اور پاکبازی کا حکم دیتا ہے۔ غور سے سن لے۔ اللہ کی قسم! اگر تو نے صحیح جوابات دیے ہیں تو اس کو میری اس مملکت پر بھی غلبہ حاصل ہوگا۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے مگر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ وہ عربوں سے ہوگا۔ اللہ کی قسم! اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو میں طویل سفر کی مشقت برداشت کر کے بھی اس کے پاس پہنچ کر اس سے ملاقات کرتا اور اگر میں اس کے پاس پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔“^①

ابوسفیان کہتے ہیں: پھر اس نے مجھ سے کہا: ”جاؤ اپنا کام کرو۔“ میں وہاں سے نکلا تو میں افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا اور کہہ رہا تھا: ”لو! ابن ابی کثیر (رسول اللہ ﷺ کے رضائی والد کی کنیت ابو کثیر تھی) کی شان اس قدر بلند ہو چکی ہے کہ رومیوں کا بادشاہ اپنی مملکت میں بیٹھا اس سے خوف کھا رہا ہے۔“

یہ خط حضرت وحیدہ کلبی رضی اللہ عنہا لے کر گئے تھے اور خط کی عبارت یوں تھی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ خط محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے روم کے حکمران ہرقل کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جو راہ ہدایت اختیار کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے نیز اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے لیکن اگر تم نے اعراض کیا تو دیگر رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تجھے ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا هَلْ أَكْتَبَ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾﴾

”اے اہل کتاب! آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اپنے میں سے کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب نہ مانیں تو اے مسلمانو! تم اعلان کر دو کہ سب لوگ گواہ ہو جائیں کہ ہم بہر حال مسلمان ہیں۔“

(آل عمران: 64/3)


ہرقل نے وحیدہ رضی اللہ عنہا سے کہا: ”اللہ کی قسم! میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے رسول ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ

نبی ہیں۔ یقیناً آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور آپ ہی کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں ان پر ایمان لے آ یا تو رومی مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم! میں ان پر ایمان لے آتا۔“

حافظ ابن حجر بیہقیؒ نے فرمایا: ”اگر ہر قل خط کے ان الفاظ ”أَسْلِمْتُ تَسْلَمُ“ (مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے) کے حقیقی مفہوم کو سمجھ جاتا کہ اس سے مراد دنیا و آخرت دونوں کی سلامتی اور حفاظت ہے اور مسلمان ہو جاتا تو ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتا لیکن ہر قسم کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔“^①

پھر ہر قل، حمص چلا گیا۔ جب اس نے شام کی سرزمین سے قسطنطنیہ جانے کا ارادہ کیا تو وہ اپنے نچر پر بیٹھا اور سفر شروع کیا حتیٰ کہ جب وہ شام کی سرحد پر پہنچا تو شام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا: ”اے سرزمین شام! تجھے ہمیشہ کے لیے الوداعی سلام۔“ پھر وہ سفر کرتا قسطنطنیہ پہنچ گیا۔





سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ثرہ کی طرف (شعبان 7 ہجری)

آپ تمیں صحابہ کے ساتھ قبیلہ ہوازن کی طرف چلے لیکن ان کو جب اسلامی لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو بھاگ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے شعبان 7 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ ترہ نامی جگہ کی طرف ہوازن کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ترہ غبلاء کے پاس مکہ سے صنعاء کے راستے پر چار رات کے فاصلے پر ہے۔ ان کے ساتھ بنو ہلال کا ایک رہبر بھی تھا۔ یہ دن کے وقت چھپ جاتے اور رات کے وقت سفر کرتے۔ ہوازن کو اس بات کا پتا چل گیا تو وہ فرار ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں آئے۔ کوئی آدمی نہ ملا تو وہ مدینہ واپس آ گئے۔

(طبقات ابن سعد: 2/117)

ہوازن: دیکھیے باب ”حرب فجار“

غَبَلَاء: اصمعی کے بقول اَعْبِل اور عبلاء سفید کنکریوں کو کہتے ہیں۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ غَبَلَاء قیس کے علاقے میں تانبے کی کان ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبلاء عکاظ کی جانب ایک سفید چٹان کا نام ہے۔ (معجم البلدان جلد 4)

ثَوْبَه: یہ مکہ سے تقریباً دو روز کی مسافت پر ایک وادی ہے جو بستان عامر میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں بنو ہلال رہتے ہیں اور اس کے نواح میں جبال سراة اور فرقد شامل ہیں۔ اصمعی کہتے ہیں کہ ترہ ایک وادی ہے جہاں کھجوروں، کھیتی باڑی اور پھلوں کی فراوانی ہے اور ہلال اور عامر بن ربیعہ ان میں شراکت دار ہیں۔ (معجم البلدان جلد 2)

ترہ طائف سے تقریباً سو کلومیٹر مشرق میں ہے اور دونوں بذریعہ سڑک ملے ہوئے ہیں۔ ترہ سے شمال مشرق میں اسوق کو سڑک جاتی ہے اور جنوب میں عسیر کی طرف سڑک نکلتی ہے۔ (اطلس المملكة العربیہ السعودیہ والعالم)

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدوی قرشی رضی اللہ عنہ حرب فجار سے چار سال پہلے پیدا ہوئے اور ذوالحجہ 6 نبوی میں پچیس ستائیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اپنی ممتاز بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ہو کر ابو حفصہ کنیت اختیار کی۔

عمر رضی اللہ عنہ: گورے بہت اونچے اور کچھ شحیم آدمی تھے۔ بائیں ہاتھ سے بھی دائیں ہاتھ ہی کی طرح کام کر سکتے تھے۔ دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ سکتے تھے۔ ابن سعد کے مطابق زمانہ جاہلیت میں عکاظ کے میلے میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ المسعودی کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں عراق و شام وغیرہ کے بکثرت سفر کیے اور وہاں کے نیز عرب کے


حکمرانوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمیشہ صف اول میں نظر آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 13ھ تا 23ھ مطابق 634ء تا 644ء ایسے عمدہ طریقے سے حکومت کی کہ ایک افسانوی کردار محسوس ہونے لگے ان سے پہلے یا بعد میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 14/2)

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے جو ”امیر المؤمنین“ کہلائے۔ وہ اپنے عدل کے باعث مشہور ہوئے۔ ان کے عہد میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکروں نے ساسانی اور بازنطینی سلطنتوں کو فتح کیا۔ انہوں نے باقاعدہ فوج کا شعبہ قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کیں اور چھاؤنیاں بسائیں (المنجد فی الاعلام)۔ ابولؤلؤ فیروز فارسی نے 27 ذی الحجہ کو انہیں مسجد میں زہر میں بچھے خنجر سے زخمی کر دیا اور چند روز بعد کیم محرم 24ھ کو زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہو گئے۔

خلافت فاروقی میں 22 لاکھ مربع میل پر محیط علاقے اور ممالک سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ اس عہد کی دوسری طاقتوں فارس (ایران) اور روم کا خاتمہ ہو گیا اور فارس کی ساسانی سلطنت تو یوں مٹ گئی کہ کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اسی لیے ایک مغربی مؤرخ لکھتا ہے کہ ”اگر ایک اور عمر (رضی اللہ عنہ) پیدا ہو جاتا تو روئے زمین پر اسلام ہی کا پرچم لہراتا۔“





سریہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نجد کی طرف (شعبان 7 ہجری)

بنو کلاب نجد میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی سرکوبی کے لیے وہاں گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

شعبان سن 7 ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نجد میں سریہ کے نواح میں بنو کلاب کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ کی، مشرکوں کو قیدی بنالیا اور انہیں قتل کیا۔ اس جنگ میں ہمارا شعار (code word) اُمٹ اُمٹ ”مارؤ مارؤ“ تھا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فزarah کی طرف بھیجا۔ میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ ہم نے (گاؤں کے) پانی کے نزدیک پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ صبح کی نماز پڑھ کر حملے کا آغاز کر دیا اور ان کے پانی پر پہنچ گئے۔ ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کچھ افراد کو قتل کیا۔ اچانک میں نے دیکھا لوگوں کی ایک جماعت جارہی تھی جس میں ان کے بچے بھی تھے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میرے بچے سے پہلے وہ پہاڑ میں پناہ نہ لے لیں۔ میں نے ان کے آگے ایک تیر پھینکا جسے دیکھ کر وہ رک گئے۔ ان میں فزarah قبیلے کی ایک عورت جارہی تھی جس پر چڑے کا لباس یا کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ عرب کی خوبصورت ترین اس کی بیٹی بھی تھی۔ میں ان کو ہانک کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ لڑکی مجھے بہہ کر دی۔ میں نے اس کا لباس نہیں کھولا تھا حتیٰ کہ مدینہ منورہ آ گئے۔ رات وہ میرے پاس رہی مگر میں نے اس کا لباس نہ کھولا۔ صبح رسول اللہ ﷺ مجھے بازار میں ملے فرمانے لگے: ”سلمہ! وہ عورت مجھے بہہ کر دو۔“ میں نے کہا: ”اے اللہ کے نبی! وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے اور میں نے ابھی تک اس کا لباس نہیں اتارا۔“ چنانچہ آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔ اس سے اگلے دن رسول اللہ ﷺ پھر مجھے بازار میں ملے جبکہ میرے اس عورت کا لباس نہیں کھولا تھا۔ فرمانے لگے: ”اے سلمہ! وہ عورت مجھے بہہ کر دے۔“ میں نے کہا: ”اللہ کے رسول! وہ آپ کی ہے۔“ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اس لونڈی کو مکہ روانہ کر دیا اور اس کے بدلے میں کئی قیدی چھڑا لیے۔ (طبقات ابن سعد: 2/117، 118)

نجد: تہامہ یعنی ساحلی میدان اور غور یعنی نشیبی زمین کے بالمقابل بلند زمین کو نجد کہتے ہیں۔ اس سے مراد مطلق ”سطح مرتفع“ ہے۔ نجد کئی ایک مقامات کو کہا گیا ہے جن میں نجد یمن، نجد حجاز اور نجد اودہ وغیرہ شامل ہیں۔

اسلام سے قبل نجد کا خطہ بنیام، عرب میں غلے کا ذخیرہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کا خلیفان بھی مشہور ہے۔ یہاں کے باشندوں نے آنے اور کھجور کی آمیزش سے اپنے دیوتا کا بت بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ قحط کی وجہ سے لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ

اپنے دیوتا کو کلوئے کلوئے کر کے بڑپ کر گئے۔ تب رقیب قبائل نے ان کے بارے میں کہا: اَکَلَتْ حَبِیْفَةُ زَبْنَهَا.....
 زَمِنَ التَّقْحُمُ وَ الْمَجَاعَةُ (بنو حنیفہ اپنے مشکل کشا دیوتا کو مشقت اور بھوک کے زمانے میں کھا گئے)

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد یہ علاقہ مرتدین کی آماجگاہ بنا رہا، خصوصاً مُسیلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ ارتداد میں پیش پیش تھا۔ پھر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے اس علاقے کے لوگوں کو اتارا رخ العقیدہ کر دیا کہ بعد میں ارتداد کا اعادہ نہ ہوا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 22)

حَضْرِيَّة: نجد کے جس خاص علاقے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی وہ ”ضریہ“ کہلاتا ہے۔ ضریہ کے معنی ”درختوں والی ہموار زمین“ ہیں۔ تاریخ میں یہ ایک آباد بستی رہا ہے جو مکہ سے بصرہ کے راستے میں واقع ہے اور مکہ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بنی کلاب کی بستی ہے۔ یہاں بنو سعد اور بنو عمرو بن حظلہ نے لشکر جمع کر رکھا تھا پھر وہ صلح کے طلبگار ہوئے۔ بعض کے قول کے مطابق یہ ضریہ بنت نزار کی طرف منسوب ہے۔

اصمعی نجد کے پانی (کنویں) شمار کرتا ہوا کہتا ہے: ”الشرف نجد کا مرکزی علاقہ ہے اور ضریہ اس کی چراگاہ ہے۔“
 بصرہ سے آنے والے حجاج جدیلہ اور طخفہ کے درمیان اس ضریہ کی چراگاہ میں اترتے ہیں۔ پہلے پہل اس چراگاہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محفوظ کیا تھا۔ (معجم البلدان: 3)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ: عبد اللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُزہ بن کعب قرشی تھی جو حضرت کی کنیت ابوبکر تھی۔ والد ابوقحافہ کا نام عثمان تھا۔ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ان کا نسب مُزہ بن کعب پر جا کر ملتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے غار اور ہجرت کے ساتھی ہیں اور آپ کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جاہلیت میں بھی قریش کے رؤساء میں سے تھے۔ خاندان کی دینوں کے فیصلے آپ ہی کیا کرتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت سنی تو سب سے پہلے بلاترود و توقف اسے قبول کیا، پھر آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے پانچ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

ہجرت: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ بعض سرایا میں بھی رسول اللہ ﷺ نے آپ کو روانہ فرمایا تھا۔


فضائل و مناقب: ابن اثیر رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے فرمایا: ”تم میرے بھائی اور دوست ہو۔ میں نے تم میں سے کسی کو بھی خلیل (دلی دوست) نہیں بنایا۔ اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کو بناتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔“

عشرہ مبشرہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ کئی مواقع پر رسول اللہ ﷺ نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی۔

رسول اکرم ﷺ کی رحلت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ سفیہ بنی ساعدہ میں انصار صحابہ جمع ہو کر

خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ جب مہاجرین کو معلوم ہوا تو وہ بھی وہاں پہنچے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان سنایا: (الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ) ”امامت و خلافت قریش میں ہوگی۔“ تب سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوا دو سال (11ھ تا 13ھ مطابق 34-632ء) خلافت کی۔ آپ نے جزیرہ نمائے عرب سے ارتداد کا استیصال کیا، رومیوں سے جنگیں لڑیں اور اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق آپ 23 جمادی الآخرہ 13 ہجری کو فوت ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (اسد الغابہ: 3/310.....331)





سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ فدک کی طرف (شعبان 7 ہجری)

بنو مزہ کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے لہذا حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ تیس مجاہد لے کر ان کی سرکوبی کے لیے گئے۔


اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے شعبان 7 ہجری میں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ فدک میں بنو مزہ کی طرف بھیجا۔ وہاں مزیوں نے اچانک رات کے وقت انہیں آیا۔ یہ ان پر تیر برس آنے لگے یہاں تک کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے سارے تیر ختم ہو گئے۔ صبح ہو گئی تو مزیوں نے ان پر حملہ کر کے سب افراد کو شہید کر دیا۔ صرف بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ بچے جنہیں وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ پہلے غلبہ بن زید الحارثی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا اس کے بعد بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ (طبقات ابن سعد: 2/118، 119)

فدک: دیکھیے عنوان ”سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (فدک) اور سریہ غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ (فدک)“
بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ: حضرت بشیر بن سعد انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ کا شمار انصار کے سابقوں اولوں میں ہوتا ہے۔ عقبہ کے مقام پر رسول اللہ ﷺ سے دوسری ملاقات کے وقت وہ بھی موجود تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد ہونے والے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور دو مہموں کی قیادت بھی کی۔ جب رسول اللہ ﷺ صلح حدیبیہ کے مطابق عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اس صلح دستے کے سالار تھے جو آپ ﷺ کی حفاظت کے لیے ساتھ گیا تھا لیکن مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔

نبی ﷺ کی وفات کے بعد انصار میں سے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ پہلے فرد تھے جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کا فیصلہ کیا۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے 12ھ میں عین التمر کے مقام پر رحلت فرمائی۔ وہ ان معدودے چند اصحاب میں سے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ (ابن ہشام ابن سعد طبری)





سریہ حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ

وادی نخل کی طرف (رمضان 7 ہجری)

حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ 130 آدمی لے کر بنو عوال اور بنو عبد کی طرف چلے جو ”میفعة“ کے مقام پر مسلمانوں کے خلاف جمع تھے۔ ”میفعة“ نجد کے علاقے میں وادی نخل کے پیچھے واقع ہے۔ یہاں لڑائی بھی ہوئی۔ اسی لڑائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو قتل کیا جس نے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھ لیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا تو آپ نے غصے کے ساتھ فرمایا: ”تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا صرف زبان سے تاکہ تجھ پر اس کا جھوٹ واضح ہو جاتا۔“


اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کو رمضان 7 ہجری میں میفعة کی جانب بھیجا جو نجد کی جانب بطن نخل سے آگے ہے۔ اس کے اور مدینہ کے درمیان تقریباً 96 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ سریہ 130 افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے ان پر حملہ کر کے کئی افراد کو قتل کر دیا اور بہت سے اونٹ اور بکریاں لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں کسی آدمی کو قیدی نہیں بنایا گیا تھا۔

نجد: دیکھیے ”سریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ“

بطن نخل: مدینہ کے قریب بھرہ کے راستے پر ایک بستی ہے جو اطراف کے بعد آتی ہے۔ (معجم البلدان جلد 1)
 غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ: غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کا شمار اہل حجاز میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس مذکورہ سریہ کے علاوہ کدیسد اور فدک کے سریوں پر روانہ کیا نیز فتح مکہ سے پہلے انہیں آگے بھیجا تاکہ لشکر اسلام کے لیے راستے کو آسان کریں۔





سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نخن اور جبار کی طرف (شوال 7 ہجری)

عمید بن حصن فزاری نے غطفان قبیلہ کے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میں بھی تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کو 300 آدمی دے کر بھیجا اور انہوں نے ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے شوال 7 ہجری میں بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کو 300 افراد کے ساتھ نخن اور جبار کی طرف بھیجا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی ﷺ کے پاس اطلاع پہنچی کہ غطفان اور غنیمہ بن حصن مل کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لشکر دن کے وقت چھپتا رات کے وقت سفر کرتا نخن اور جبار پہنچا جو کہ جناب کی جانب ہے اور جناب خیر اور وادی القرئی (الغلا) کے بالقابل ہے۔ جب یہ لشکر پہنچا تو غطفان بالائی علاقوں کی طرف فرار ہو گئے۔ یہ بہت ساری بکریاں لے کر واپس آ گئے۔ صرف دو آدمیوں کو گرفتار کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں آزاد کر دیا گیا۔

(طبقات ابن سعد: 2/120)

نخن: یہ غطفان کا کنواں ہے جو تہاء سے فید جانے والے راستے پر طین فو اور رؤف کے درمیان واقع ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنی صرمہ بن مرہ کا کنواں ہے اور اسے نخن بھی بولتے ہیں۔ (معجم البلدان جلد 5)


جبار: یہ قضاہ کی شاخ بنو حمیس بن عامر کا کنواں ہے جو مدینہ اور فید کے درمیان واقع ہے۔ (معجم البلدان جلد 2)

غطفان: یہ قبائل مضر میں قیس عیلان کی ایک شاخ ہے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بن مضر۔ عرب قبائل میں ”اثانی“ یعنی ”چولہے کے تین پتھروں“ کا اطلاق جن قبائل پر ہوتا ہے ان میں سے سلم مع ہوازن ایک پتھر غطفان دوسرا پتھر اور اعصر مع محارب بن خصفہ تیسرا پتھر سمجھے جاتے ہیں۔ غطفان اور سلم عہد نبوی میں سرکشی کے سبب ہمیشہ مسلمانوں کے درپے آزار رہے۔ غزوہ قرقرۃ ائدر اسی لیے پیش آیا تھا کہ غطفان اور سلم مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد ذی امر اور ذات الرقاع کے معرکہ بھی غطفان کے خلاف لڑے گئے۔ غزوہ خندق میں غطفان بھی کفار مکہ کے ساتھ شریک تھے۔ غطفان قبیلے کی چراگاہیں خیر اور جاز سے لے کر بنو طے کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ غطفان کی دو بڑی شاخیں اشجع بن ریث بن غطفان (بشر کے قرب و جوار میں) اور بغیض بن

ریث (شریہ اور ربذہ کے نواح میں) آباد تھیں۔ بغیض آگے عیس اور ذبیان میں منقسم تھے۔ عیس اور ذبیان کے مابین دور جاہلیت میں گھڑ دوڑ کے سبب جنگ داحس و غمراء چھڑی تھی۔ غزوہ خندق کے اگلے سال غطفانی قبیلہ بنوفزارہ نے مدینے میں نبی ﷺ کے اونٹوں پر حملہ کیا تو آپ نے ان ڈاکوؤں کا ذوقِ دمک تعاقب کیا تھا۔ آخر کار 8ھ میں بنو سلیم کے بعد بنو غطفان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے فتح مکہ سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد غطفان مرتد ہو گئے اور بنوفزارہ کے سردار عیینہ بن حصن نے عیس اور ذبیان کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کر دیا۔ صرف بنو اشجع اپنے دین پر قائم رہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شہر پر غطفانیوں کا حملہ دوبارہ پسا کیا اور آخر کار انہیں ربذہ سے نکال باہر کیا۔ وہ لوگ بنو اسد کے جھوٹے نبی طلحہ سے جا ملے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں طلحہ کی شکست کے بعد غطفان نے ایک بار پھر اسلام قبول کر لیا۔ 14ھ میں بنو غطفان نے جوق در جوق جنگ قادسیہ میں شرکت کی۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 14/2)





عمرۃ القضاء (ذوالقعدہ 7 ہجری)

اسے عمرۃ القصاص اور عمرۃ القضاء بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ سمیت مکہ مکرمہ پہنچے عمرہ مکمل فرمایا اور بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذانیں کہیں۔ قریش بے بسی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ چوتھے دن آپ ﷺ نے واپسی کا اعلان فرمادیا۔

(یہ غزوہ ہے نہ اس کا لشکر کشی سے کوئی تعلق ہے لیکن چونکہ یہ غزوہ حدیبیہ میں بیعت رضوان کے نتیجے میں طے پایا تھا۔ نیز صحابہ کرام دورانِ عمرہ میں بھی لڑائی کی تیار حالت میں تھے کیونکہ قریش سے نقض عہد کا خطرہ تھا۔ ویسے بھی واقعات کی ترتیب میں اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا لہذا اسے یہاں ذکر کر دیا گیا۔)

اضافی توضیحات و تشریحات

ذی قعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ ﷺ اس عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جس پر خدیجہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے مدینہ کا انتظام حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو سونپا قربانی کے ساتھ اونٹ ساتھ لیے اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور ایک سو گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک پکارا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ لبیک پکارا۔ پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وادی ”یاثج“ پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں دو سو آدمی وہیں چھوڑ دیے۔ صرف سفر کے ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر ”کداء“ کے راستے سے ”جو“ خجوند ”پر جا نکلتا ہے“ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت نبی ﷺ اپنی اونٹنی قسواء پر سوار تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تلواریں حمال کیے آپ ﷺ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے۔ اس طرح آپ ﷺ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ چھڑی سے حجر اسود کو چھوا پھر سواری ہی پر طواف کیا۔ مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ وہ قوت و جوانمردی کی شان سے داہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے۔ مشرکین کعبہ کے شمال میں ”قُعْبِقَعَان“ پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا: ”تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے شراب کے وہابی بخار نے توڑ ڈالا ہے۔“ لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی گزرے ہیں۔

درحقیقت رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا تھا کہ پہلے تین چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھلائیں البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جس کو مشرکین دیکھ نہیں رہے تھے۔ طواف سے

فارغ ہو کر آپ ﷺ نے صفا اور مروہ کی ”سعی“ کی اور ان کے سات پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو ”یا حج“ بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر عمرہ ادا کر لیں۔ مکہ میں آپ ﷺ نے تین روز قیام فرمایا چوتھے دن صبح مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ آلُ الْبَيْتِ بِمَا لَبَّىٰ بِالْحَقِّ لَتَدَخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو برحق سچا خواب دکھایا تھا۔ ان شاء اللہ تم ضرور امن و اطمینان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گے۔ پھر تم (عمرہ کی ادائیگی کے بعد) اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کٹاؤ گے۔ تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تمہارے لیے ایک قریبی فتح مقرر فرمادی۔“ (الفتح: 27/48)

صلح حدیبیہ کے عین ایک سال بعد صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دو ہزار مسلمان عمرہ قضا کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ادھر قریش کے کچھ لوگوں نے مکہ خالی کر دیا اور پہاڑوں کی بونیوں پر چلے گئے تھے۔ وہ کہنے لگے: ”ہم محمد (ﷺ) اور اس کے ساتھیوں کو عمرہ کرتے نہیں دیکھیں گے۔“ نیز قریش نے مشہور کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو اضطباع اور رمل کا حکم دیا کہ وہ اپنا ایک کندھانگا کر کے پہلو انوں کی طرح لپک لپک کر طواف کریں۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: [رَجِمَ اللَّهُ امْرَأًا اَزَاهُمْ الْيَوْمَ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً] ”اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو مشرکوں کو آج اپنی قوت دکھائے۔“ (البداية و النہایة: 227/4)

لہذا مسلمانوں نے آپ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قوت کا خوب مظاہرہ کیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں انتہائی امن و شوکت سے داخل ہوئے۔ مسلمانوں کو اس شہر سے ڈرا دھمکا کر ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا اور دور تک ان کا پیچھا کیا گیا تھا اس کے بعد بدر و احد اور خندق کے میدانوں میں جنگیں ہو چکی تھیں اور مسلمان خیر تک قابض ہو چکے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ شان و شوکت سے داخل ہوں اور رعب کے ساتھ طواف کریں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق نبی ﷺ مکہ مکرمہ میں تین دن رہے۔

میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح: مسلمانوں کی اس بڑی شوکت آمد اور بارعب داخلے نے مکہ مکرمہ کی ایک نیک نفس معزز اور سردار خاتون کو انتہائی متاثر کیا اور ان کا دل رسول اللہ ﷺ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ یہ معزز خاتون میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا تھیں جو اپنی عمر کے چھبیسویں سال میں تھیں۔ ان کا خاوند ابورہم بن عبد العزیٰ قریشی فوت ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار اپنی سگی بہن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل سے کیا۔ حضرت عباس یہ خبر لے کر رسول اللہ ﷺ

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی: ”میمونہ بنت حارث نے آپ کے حضور نکاح کی پیشکش کی ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَّمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِيَالِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَلِيلِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾

”اے نبی! ہم نے آپ کے لیے وہ تمام بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو آپ نے مہر دے کر ان سے نکاح کیا ہے اور وہ مملوکہ لونڈیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگ وغیرہ میں بطور غنیمت عطا فرمائی ہیں۔ اور آپ کی وہ عزاؤں پھوپھی زاد ماموں زاد اور خالہ زاد جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور وہ مومن عورت بھی جو خود نبی کریم سے نکاح کی پیشکش کرے بشرطیکہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ (لیکن تعدد ازواج کی یہ وسعت) صرف آپ کے لیے ہے۔ عام مومن حضرات کے لیے ان کی بیویوں اور مملوکہ لونڈیوں کے بارے میں مقرر شدہ احکام سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو (سیاسی و سماجی طور پر) کوئی مشکل اور تنگی لاحق نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔“ (الاحزاب: 50/33)

رسول اللہ ﷺ نے میمونہ بنت حارث سے شادی کی اور ان کو مدینہ منورہ ساتھ لے آئے۔



عمرۃ القضاء

(ذی قعدہ ۷۷)

﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُحْيَ بِالْحَقِّ لَقَدْ خُلِنَ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُحَوَّلِينَ
رُءُوسَكُمْ وَمُقَيَّبِينَ لَا تَخَافُونَ﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو برحق سچا خواب دکھایا تھا۔
ان شاء اللہ تم ضرور امن و اطمینان کے ساتھ مسجد حرام میں
داخل ہو گے۔ پھر تم (عمرہ کی ادائیگی کے بعد) اپنے سر منڈواؤ گے
اور بال کٹواؤ گے۔ تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا۔ (الف: 27/48)

میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا

﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾

اور وہ مومن عورت بھی جو خود نبی کریم سے نکاح کی پیشکش کرے
(الاحزاب: 50/33)

عمرۃ القضاء (عمرۃ القصد یا عمرۃ القصاص) کا راستہ

حدود حرم کی

نجد

دات جزیل

قرن الثمان

طائف

عند

مناہلین

یلم

مدینہ منورہ

ذوالحلیفہ

لن

مزار

بلد

الحجۃ

لن

مقلل

قند

آج

کتید

عشقان

مندیہ

مکہ مکرمہ

سریہ ابن ابی العوجاء سلمیٰ رضی اللہ عنہ بنو سلمیٰ کی طرف (ذوالحجہ 7 ہجری)

حضرت ابن ابی العوجاء سلمیٰ رضی اللہ عنہ پچاس آدمی لے کر بنو سلمیٰ کی طرف گئے۔ وہ لوگ خوب ڈٹ کر لڑے حتیٰ کہ ان کے اکثر لوگ مارے گئے۔ حضرت ابن ابی العوجاء رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہوئے۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ یکم صفر 8 ہجری کی بات ہے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے ابن ابی العوجاء رضی اللہ عنہ کو ذوالحجہ 7 ہجری میں 50 آدمیوں کے ساتھ بنو سلمیٰ کی طرف بھیجا۔ ابن ابی العوجاء رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ کہنے لگے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ان پر نیزے پھینکنے شروع کر دیے۔ بنو سلمیٰ کے لیے کمک پہنچتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ ان میں سے اکثر افراد شہید ہو گئے۔ ابن ابی العوجاء رضی اللہ عنہ بھی شدید زخمی ہو کر گر پڑے پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر چلتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ پہنچے۔ (طبقات ابن سعد: 2/123)


بنو سلمیٰ: قبائل مضر (عدنان) کی یہ شاخ قیس بن عیلان بن مضر کی چوتھی نسل میں سلیم بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس سے منسوب ہے جبکہ ہوازن بن منصور اور غطفان بن سعد بن قیس ان کے ہم نسل تھے۔ مدینے سے ہمسائیگی کے باوجود بنو سلمیٰ اور بنو غطفان ہمیشہ مسلمانوں کے درپے آزار رہے۔ نبی کریم ﷺ کے پردادا ہاشم کی ماں عاتکہ بنت مرہ بن ہلال بنو سلمیٰ سے تھی۔ بنو سلمیٰ نجد اور حجاز کے کئی سوسیل وسیع رقبے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے دیار شمال میں مدینہ جنوب میں مکہ اور مشرق میں نجد تک وسیع تھے۔ اس قبیلے کی کچھ شاخیں سوار قبیلہ ربذہ (ابوذر رضی اللہ عنہ کا مسکن) اور صفینہ میں رہتی تھیں۔ عہد نبوی میں بعض بنو مسلم سلمیٰ اپنی سونے کی کان کی زکوٰۃ مدینے بھیجا کرتے تھے۔ عرب کی سب سے بڑی شاعرہ الخنساء اور اس کے بیٹے عباس بن مرداس کا تعلق بنو سلمیٰ ہی سے تھا۔ بدر سے واپسی پر نبی ﷺ نے بنو سلمیٰ کی ایک شاخ کو سزا دینے کے لیے قرقرۃ الکدر تک کوچ فرمایا تھا کیونکہ بقول ابن حزم سلیم اور غطفان مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ 3ھ میں آپ ﷺ دوبارہ بحر ان تشریف لے گئے۔

بر معونہ کا المناک واقعہ بھی بنو سلمیٰ کے علاقے میں پیش آیا۔ جنگ خندق میں شمال و مشرق سے غطفان اور بنو سلمیٰ بھی مدینے پر چڑھ آئے تھے۔ 7ھ میں غزوہ خیبر میں پہلی دفعہ ایک مسلمان سلمیٰ حجاج بن علاط رضی اللہ عنہ شریک نظر آئے۔ وہ شاعر اور

تاجر تھے۔ پھر چند ماہ بعد ایک اور سلمیؓ ابن ابی العوجاءؓ کو بنو سلیم کے ایک گروہ کے خلاف بھیجا گیا۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں سلمی سواروں کا ایک دستہ موجود تھا جس کا قائد نبی ﷺ نے خالد بن ولیدؓ کو مقرر کیا تھا۔ حضرت علیؓ کو جب نبی ﷺ نے بنو سلیم کی تنبیہ کے لیے روانہ فرمایا تو انہوں نے بنو سلیم کے علاقے میں ”مقدس“ کھجور کا درخت جس پر شہد کی کھیاں چھتے لگائے ہوئے تھیں، کاٹ دیا۔ اس کے بعد بنو سلیم کے وفد نے مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم ﷺ نے خالد بن ولیدؓ کو طائف کے قریب نخلہ میں ایک مقدس درخت کے نیچے نصب ”العزیٰ“ کا بت منہدم کرنے کے لیے بھیجا جس کی نگرانی بنو سلیم کی شاخ بنو شیبان کے ذمے تھی۔ نبی اکرم ﷺ کی وفات پر ہوازن کی طرح بنو سلیم نے بھی ارتداد اختیار کیا مگر حضرت ابوبکرؓ کا بے نظیر استقلال سب کو راہ راست پر لے آیا۔ بنو سلیم حضرت عثمانؓ کے وفادار اور حضرت امیر معاویہؓ کے ہاں مقرب رہے تاہم دیگر قیس قبائل کی طرح بنو سلیم نے بھی مروان بن حکم کے بجائے عبداللہ بن زبیرؓ کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے قبائل یمن اور قیس میں اختلاف مستقل اور موروثی بن گیا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 11)





سریہ غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ

گدید کی طرف (صفر 8 ہجری)

حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بنو لیث کے ایک قبیلے بنو ملاح کی سرکوبی کے لیے گئے تھے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کو تقریباً پندرہ سولہ افراد کے ساتھ صفر 8 ہجری میں کدین نامی جگہ پر بنی مُلُوح کی طرف بھیجا۔ نبی ﷺ نے انہیں ہدایت کی کہ دشمن پر اچانک حملہ کر دینا۔ جندب بن مکیت جہنی چلتا ہوا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور بہت سارے مویشی ہانک کر لے آئے۔ بنی ملوح ایک بہت بڑی جمعیت لے کر ہمارے تعاقب میں روانہ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان سیلابی پانی کو حائل کر دیا اور وہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ (طبقات ابن سعد: 2/124، 125)

گدید: یہ حجاز میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ مکہ سے بیالیس (42) میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی ﷺ رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کے صحابہ جو گدہ نے بھی۔ جب کدین پہنچے تو روزہ افطار کیا۔ (معجم البلدان: 4/442)

غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ: دیکھیے عنوان ”سریہ غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ (مفہم)“

سریہ غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ

فَدَک کی طرف (صفر 8 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت غالب لیشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اللہ کا نام لے کر چلو حتیٰ کہ وہاں پہنچو جہاں بشیر بن سعد کے ساتھی شہید ہوئے تھے۔“ وہ 200 آدمی لے کر گئے اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا بدلہ لیا۔



سریہ شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ ”نسی“ کی طرف (ربیع الاول 8 ہجری)

ان کے ساتھ چوبیس آدمی تھے۔ ان کا مقصد ہوازن کی ایک جماعت کی سرکوبی تھا جو لوگ مقام ”نسی“ میں رہتے تھے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے ربیع الاول 8ھ میں شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو 24 آدمیوں کے ساتھ ”نسی“ نامی جگہ کی طرف بھیجا جو معدن کے پیچھے رقبہ کی جانب ہے۔ یہ مدینہ سے پانچ رات کے فاصلے پر ہے۔ یہ لشکر دن کے وقت چھپا رہتا اور رات کے وقت سفر کرتا یہاں تک کہ ہوازن کے جتھے کی غفلت کی حالت میں اچانک ان پر حملہ کر دیا اور مال غنیمت میں بہت سارے اونٹ اور بکریاں لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ (طبقات ابن سعد: 2/127)

شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ: یہ سابقون اولون اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ وہ بدر میں بھی حاضر ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں مذکورہ سریہ کے علاوہ حارث بن ابی شمر اور جہلم بن اسیم کی طرف بھی بھیجا تھا۔ شجاع رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ (الاصابہ: 3/256)

نسی: یہ بصرہ سے مکہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر واقع ایک جنگل ہے جہاں چور پناہ لیا کرتے تھے۔ (معجم البلدان: 3/301)

ہوازن: دیکھیے عنوان ”حرب فجار“



سریہ کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ ذاتِ اطلاق کی طرف (ربیع الاول 8 ہجری)

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پندرہ آدمی تھے۔ وہ انہیں لے کر ذاتِ اطلاق مقام پر پہنچے جو وادیِ القرئی سے آگے واقع تھا لیکن یہ سب لوگ شہید ہو گئے۔ صرف ایک شخص بچا وہ بھی زخمی تھا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچا اور سارا واقعہ آپ ﷺ کو بتلایا۔ آپ کو یہ سن کر سخت صدمہ پہنچا۔

اضافی توضیحات و تشریحات


رسول اللہ ﷺ نے ربیع الاول 8ھ میں کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ کو 15 افراد کے ساتھ ”ذاتِ اطلاق“ نامی جگہ کی طرف بھیجا جو کہ وادیِ القرئی سے آگے ہے۔ وہاں انہیں دشمنوں کی کثیر تعداد کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی اور تیر برسائے شروع کر دیے۔ جب اصحاب رسول نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے شدید لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ صرف ایک زخمی آدمی بچ نکلے جس میں کامیاب ہوسکا۔ اس نے جا کر بتایا تو نبی ﷺ پر بڑا گراں گزرا۔ آپ نے ایک لشکر بھیجے کا فیصلہ کیا لیکن پتا چلا کہ دشمن کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں تو آپ نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ (طبقات ابن سعد: 2/127-128)

کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ: یہ کبار صحابہ میں سے تھے۔ انہیں نبی کریم ﷺ نے کئی بار سراپا پر بھیجا۔ سریہ ذاتِ اطلاق (شام کی جانب) میں قضاہ قبیلے نے ان کے ساتھی شہید کر دیے تھے اور صرف کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بچ نکلے اور وہ بھی زخمی تھے۔ (اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ: جلد 4 ص 458)

بنو قضاہ: یہ حمیری قحطانی قبیلہ ہے جو قضاہ بن مالک بن عمرو بن مرہ بن زید بن مالک بن جحیم سے نسبت رکھتا ہے۔ بعض علمائے انساب اسے عدنانی قبیلہ قرار دیتے ہیں جو قضاہ بن معد بن عدنان کی اولاد ہے۔ ان کی بستیاں شحر (يمن) نجران، حجاز اور شام میں تھیں۔ الاقبیسر نامی ان کا بت تھا جس کے استھان کا حج کرنے آتے اور وہاں سرمنڈاتے تھے۔ ان میں سے بعض نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ (معجم قبائل العرب۔ جلد 3 ص 957-958)

ذاتِ اطلاق اور ذاتِ السلاسل کے سریہ شمالی عرب میں قضاہ کے علاقے میں پیش آئے تھے۔





غزوہ موتہ (غزوہ جیش الامراء) (جمادی الاولیٰ 8 ہجری)

شام کے گورنر حمیل بن عمرو غسانی نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد حضرت حارث بن عمیر از دی جہنم کو شہید کر دیا تھا۔ آپ نے اسے سزا دینے کے لیے جنوبی اردن کے شہر بلقاء کی طرف مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔“

اتفاق یہ ہوا کہ یہ تینوں امراء یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ پھر جہنم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تو وہ لشکر کو بحفاظت مدینہ منورہ واپس لے آئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور بہت سے عربوں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

موتہ: اردن کا ایک شہر جو ایک زرخیز میدان میں بحیرہ مردار کے جنوبی کونے کے مشرق میں اور کرک کے جنوب میں دو گھٹنے کی مسافت پر واقع ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 731/21)

شرحیل بن عمرو غسانی نے رسول اللہ ﷺ کے سفیر حارث بن عمیر از دی جہنم کو قتل کر دیا تو نبی ﷺ نے اس کا قصاص لینے کے لیے تین ہزار کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہر قتل ایک لاکھ کا لشکر لے کر ”موتہ“ میں خیمہ زن ہے اور اس کے ساتھ مزید ایک لاکھ نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے دو راتیں مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ ﷺ کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں گرمادیا کہ ”اب آپ لوگ جس بات سے کترار ہے ہیں یعنی شہادت‘ یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔“ انہوں نے کہا: ”ہم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں لڑتے بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے دو خوبیاں ہیں غلبہ یا شہادت۔“

لوگوں نے کہا: ”واللہ! ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔“ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر ”موتہ“ میں پڑاؤ ڈال دیا پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔

اب کیا تھا ایک خوفناک اور سنگین معرکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ تین ہزار جانناز دو لاکھ

کے لشکر جبار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدوڑے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس بھاری بھر کم زوی لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا، لیکن اس مختصری نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔

مسلمانوں کا ”علم“ پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لیا۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھس گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ”علم“ سنبھالا اور خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو جعفر رضی اللہ عنہ اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے اس کی کوئی نہیں کاٹ دیں اور دشمن پروار پروار کیے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ آسمانی فضا میں لہراتا رہا یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیروں کے نوے سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا اور آگے بڑھے پھر اپنے منعمغہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم سنبھال لیا اور اسلامی لشکر کو بحفاظت پیچھے لے آئے۔

(مخلص از فتح الباری، سیرت ابن ہشام، زاد المعاد، صحیح بخاری)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی کو بچپن ہی میں بنو قین کے غارنگروں نے اغوا کر کے بازار میں بطور غلام فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بن خویلد نے انہیں خرید لیا اور کئے لاکر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو زمانہ بعثت سے قبل ہدیہ حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد حارثہ مکہ مکرمہ پہنچے تاکہ انہیں آزاد کرائیں، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے علیحدگی گوارا نہ کی۔ اس پر آپ ﷺ نے انہیں آزادی عطا کی اور اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا۔ یوں ان کا نام زید بن محمد (رضی اللہ عنہ) مشہور ہو گیا۔ (اسد الغابہ: 2/350، 351)

حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی نبی کریم ﷺ کی پھوپھی زاد زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوئی جو طلاق پر منتج ہوئی اور پھر زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے عقد میں آئیں۔ زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کا ذکر سورۃ احزاب میں آیا ہے اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں مذکور ہے۔

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ: جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی اور ان سے دس سال بڑے تھے۔ جب ابو طالب تنگدست ہو گئے تو جعفر رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کے سر سے کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں جعفر رضی اللہ عنہ کا مقام چوبیسواں یا تیسواں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہٴ خیبر کے موقع پر یہ حبشہ سے واپس آئے۔ غزوہٴ موتہ میں ان کے دونوں بازو کاٹ گئے تھے۔ اس پر نبی ﷺ نے فرمایا:


”اللہ نے انہیں دو بازوؤں کے عوض دو پر عطا کر دیے ہیں جن کے ذریعے سے یہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں“ اس لیے انہیں جعفر طیار کہا جانے لگا۔ (ملخص از اسد الغابہ جلد: 1۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد: 7)

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ: ان کا نسب نامہ یوں ہے: عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ بن عمرو القیس انصاری خزرجی۔ یہ بڑے مشہور شاعر تھے۔ عقبہ ثانیہ کی رات انہیں بھی نقیب مقرر کیا گیا۔ بدر اور دیگر غزوات میں حاضر ہوئے۔ فتح بدر کی بشارت مدینہ میں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا: ”عبداللہ انتہائی اچھا آدمی ہے۔“ وہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے۔ (الاصابہ: 73/72/4)


حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ: خالد بن ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ایک عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح تھے۔ ان کی کنیت ابوسلمیان اور ابوولید اور لقب سیف اللہ تھا۔ سلسلہ نسب ساتویں پشت (یعنی مرثد بن کعب بن لؤی) میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ تک کفار مکہ نے اہل اسلام کے خلاف جتنی جنگیں لڑیں ان میں وہ شریک تھے۔ عمرۃ القضاء (7ھ) کے بعد مسلمان ہوئے۔ انہوں نے فتنۂ ارتداد کا استیصال کرنے اور قیصر و کسریٰ کی سطوت و حشمت ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ساٹھ سال کی عمر میں حمص (شام) میں ہوئی۔ (ملخص: الاصابہ، اسد الغابہ، الاستیعاب، سیر اعلام النبلاء)



←
معمر کہ موتہ کا میدان اس کے پس منظر میں
وہ ٹیلہ بھی نظر آ رہا ہے جدھر سے حضرت خالد
بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کو بحفاظت نکال
لے گئے



→ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا مدفن




↑ غازیان موتہ کا مقام شہادت

↓ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا مدفن



→ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مدفن



سریہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ذات السلاسل کی طرف (جمادی الآخرہ 8 ہجری)

قضاء قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کو تڑپ کر کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تین سو مہاجرین و انصار لے کر ”ہبلی“ کے علاقے میں پہنچے اور بنو عذرہ اور بلقین کے لشکر کو بھگا دیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

اس جنگ کا نام ”ذات السلاسل“ اس لیے ہے کہ مشرکوں نے اس خوف سے کہ ان کے آدمی جنگ سے بھاگ نہ جائیں ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام ”سلسل“ تھا۔ یہ جنگ اس کے قریب ہوئی تھی اس وجہ سے اس کا نام جنگ ”ذات السلاسل“ پڑ گیا۔ یہ مقام وادی القرئی سے آگے ہے اور مدینہ سے دس یوم کے فاصلے پر ہے۔ صاحب ”ہبلی“ نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جنگ جمادی الآخرہ 8ھ میں ہوئی تھی۔

اس کا سبب یہ ہوا کہ نبی ﷺ کو خبر ملی کہ قضاء قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے عمرو بن عاص کو بلا دیا ان کو ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا دیا اور تین سو سرکردہ مہاجرین و انصار کا لشکر دے کر قضاء کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں کے پاس میں گھوڑے تھے۔ نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ جاتے ہوئے بلی عذرہ اور بلقین کے قبائل سے بھی مدد لے لیں۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ رہے تھے۔ جب محاذ جنگ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے اس لیے مزید مدد لینے کے لیے انہوں نے رافع بن مکیت جہنی رضی اللہ عنہ کو نبی ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دو سو آدمیوں کا لشکر دے کر ان کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اس لشکر میں شامل تھے۔

مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر بھاگ گئے اور مختلف اطراف میں منتشر ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کی بشارت اور اپنی واپسی کی اطلاع دینے کے لیے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں روانہ کیا۔ (مختصر سیرۃ الرسول: ص 330-331)

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آپ نسباً سہمی قریشی اور صحابی رسول ﷺ ہیں۔ تاریخ اسلام میں انہوں نے جو حصہ لیا اس کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ 8ھ میں مسلمان ہوئے۔ اس وقت وہ ضرور اویس عمر کے ہوں گے کیونکہ اپنی وفات کے وقت جو تقریباً 42ھ میں ہوئی ان کی عمر 90 سال سے تجاوز کر گئی تھی۔


نبی ﷺ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو عمان کی طرف روانہ کیا۔ وہاں کے حاکم جیفر اور عباد پسران جلندی ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شام کی فتوحات میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ فتح مصر ہے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے خوش گفتار اور شیریں بیاں خطیب، قادر الکلام مدبر سیاستدان اور سپہ سالار تھے۔ رسول اللہ ﷺ عسکری مہموں میں ان پر اعتماد فرماتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ام عبداللہ رضی اللہ عنہا پر مشتمل خاندان کو بہترین گھرانہ قرار دیا گیا۔ ان سے 39 احادیث مروی ہیں۔

(سیر اعلام النبلاء البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ)

قصاصہ: دیکھیے عنوان ”سریہ کعب بن عمیر غفاری (ذات اطلاع)“





سریہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ”قبیلہ“ کی طرف (رجب 8 ہجری)

اسے سریہ خط بھی کہتے ہیں کیونکہ خوراک کی قلت کی وجہ سے مسلمانوں کو پتے کھانے پڑے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ساتھ تین سو آدمی تھے۔ مقصود جہینہ کے ایک قبیلے کی سرکوبی تھا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا جو تین سو مجاہدین پر مشتمل تھا۔ ان پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ اس مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے پر حملہ کرنا تھا۔ جابر کہتے ہیں: جب ہم نے کچھ فاصلہ طے کیا تو ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا زاد راہ لے آئیں۔ سب نے اپنا اپنا بچا ہوا زاد راہ جمع کیا اور یہ کھجوریں تھیں جن سے صرف ایک مشکیزہ بھرا جا سکا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہم کو اس سے ہر روز تھوڑی تھوڑی کھجوریں دیتے تھے۔ جب یہ بھی ختم ہو گئیں تو روزانہ فی کس ایک ایک کھجور تک نوبت پہنچی۔ ایک شخص نے کہا: ”ایک کھجور سے آپ کا کیا بنتا ہوگا؟“ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”جب وہ بھی ختم ہو گئیں تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا تھا۔“ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہمیں سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ ہم نے درختوں کے پتے کھائے۔ اسی لیے اس لشکر کا نام ”ہیش الخبط“ (پتے جھاڑ کر کھانے والا لشکر) پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور سمندر نے ایک بڑا جانور جس کو ”عزبر“ کہتے ہیں ہمارے لیے کنارے پر پھینک دیا۔ ہم نے اس کو 18 دن تک کھایا اور اس کی چربی سے تیل کا کام لیا اس سے ہمارے جسم خوب فربہ اور موٹے ہو گئے۔ واپس آتے وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی دو پسلیاں کھڑی کیں اور لشکر میں سب سے لمبے آدمی کو اونٹنی پر بٹھا کر اس کے نیچے سے گزارا جو اس کو چھوئے بغیر اس کے نیچے سے گزر گیا۔ (بخاری حدیث 4360، 5494)


نوٹ: معلوم ہوتا ہے ”عزبر“ دراصل کوئی وہیل ”مچھلی“ تھی جو دنیا کا سب سے بڑا حیوان ہے۔

ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عامر بن عبد اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا لقب امین الامہ تھا۔ ان کی والدہ امید بنت غنم رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئیں تھیں جبکہ ان کا باپ عبد اللہ بحالت کفر غزوہ بدر میں انہی کے ہاتھوں قتل ہوا۔

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ان کا رشتہ مواخاۃ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ سے جوڑا گیا۔ وہ تمام غزوات میں نبی ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے کئی فوجی مہموں میں انہیں سربراہ بنا کر بھیجا۔ 9ھ میں جب وفد نجران یمن واپس گیا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں بھی تبلیغ اسلام اور صدقات کی وصولی

کے لیے اس کے ساتھ روانہ کیا۔ یہی موقع تھا جب نبی ﷺ نے انہیں ”امین الامہ“ قرار دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں فوجی مہمات میں بھرپور حصہ لیتے رہے۔ انہوں نے شام کی فتوحات میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ 18 ھ میں طاعون عمواس کی وبا کے دوران میں فوت ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 58 برس تھی۔





سریہ حضرت ابوققاده بن ربیع النصارى رضی اللہ عنہ ”خضرہ“ کی طرف (شعبان 8 ہجری)

حضرت ابوققاده النصارى رضی اللہ عنہ پندرہ آدمی لے کر نجد میں بنو محارب کے علاقہ کی طرف گئے۔ مقصد غطفان کی ایک جماعت کو تتر بتر کرنا تھا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے ابوققاده النصارى رضی اللہ عنہ کو شعبان 8ھ میں 15 آدمیوں کے ساتھ خضرہ کی جانب بھیجا جو کہ نجد کے علاقے میں ہے۔ نبی ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ بنو غطفان پر اچانک حملہ کریں۔ اس مقصد کے لیے یہ افراد دن کے وقت چھپے رہتے اور رات کے وقت سفر کرتے۔ انہوں نے بنو غطفان پر حملہ کر دیا۔ جو مد مقابل آیا قتل ہو گیا۔ دوسواونت دو ہزار بکریاں اور بہت سارے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔

خضرہ: یہ نجد میں بنو محارب کی سرزمین ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کے نواح میں تھامہ میں ہے۔ (معجم البلدان جلد 2)
ابوققاده رضی اللہ عنہ: ان کا نام حارث بن ربیع تھا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے شاہ سوار تھے۔ بدر میں ان کا حاضر ہونا مختلف فیہ ہے۔ بدر کے بعد تمام غزوات میں حاضر ہوئے۔ نبی ﷺ نے کئی فوجی مہمات پر انہیں روانہ فرمایا۔ حضرت ابوققاده 54ھ میں مدینہ میں فوت ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کوفہ میں فوت ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(اسد الغابہ: 6/244)



سریہ حضرت ابوققاده بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ بطن اضم کی طرف (رمضان 8 ہجری)

فتح مکہ سے تھوڑے دن قبل کی بات ہے حضرت ابوققاده بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ آٹھ افراد لے کر اس طرف گئے تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ رسول اللہ ﷺ اسی طرف جائیں گے اور سفر مکہ کا شبہ نہ رہے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے ابوققاده بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کو رمضان 8ھ میں آٹھ افراد کے ساتھ بطن اضم کی طرف بھیجا۔ مدینہ اور اس کے درمیان تقریباً 58 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔

جب نبی ﷺ نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ابوققاده انصاری رضی اللہ عنہ کو بطن اضم (ذی خُشْب اور ذی مروہ کے مابین) کی جانب بھیجا تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ اس طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لشکر میں مُحَلِّم بن جثامہ لیشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عامرا شجعی ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے سلام کیا۔ دوسرے افراد نے تو انہیں کچھ نہ کہا، لیکن حضرت محلم بن جثامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دیا اور ان کا ساز و سامان لے لیا۔ جب یہ نبی ﷺ کے پاس پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَارِضُ كَثِيرَةٌ ۖ... الخ﴾

”اے ایمان والو! جب تم زمین میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کہے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں..... الخ“ (النساء: 94)

راستے میں کسی دشمن سے ان کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ یہ سقیانی جگہ پر نبی ﷺ سے مل گئے۔

(طبقات ابن سعد: 2/133)

اَضْم: (بطن) اضم اشج اور جہینہ قبائل کی وادی ہے۔ ذواضم ایک نشیبی علاقہ ہے جہاں ایک چشمہ ہے اور حناطل نامی بستیوں ہیں اس کا سرایاے نبوی میں ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اضم جبال تہامہ کی ایک وادی ہے نیز یہ وہ وادی ہے جس میں مدینہ واقع ہے۔ یہ وادی حجاز سے نکل کر سمندر میں گرتی ہے۔

(مجمع البلدان جلد 1)



فتح مکہ (فتح اعظم)

(رمضان 8 ہجری)

قریش نے خود ہی صلح حدیبیہ کی شرائط توڑ ڈالیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کی اور بنو خزاعہ کے بیس آدمی قتل کر ڈالے۔ بعد میں قریش کو اس پر ندامت ہوئی۔ ادھر عمرو بن سالم خزاعی چالیس سوار لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ اس نے پوری تفصیل بیان کی اور آپ ﷺ سے مدد طلب کی لہذا آپ دس ہزار آدمی لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ نتیجتاً فتح عظیم حاصل ہوئی، بت توڑے گئے اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں کلمہ توحید گونجنے لگا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

حدیبیہ میں جو معاہدہ فریقین کے مابین طے پایا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگی، نیز قبائل عرب کو اختیار ہے کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں مل سکتے ہیں۔ اور فریقین میں سے کسی کو دوسرے کے حلیف پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود قبیلہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا حلیف بن گیا تھا اس کے حریف بنو بکر قریش کے معاون بن گئے اور انہوں نے مل کر حرم کے اندر بنو خزاعہ کو قتل کیا۔ اس سانحہ کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ شکایت لے کر دربار محمدی میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم ﷺ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا کہ وہ مقتولین کا خون بہا ادا کریں یا بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں ورنہ پھر اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔

یہ شرائط سن کر قریش کی جانب سے قرظہ بن عمر نے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ (زر قانی جلد 2) لیکن جب نبی ﷺ کا قاصد قریش کا یہ فیصلہ سن کر مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا تو بعد میں قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے فوراً ابوسفیان کو تجدید عہد کے لیے مدینہ بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے مگر اب نبی ﷺ کعبہ شریف کو بتوں کی نحوست سے پاک کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی لیے آپ نے تجدید عہد سے گریز کیا اور ابوسفیان کے لوٹ جانے کے بعد قطیف کعبہ کی تیاریاں شروع فرمادیں۔ غرض 10 رمضان المبارک 8ھ کو مکہ مشرف کی طرف بڑھے۔ دس ہزار مسلح جاں نثار ہمرکاب تھے۔ مَرَّ الظُّهْرُ ان میں جو مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر تھا، محمدی فوج فروکش ہوئی۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی جس سے تمام صحرا وادی نور بن گیا۔ قریش کو بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے تحقیق حال کے لیے حکیم بن حزام (سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے) ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء کو بھیجا۔

خیمہ نبوی کے محافظ دستہ نے انہیں گرفتار کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گویا ہوئے کہ اب کفر کے امتیصال کا وقت آ گیا ہے، مگر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی جان بخشی کی استدعا کی جسے شرف قبولیت سے نوازا

گیا۔ ابوسفیان کے گزشتہ تمام کارنامے سب کے سامنے تھے۔ ان میں سے ہر ایک فعل اس کے قتل کا متقاضی تھا، لیکن نبی اکرم ﷺ نے بے پایاں غفو سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اس خلق عظیم کا اثر قلب ابوسفیان پر اس قدر جلد ہوا کہ وہ فوراً حلقہ گوش اسلام ہو گئے۔ رحمۃ للعالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کریں تاکہ اسلامی فوج کے جلال کا مظاہرہ کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد لشکر اسلام موج در موج مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو علم نبوی مقام حجوں میں نصب کرنے کا ارشاد فرمایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کی کمان کرتے ہوئے زیریں علاقہ سے داخل ہونے کا حکم صادر فرمایا اور خود بالائی سمت سے تشریف لائے۔ (بخاری جلد 2)

قریش میں اس لشکر جرار کے مقابلہ کی جرأت نہیں تھی۔ انہیں جان کے لالے پڑ گئے، لیکن رحمۃ للعالمین ﷺ نے اپنے جان نثاروں سے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی شخص حملہ آور نہ ہو اس پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ جو آدمی ابوسفیان کے گھر پناہ لے اسے امان دی جائے۔ جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس پر چڑھائی نہ کی جائے۔ جو کوئی کعبہ شریف میں داخل ہو جائے اسے امن دیا جائے اور جو شخص بھاگ جائے اس کا تعاقب نہ کیا جائے۔ (مسلم جلد 2)

فتح مکہ کے موقع پر نبی ﷺ نے منی میں خیف بنی کنانہ کے مقام پر قیام فرمایا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کفار نے مسلمانوں کے خلاف باہم متحد رہنے کا عہد و پیمان کیا تھا۔

کعبہ اللہ جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار تھی، اس کی آغوش میں بت جاگزیں تھے جنہیں امام الانبیاء ﷺ الہی کی ٹھوکر سے گراتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے:

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَذَقُّوا الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا﴾ (بخاری جلد اول)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کعبہ شریف میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی تھے جن کے ہاتھوں میں تیر تھمائے گئے تھے۔ نبی ﷺ نے انہیں اور دیگر سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینکوا دیا۔

آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کعبہ کی دیواروں پر جتنی تصویریں بنی ہیں انہیں مٹا دیں۔ جب کعبہ شریف شرک کی آلائشوں سے پاک صاف ہو گیا تو نبی ﷺ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے چابی طلب فرمائی اور حضرت بلال اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ (بخاری جلد اول)

اس کے بعد آپ ﷺ نے قریش کے سامنے توحید و رسالت پر مبنی ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں عام معافی کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا: لَا تَغْرِبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ إِذْ هَبُوا فَاَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ ”تم سے آج کوئی مواخذہ نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو۔“

20 رمضان المبارک 8ھ بروز جمعہ مکہ معظمہ فتح ہوا اور دس یا پندرہ دن قیام کرنے کے بعد آپ ﷺ حنین تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: نبی ﷺ کے ساتھ ہم دس دن مکہ میں رہے اور نماز قصر پڑھتے رہے۔ البتہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں 19 دن قیام کرنے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب المغازی)
 فتح مکہ کے سیاسی اثرات: مکہ معظمہ فتح ہونے کے بعد قریش کا جاہ و جلال اور شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ عرب کے تمام قبائل اس انتظار میں تھے کہ قریش اور مسلمانوں میں سے کون سا فریق غالب اور فاتح بنتا ہے تاکہ وہ بھی اسی کی رفاقت اختیار کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی تصویر ساری دنیا نے دیکھ لی:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝﴾ ”جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور

فتح آگئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔“ (النصر: 110/1-2)


9ھ میں قبائل عرب کے نمائندہ وفد اس کثرت سے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام ہی ”عام الوفود“ مشہور ہو گیا۔ بنو تمیم، ملوک حمیر، اہل نجران، سلامان، ازد، ہمدان، ملوک کندہ، عبد قیس، بنو حنیفہ، کندہ، وائل بن حجر، مذحج، محارب، حضر موت، عیس، خولان اور طے کے وفد آئے۔ گویا کہ سارا عرب اُنڈر پروانہ وار شمع رسالت کے گرد جمع ہو گیا۔
 مَرُّ الظُّهْرَانِ: مَرُّ يَامُرُ كُرُوْءِے کو کہتے ہیں۔ مَرُّ الظُّهْرَانِ مکہ سے مدینہ کے راستے پر 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کو وادی فاطمہ بھی کہتے ہیں۔

گَدِيدُ: مکہ سے مدینہ کے راستے پر غطفان اور قَدِيدِے کے درمیان ایک وادی ہے جس میں پانی بکثرت ہوتا ہے۔ یہاں بکھجور کے باغات ہیں۔ فتح مکہ کے سفر میں رسول اللہ ﷺ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب کَدِيدِے پہنچے تو روزے سے صحابہ کو خاصی مشقت ہوئی، لہذا آپ نے روزہ افطار کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی افطار کر لیا۔

(معجم ما استعجم: 4/1119، 1120)

حُجُّونَ: دیکھیے باب ”عمرۃ القضاء“






فتح مکہ (20 رمضان 8ھ)

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾

”جب آنی مدد اللہ کی اور فتح“ (النصر: 1/110)



سریہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نخلہ کی طرف (رمضان 8 ہجری)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیس سواروں کے ساتھ قریش اور بنو کنانہ کے خصوصی بت عزری کو گرانے کے لیے نخلہ گئے جہاں یہ بت نصب تھا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اور بنو سلیم کے لوگ اس کی خدمت اور حفاظت کیا کرتے تھے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے رمضان 8 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ عزری نامی بت کو گرانے کے لیے بطن نخلہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے گرا کر واپس آئے تو نبی ﷺ نے پوچھا: کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے: نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے اسے نہیں گرایا، جاؤ دوبارہ گرا کر آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انتہائی غصے کے عالم میں واپس گئے۔ اپنی تلوار میان سے نکالی تو ایک نگی سیاہ رنگ کی، نکھرے بالوں والی عورت سامنے آئی۔ دربان چچنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے مار کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور واپس جا کر رسول اللہ ﷺ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا: ہاں یہ عزری تھی وہ اس بات سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب تمہارے شہروں میں اس کی پوجا ہو۔ یہ دیوی نخلہ نامی جگہ میں تھی۔ قریش اور بنو کنانہ اس کی پوجا اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ بنو شیبان اس کے نگران تھے۔

(طبقات ابن سعد: 2/145، 146)

نخلہ: مکہ سے دورات کے فاصلے پر ہذیل کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں حراض نامی جگہ پر عزری کا استھان تھا۔

(معجم البلدان: 2/234، 277)


خالد بن ولید رضی اللہ عنہ: رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی، ایک عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح تھے۔ ان کی کنیت ابو سلیمان اور ابو ولید اور لقب سیف اللہ تھا۔ سلسلہ نسب ساتویں پشت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ ﷺ سے جاملتا ہے۔ ان کی والدہ لبابہ صغریٰ بنت حارث تھیں جو ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا اور لبابہ کبریٰ والدہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہم شیرہ تھیں۔

حضرت خالد بن ولید پہلے پہل مخالفین اسلام کے ہم نوار ہے۔ غزوہ احد میں ان کی جنگی چال کے باعث مسلمانوں کا خاصا جانی نقصان ہوا۔ ان کی اصل زندگی اس وقت شروع ہوئی جب یہ صلح حدیبیہ کے بعد دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف معرکوں میں لشکر اسلام کی قیادت کی

اور شاندار جنگی کارنامے انجام دیے۔

جنگی مہارت و صلاحیت کے سلسلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دنیا کے تمام سوارِ نگراروں نے خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔ ان کے جنگی کارنامے اور تدابیر نہ صرف اسلام کی حربی تاریخ بلکہ دنیا کے عسکری قائدین اور ماہرین کے سوارِ نگاروں کی تصانیف کا سنہرا اور قابلِ مطالعہ باب ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات 21ھ میں حمص یا مدینہ میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی۔
(الاستیعاب، الاصابہ، ابن ہشام)





سرۃ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بنو ہذیل کی طرف (رمضان 8 ہجری)

ان کا مقصد بنو ہذیل کے بت سواع کو زیروزیر کرنا تھا۔

امضائی توضیحات و تشریحات


رسول اللہ ﷺ نے رمضان 8ھ میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنو ہذیل کے بت سواع کو گرانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک دربان تھا۔ وہ پوچھنے لگا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نبی ﷺ نے مجھے اسے گرانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا تم اسے نہیں گرا سکتے۔ میں نے کہا افسوس تم ابھی تک باطل پر قائم ہو۔ کیا یہ دیکھ اور سن سکتا ہے؟ پھر میں نے اسے توڑ دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اس کا بیت المال بھی توڑ دو لیکن اس میں کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے دربان سے کہا اب تمہارا کیا خیال ہے۔ وہ کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ (طبقات ابن سعد: 2/146)

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دیکھیے ”سرۃ ذات السلاسل“

بَنُو هٰذِل: یہ ہذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان کی اولاد سے تھے۔ ان کی بستیاں سروات، جبل غزوہ، ان، نزد طائف، نجد، تہامہ (مکہ اور مدینہ کے درمیان) میں تھیں۔ ان میں غرہ، غرہ، غرہ، بطن نعمان، نخلة، رحیل، البوبارہ، اوطاس، ہروم، العین، انف، موازج وغیرہ مشہور تھیں۔ الحجاز، الرجیع اور بزمعونہ ان کے مشہور کنوئیں تھے۔ مکہ اور مدینہ کے مابین یہ منات کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی دو بڑی شاخیں تھیں: سعد بن ہذیل اور لحيان بن ہذیل۔ بنو سعد کا الگ بت تھا۔ اور ایک بت (سواع) زہاط کے مقام پر تھا جس کا وہ حج کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 8ھ میں اسے گرا دیا۔

(معجم قبائل عرب جلد 3)





سریہ سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ مُشَلِّل کی طرف (رمضان 8 ہجری)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ میں شہسوار لے کر ”منات“ بت کی شکست و ریخت کے لیے گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات


رسول اللہ ﷺ نے رمضان 8ھ میں سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو بیس سواروں کے ساتھ منات کو گرانے کے لیے بھیجا۔ منات مشلل نامی جگہ پر تھا۔ اوس خزر ج اور غسان اس کی پوجا کرتے تھے۔

جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو خدمت گار کہنے لگے: کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: منات کو گرانے کے لیے! وہ بولا: تم میں اتنی طاقت کہاں؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بت کی جانب بڑھے تو ایک سیاہ رنگ کی بکھرے بالوں والی ننگی عورت، بین کرتی اور سینہ چیلتی سامنے آئی۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے مل کر بت گرادیا۔ اس کے خزانے سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ اپنی مہم سے فارغ ہو کر یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آ گئے۔ (طبقات ابن سعد: 2/146-147)

منات: اس کا سب سے بڑا معبد بنو ہذیل میں قُذَیْد کے مقام پر ایک سیاہ پتھر تھا۔ یہ جگہ مکہ سے تھوڑی ہی دور مدینہ کی راہ پر مشلل نامی پہاڑی کے قریب واقع تھی۔ منات کی پوجا کرنے کے لحاظ سے قبائل عرب میں اوس و خزر ج کا نام سرفہرست ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 21/615، 616)

سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ: سعد بن زید انصاری اوسی اشہلی رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ ﷺ کی معیت میں حاضر ہوئے۔





سریہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

بنو جذیمہ کی طرف (شوال 8 ہجری)

یہ لوگ مکہ مکرمہ کے نشیب میں یلمم کی طرف رہتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ 350 آدمی تھے۔ اسی لڑائی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے بہت سے قیدی غلظی سے قتل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ مقتولین کی دیمت ادا کریں اور ان کے نقصانات کی تلافی کریں۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شوال 8ھ میں ساڑھے تین سو افراد کے ساتھ جوکہ مہاجرین، انصار اور بنو نسیم پر مشتمل تھے بنو جلدیمہ کی طرف بھیجا۔ یہ مکہ کے نشیبی علاقے میں یلمم کی طرف آباد تھے۔


نبی ﷺ نے انہیں دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا لڑنے کے لیے نہیں۔ جب یہ لشکر ان کے پاس پہنچا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم کیا ہو؟ وہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں محمد ﷺ کی تصدیق کرتے ہیں ہم نے اپنے علاقوں میں مسجدیں بنائی ہیں اور اذانیں دیتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر تم نے یہ ہتھیار کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہمارے اور کچھ عرب قبائل کے درمیان دشمنی ہے۔ ہم ڈرے کہیں وہ نہ آگئے ہوں۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ہتھیار رکھ دو۔ انہوں نے رکھ دیے۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ نے فوج سے کہا انہیں گرفتار کر لو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ صبح حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جس کے پاس قیدی ہیں وہ انہیں قتل کر دے۔ بنو سلیم نے اپنے قیدیوں کو قتل کر دیا جبکہ مہاجرین و انصار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب نبی ﷺ کو اس بات کا پتا چلا تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! میں اس سے لاتعلقی ہوں جو خالد رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ پھر نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنو جذیمہ کے مقتولوں کا فدیہ ادا کرنے کے لیے بھیجا۔ (طبقات ابن سعد: 2/147-148)

یلمم: یہ مکہ سے دورات کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اہل یمن کا میقات ہے اور اس میں مسجد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ مرزوقی کہتے ہیں یہ طائف سے دو یا تین رات کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے یا وہاں ایک داوی ہے۔ (اب یہ جگہ متروک ہو چکی ہے اور اس کے مقابل سعدیہ نامی جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔)

خالد بن ولید رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ (مختلہ)





محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اصحابِ الاخدود (کھائیوں والوں) کی کھائیوں کے آثار

غزوہ حنین (غزوہ ہوازن) (شوال 8 ہجری)

”حنین“ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں ہوازن اور بنو ثقیف مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کی قیادت مالک بن عوف نصری کے پاس تھی۔ یہ وادی اوٹاس میں مورچہ زن ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے لشکر سمیت ان کی طرف چلے۔ آپ کے ساتھ دس ہزار توہنی صحابہ تھے اور دو ہزار مکہ والے نو مسلم شامل ہو گئے۔ پہلے تو مسلمان دشمن کے چپے ہوئے تیر انداز لشکر کی تاب نہ لا سکے اور بھگدڑ مچ گئی مگر بالآخر مسلمانوں نے ان کو شکست فاش دی۔ وہ ایسے بھاگے کہ طائف پہنچ کر سانس لیا۔ ان کا تمام مال و متاع جمع کر کے جعفرؓ انہ پہنچا دیا گیا اور خود مسلمان ان کے پیچھے طائف پہنچ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

20 رمضان 8 ہجری کی فتح مکہ کے بعد قبائل ہوازن اور ثقیف میں سراسیمگی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور یہ دونوں قبیلے سمجھتے تھے کہ قریش کے بعد اب مسلمانوں کا اگلا ہدف اور نشانہ ہم ہی ہونگے۔ ان کے عقل مند لوگ کہنے لگے: ”اب محمد (ﷺ) کے لیے ہم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔“ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے قبل ان پر حملہ کر دیں۔ ہوازن کے سردار مالک بن عوف نصری نے اپنے قبیلے اور ثقیف کو اکٹھا کر لیا۔ ارد گرد کے قبائل بنو نصر، جشم، سعد بن بکر اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی ان سے مل گئے البتہ ہوازن میں سے کعب اور کلاب کے قبائل شریک نہ ہوئے۔ بنو جشم میں ایک جہاندیدہ شخص زبیر بن صمد بھی تھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی اور اس کی نظر بھی جاتی رہی تھی، وہ لڑائی میں حصہ تو نہیں لے سکتا تھا، البتہ اس کے مشورے جنگی تجربے اور مہارت و معرفت سے فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا۔

بنو ثقیف کا سردار کنانہ بن عبد یلیل تھا۔ اس کے ساتھ قارب بن اسود بن مسعود بن مغتب بھی اہم شخص تھا۔ بنو مالک میں ذوالخمار سیح بن حارث اور اس کا بھائی احمر بن حارث تھے، لیکن تمام لوگوں کا اصل قائد مالک بن عوف نصری ہی تھا۔ وہ فوج کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تمام اموال و اولاد بھی میدان جنگ میں لے آیا تھا۔ اس نے ہوازن کے علاقے میں وادی اوٹاس میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے پاس بیس ہزار سے زائد جنگجو تھے۔

نبی ﷺ 6 شوال 8 ہجری کو 12 ہزار کے لشکر کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ آپ ﷺ کے لشکر میں دس ہزار تو فوج مکہ والا لشکر تھا اور دو ہزار مکہ کے نو مسلم تھے۔ آپ ﷺ 10 شوال کو وادی حنین میں پہنچے۔ مالک بن عوف بھی اپنے لشکر


سمیت وادیِ اوطاس سے اٹھ کر وادیِ حنین میں آ گیا۔ ذرید بن صمہ کے مشورے سے کچھ لشکری وادی کی گھاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ مسلمان لشکر پر اچانک پل پڑیں۔ آپ نے وادیِ حنین میں اپنا لشکر اتارا۔ ان کے سامنے کفار کے گھڑ سوار جنگجو تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا۔ ادھر ہوازن اور ثقیف کے تیر انداز دستوں نے مسلمانوں کے گھوڑوں پر یکبارگی تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن رسول اللہ ﷺ اور آپ کے قریبی چند صحابہ ثابت قدم رہے۔ پھر آپ ﷺ کی کوششوں سے بھاگنے والے بھی لوٹ آئے۔ نبی ﷺ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایسا زوردار حملہ کیا کہ شکست فتح میں بدل گئی۔


حنین: یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی تھی۔ جو مؤلف یا جغرافیہ نگار اس کا ذکر کرتے ہیں وہ متضاد روایتیں بیان کرتے ہیں۔ دراصل یہ گھاٹی مکے سے تیس میل کے فاصلے پر واقع تھی، لیکن کوئی مکے سے اسے اونٹ کی ایک روزہ مسافت، کوئی دو اور کوئی چار دن کی مسافت قرار دیتا ہے۔ بظاہر یہ محض ایک غیر آباد اور بے آب و گیاہ مقام تھا جو 8ھ کے غزوہ نبوی کے باعث تاریخ اسلام میں شہرت پا گیا اور بعد میں کبھی آباد نہ ہوا۔ چونکہ دشمن نے اپنی عورتوں، بچوں اور ریوڑوں کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈالا تھا اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ یہاں پانی کافی تھا اور اس بنا پر کچھ سرسبزی اور شاید نخلستان بھی ہو۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 8)

نوٹ: اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں مکہ مکرمہ سے حنین کا فاصلہ تین میل بتایا گیا ہے جو درست نہیں۔







سریہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ذوالکفین کی طرف (شوال 8 ہجری)

طائف روانگی سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو عمرو بن حُصَمہ دوسی کے بت ”ذوالکفین“ کو زیرِ سر کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے فرمایا: ”اپنی قوم کے مسلمان افراد کو اپنے ساتھ لے لینا اور واپس آ کر ہم سے طائف میں ملنا۔“ وہ بڑی تیزی سے اپنے علاقے کی طرف بڑھے ذوالکفین کو تاخت و تاراج کیا اور اپنی قوم کے چار سو افراد کے ساتھ محاصرہ طائف ہی کے دوران میں آپ ﷺ کے پاس واپس پہنچ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

جب رسول اللہ ﷺ نے طائف جانے کا ارادہ کیا تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی قوم کے افراد کو ساتھ لے کر ذوالکفین (بت) کو گرا آؤ۔ پھر ہمارے پاس طائف چلے آنا۔ انہوں نے جاتے ہی ذوالکفین کو مسمار کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی قوم کے چار سو افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ سب طائف چلے آئے اور اپنے ساتھ دباہ اور مخنیق بھی لے آئے۔

(طبقات ابن سعد: 2/157)

دوس: دیکھیے عنوان قبائل ”ازد“ و ”دوس“
طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ: دیکھیے عنوان قبائل ”ازد“ و ”دوس“



غزوہ طائف (شوال 8 ہجری)

مسلمانوں نے 18 دن تک طائف کا محاصرہ جاری رکھا۔ طائف کے قلعہ کو توڑنے کے لیے مہینق بھی لگائی گئی۔ رسول اکرم ﷺ نے اعلان فرمایا: ”جو غلام ہم سے آ کر مل جائے وہ آزاد تصور ہوگا۔“ نتیجتاً بہت سے غلام قلعے سے اتر کر آپ سے آ ملے اور آپ نے ان کی آزادی کا اعلان فرمادیا اور ہر ایک کو کسی نہ کسی مسلمان کے سپرد کیا تاکہ وہ اس کے اخراجات برداشت کرے۔ پھر آپ نے محاصرہ اٹھالیا۔ جب ثقیف کو یقین ہو گیا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ارد گرد کے سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک وفد 9 ہجری میں آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا جس نے بنو ثقیف کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ حنین کے اختتام پر بنو ہوازن پسپا ہو کر کچھ تو طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے جن میں مالک بن عوف نصری بھی تھا اور کچھ واپس ادھاس چلے گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ایک لشکر روانہ کیا اور خود طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن عوف کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن ایک سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا لہذا اس کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا لہذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے۔

مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا۔ مہینق نصب کی گئی لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جانباڑوں کا ایک گروہ دو دباہوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعہ کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے، جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا۔ ان کے انگوڑ اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے۔


رسول اللہ ﷺ کے منادی نے اعلان کیا: ”جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے، انہی میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، ٹلک کر نیچے آ گئے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ (عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں) غلاموں کا یہ فرار قلعہ والوں کے لیے جانکاہ تھا۔

محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا، چنانچہ تقریباً بیس دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا ایک مہینہ گزر گیا لہذا

رسول اللہ ﷺ نے نوفل بن معاویہ دلی جھوٹا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا: ”لو مڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے۔ اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔“ یہ سن کر آپ ﷺ نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان کے لیے بددعا کریں۔ آپ نے فرمایا: ”اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔“ (صحیح بخاری۔ تجلیات نبوت)

ثقیف سمجھ گئے کہ جب سب عرب بیعت کر کے مسلمان ہو چکے ہیں تو ہم اکیلے کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں لہذا انہوں نے اپنا ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا۔ یہ رمضان المبارک 9 ہجری کی بات ہے۔ آپ ﷺ نے ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے ان پر حضرت عثمان بن ابی العاص ثقیفی رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ اس طرح عرب کے ساتھ جس جنگ کا آغاز بدر سے ہوا تھا وہ حنین میں ختم ہو گئی۔ یہ دونوں جنگیں بہت اہم ہیں۔ اس لیے عموماً ان کا اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بدر و حنین۔





سریہ غیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ بنو تمیم کی طرف (محرم 9 ہجری)

حضرت غیینہ رضی اللہ عنہ پچاس سوار لے کر بنو تمیم کی طرف گئے۔ وہ اس وقت سُقیّا اور بنو تمیم کے علاقے کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے۔ بنو تمیم کے بہت سے افراد قید ہوئے لیکن رسول اللہ ﷺ نے احسان فرماتے ہوئے ان سب کو چھوڑ دیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے محرم 9ھ میں عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ کو پچاس سواروں کے ساتھ بنو تمیم کی طرف بھیجا جو کہ سُقیّا اور ارض بنی تمیم کے درمیان تھے۔ اس لشکر میں کوئی بھی مہاجر یا انصاری شامل نہیں تھا۔ یہ رات کے وقت چلتے اور دن کے وقت چھپ جاتے تھے۔ وہ لوگ اس لشکر کو دیکھ کر فرار ہو گئے۔ ان میں سے گیارہ افراد گرفتار ہو گئے۔ انہیں ایک محلے میں گیارہ عورتیں اور تیس بچے ملے، انہیں لے کر مدینہ آ گئے۔ قیدیوں کو رملہ بنت حارث کے گھر میں رکھا گیا۔

ان کو چھڑانے بنو تمیم کی رؤساء عطار دین حاجب، زبیر قان بن بدر، قیس بن عاصم، اقرع بن حابس، قیس بن حارث، عقیق بن سعد، عمرو بن اہتم اور رباح بن حارث بن مجاشع وغیرہ آئے۔ جب قیدیوں نے اپنے سرداروں کو دیکھا تو عورتیں اور بچے رونے لگے۔ انہوں نے جلدی کی اور نبی کریم ﷺ کے دروازے پر جا کر اونچی آواز سے پکارنے لگے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَّذُرُونَكَ مِنْ وُزَارِءِ الْحُجُرِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝﴾ (الحجرات: 4)


”جو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ان کے قیدی واپس کر دیے۔ (طبقات ابن سعد: 2/160)

سُقیّا: ابن الفقہ کے مطابق سُقیّا تہامہ کی لُثبی وادیوں میں سے ہے۔ ابن الکلبی کہتا ہے: ”جب بُسَیْم بن اہل مدینہ سے قتال کے بعد مکہ آ رہا تھا تو سُقیّا میں پڑاؤ ڈالا۔ اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہاں بارش ہو گئی تو اس نے اس جگہ کا نام سُقیّا رکھ دیا۔ خوارزمی کہتے ہیں: ”یہ سمندر کے قریب ایک دن رات کے فاصلے پر عظیم بستی ہے۔“ (معجم البلدان: 3/228)

غیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ: ان کی کنیت ابو مالک تھی۔ وہ فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں مسلمان ہوئے اور غزوہ حنین اور طائف میں مسلمان ہونے کی حالت میں شریک ہوئے۔ عیینہ بھی ان افراد میں سے ہیں جن کی تالیف قلب کے لیے انہیں مال عطا کیا گیا۔ نبی ﷺ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو کر طلیحہ اسدی کے ساتھ مل گئے، پھر قید ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔

(اسد الغابہ: 4/318)



سریہ قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تبالہ کی طرف (صفر 9 ہجری)

”تبالہ“ میں بنو نضیم رہتے تھے۔ یہ جگہ ”بیشہ“ کے علاقے میں ”تورہ“ کے قریب واقع ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں اور قبیلہ نضیم میں لڑائی بھی ہوئی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے صفر 9 ہجری میں قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو 20 آدمیوں کے ساتھ نضیم کے ایک قبیلے کی طرف تبالہ نامی جگہ کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اچانک حملہ کر دینا۔ یہ دس اونٹوں پر باری باری سفر کرتے ان کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا اس سے پوچھا تو اس نے چلا چلا کر لوگوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ بڑی شدید لڑائی ہوئی۔ دونوں طرف بہت سے افراد زخمی ہوئے۔ قطبہ بن عامر نے جس کو قتل کرنا تھا قتل کیا اور اونٹ، بکریاں اور عورتیں لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ (طبقات ابن سعد: 2/162)


قبالہ: تبالہ کا نام تبالہ بنت مکلف یا تبالہ بنت مدین بن ابراہیم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ یمن کے راستے میں ارض تہام کا ایک قصبہ ہے جو تبالہ حجاج بن یوسف کے نام سے مشہور ہے۔ تبالہ اور مکہ کے درمیان 52 فرسخ کا فاصلہ ہے۔

(معجم البلدان: ص 2/9)

قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ: یہ انصاری خزر جی تھے۔ ان کی کنیت ابو زید تھی۔ عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں حاضر ہونے کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سب غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں انہیں نوزخم لگے۔ غزوہ فتح مکہ میں بنو سلمہ کا جھنڈا ان کے پاس تھا۔ حضرت قطبہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔ (اسد الغابہ: 4/387)

نضیم: یہ قحطانی قبیلہ بن عامر بن ارش بن عمرو بن غوث بن نبث بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا سے نسبت رکھتا ہے۔ ان کی بستی جبال سراۃ میں تھیں۔ یمن سے آکر یہ لوگ بیشہ (عسیر) ترہہ (طائف سے سوا سو کلومیٹر مشرق میں) اور تبالہ میں آباد ہو گئے تھے۔ سریہ قطبہ رضی اللہ عنہ کے بعد بنو نضیم اسلام لے آئے۔ ان کا معبود ذوالخلصہ تھا جو کعبہ یمانیہ کہلاتا تھا۔ اس میں خلصہ نامی بت رکھا ہوا تھا جسے منہدم کر دیا گیا۔ بنو نضیم 11ھ میں مرتد ہو گئے۔ انہوں نے ازد اور بجیلہ قبائل سے مل کر شواءہ میں ایک لشکر جمع کر لیا مگر جب جنگ ہوئی تو بنو نضیم نے شکست کھائی اور دوبارہ حلقہ جوش اسلام ہو گئے۔

(معجم قبائل العرب جلد 1)



سر یہ ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ بنو کلاب کی طرف (ربیع الاول 9 ہجری)

حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں سمیت بنو کلاب کی طرف گئے۔ ”زُجج لاؤہ“ مقام پر ان سے ٹکراؤ ہوا اور خوب لڑائی ہوئی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے ربیع الاول 9 ہجری میں ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ کو بنو کلاب کی شاخ قرطاء کی طرف بھیجا۔ ان کے ساتھ اصید بن سلمہ بن قرط رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ زُجج نامی جگہ پر دشمن سے آمنا سامنا ہوا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لڑائی ہوئی تو انہوں نے دشمن کو شکست دے دی۔ اصید نے اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی اور اسے امان دی۔ اس نے اصید اور ان کے دین کو گالیاں دیں۔ انہوں نے اپنے باپ کے گھوڑے کی کونچوں پر تلواریں ماریں۔ جب گھوڑا گر گیا تو ان کا باپ نیزہ لے کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ایک مجاہد نے اسے قتل کر دیا اس کے بیٹے نے قتل نہیں کیا۔

(طبقات ابن سعد: 2/162-163)


زُجج: زجج لاؤہ نجد کا ایک مقام ہے۔ نیز زجج ضریہ کے نواح میں ایک تالاب کا نام ہے۔ (معجم البلدان جلد 3)
بنو کلاب: عدنانی قبائل میں کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان کی اولاد بنو کلاب کہلاتی ہے۔ یہ بنو ہوازن کی ایک شاخ ہیں۔ ان کی آبادیاں ضریہ ربیعہ فدک اور عوالی میں تھیں۔ پھر وہ شام کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ قرطاء یا بنو قرط بنو کلاب کی ایک ذیلی شاخ ہیں۔

(معجم قبائل العرب جلد 3)

ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ: ان کی کنیت ابو سعید ہے۔ وہ مدینہ کے نواح میں قیام پذیر تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کی تمام قوم کا عامل مقرر کیا اور انہیں تحریری پیغام دیا کہ ایشیم ضبابی کی بیوی کو اس کے خاوند کی دینت سے حصہ دو۔ جب رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں بنو سلیم پر امیر مقرر کیا۔

(اسد الغابہ: 3/48)





سریہ علقمہ بن مجزز مُدَلِجی رضی اللہ عنہ جدہ کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)

ان کے ساتھ تین سو آدمی تھے۔ مقصد حبشیوں کی ایک جماعت کو روکنا تھا جو بحری راستے سے ادھر آئے تھے۔


اضافی توضیحات و تشریحات

ربیع الآخر 9 ہجری میں علقمہ بن مجزز مدلی رضی اللہ عنہ ایک سریہ لے کر حبشہ کی طرف چلے۔ نبی ﷺ کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ حبشی فوجی نقل و حرکت میں مصروف ہیں جن کو اہل جدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ نے تین سو سپاہی دے کر علقمہ بن مجزز رضی اللہ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ جب یہ سمندر (بحیرہ قلزم) کے اندر ایک جزیرہ میں ان کی طرف بڑھے تو وہ خبر سنتے ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔
(طبقات ابن سعد: 2/163)


واقعی کہتے ہیں کہ یہ سریہ حبشہ کے لوگوں سے شعیبہ کے ساحل پر پیش آیا تھا۔ شعیبہ شعیبہ کی تصغیر ہے جو ایک وادی (ندی) ہے جس کے بالائی علاقے میں بنو کلاب رہتے ہیں اور یہ ندی سدقۃ میں گرتی ہے۔ شعیبہ (جدہ کے جنوب میں) ایک بندرگاہ بھی ہے جو بحر حجاز (بحیرہ قلزم) کے ساحل پر ہے۔ جدہ سے پہلے یہی مکہ کی بندرگاہ تھی۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ سمندر کے ساحل پر یمن کے راستے میں ایک بستی ہے۔
(الاصابہ۔ ابن حجر عسقلانی۔ جلد 4)

جدہ: فصحاء اسے جدہ بولتے ہیں۔ عام روایت کے مطابق جنت سے آدم ﷺ کو ہند کے پاس جزیرہ سراندیپ (سری لنکا) پر اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا تھا اور پھر دونوں میدان عرفات میں آ ملے تھے۔ جدہ جو بحیرہ احمر (قلزم) کے مشرقی ساحل پر مکہ سے 70 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے نہ صرف حجاز کا دروازہ ہے بلکہ زمانہ قدیم سے حج کا دروازہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جدہ کی بنیاد رکھی گئی ورنہ اس سے پہلے یہ ٹھیکروں کی بستی تھی۔ جدہ کے لغوی معنی ہیں ”کشادہ طویل راستہ“ منجم البلدان میں لکھا ہے کہ جدہ شہر جدہ بن حزم بن ریان قضائی سے موسوم ہے جو یہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ ہے اور اس کی آبادی پندرہ سولہ لاکھ ہے۔ مطار جدہ کا حج ٹرمینل 5 لاکھ مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر محیط ہے۔
(اطلس القرآن اردو ص 30-31)





جدہ: رات کے وقت



جدہ: دن کے وقت



سریہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بنو طے کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سو پچاس آدمی لے کر قبیلہ طے کے بت ”فلس“ کو توڑنے کے لیے ان کے علاقے کی طرف گئے اور بت کو توڑا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ قید ہونے والی عورتوں میں حاتم طائی کی بیٹی سَفَانہ بھی تھی۔ اس کا بھائی عدی بن حاتم شام کی طرف بھاگ گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو سَفَانہ کا پتہ چلا تو آپ نے اس پر احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد فرمادیا۔ اس کے بھائی عدی بن حاتم نے اپنی بہن سے رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے حالات سننے تو مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے ربیع الآخر 9 ہجری میں انصار کے ایک سو پچاس آدمی دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنو طے کا ”فلس“ نامی بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ ایک سو اونٹوں اور پچاس گھوڑوں پر سوار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑا سیاہ اور ایک چھوٹا سفید جھنڈا تھا۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی آل حاتم کے محلہ پر حملہ کر دیا، ان کے بت کو منہدم کیا اور قیدیوں، اونٹوں اور بکریوں کو گھیر لیا۔ ان قیدیوں میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بہن بھی تھی مگر خود عدی بھاگ کر شام چلے گئے۔ اہل اسلام کو ان کے خزانے سے تین تلواریں اور تین زربیں دستیاب ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیدیوں پر ابوقحادہ رضی اللہ عنہ اور چوپایوں اور سونے چاندی پر عبد اللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کو نگران مقرر کیا۔ راستہ میں غنیمت تقسیم کی، رسول اللہ ﷺ کا حصہ ”صفی“ نکال کر الگ کیا، اور آل حاتم کو تقسیم کیے بغیر مدینہ لے آئے۔ (طبقات ابن سعد: 2/164)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ابوالحسن اور ابو تراب اور لقب خیدر تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی، چھوٹی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، چوتھے نامور خلیفہ بے مثال خطیب، عظیم سپہ سالار، بے عدیل صاحب فکر و بصیرت اور دوسری بے شمار فضیلتوں کے حامل تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت 10 قبل از نبوت میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کے وقت ابوطالب سخت معاشی مشکلات سے دوچار تھے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے ننھے علی کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور سفارش کر کے ابوطالب کے دوسرے بیٹے جعفر کو دوسرے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی تولیت میں دے دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عہد طفولیت نبی ﷺ آغوش تربیت میں گزرا۔ اسی ”تربیت صالح“ کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بت کے سامنے جھکے نہ شرک و بدعت کی کسی رسم بد سے اپنے دامن کو آلودہ کیا۔ انہوں

نے غزوات خصوصاً بدر اُحد، احزاب اور خیبر میں بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ عہد صدیقی، عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں ہر شعبہ زندگی میں کارہائے نمایاں سرانجام دیتے رہے۔ 35ھ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا تو ان کا عہد حکومت پر آشوب ہونے کے باوجود مثالی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان 40 ہجری میں ایک خارجی عبدالرحمن بن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہوئے۔

(اسد الغابۃ الہدایۃ والنہایۃ)



سریرہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن کی طرف (رمضان 10 ہجری)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو مرتبہ یمن گئے تھے۔ ایک روانگی رمضان المبارک میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین سو شہسوار ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس علاقے میں کسی اسلامی لشکر کی یہ پہلی آمد تھی اور یہ ملک یمن میں مذحج قبیلے کا سکونتی علاقہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 ہجری کے حج میں رسول اللہ ﷺ سے مکہ مکرمہ میں آ ملے تھے۔

اضافی توضیحات و تشریحات


رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا بذات خود ان کے لیے جھنڈا باندھا اپنے ہاتھ سے انہیں عمامہ پہنایا اور فرمایا: ”ان کے علاقے میں قیام کرو۔ جب تک وہ خود لڑائی نہ شروع کریں تم نہ کرنا۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین سو سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ پہلا لشکر تھا جو مذحج کے علاقے میں داخل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مختلف اطراف میں اپنے ساتھیوں کو بھیجا تو وہ بہت سارا مال غنیمت، لونڈیاں اور غلام وغیرہ لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بریدہ بن حبیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت پر نگران مقرر کیا، پھر دشمن کے لشکر سے آمناسا منا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جواب میں انہوں نے نیزے اور پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کی صف بندی کی، مسعود بن سنان اسلمی رضی اللہ عنہ کو پرچم دیا، پھر اہل مذحج پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے بیس آدمی قتل ہوئے تو وہ شکست کھا کر منتشر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا تعاقب کرنے سے روک دیا، پھر ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ (طبقات ابن سعد: 2/169، 170)

مذحج: این بکلی کہتے ہیں کہ اؤذ بن زید بن شجب بن عرب بن زید بن کہلان بن سبا بن شجب بن یعرب بن قحطان کی اولاد میں سے مرہ بنت (یعنی اشعر) مالک اور جہلمہ (یعنی طے) ہیں۔ ثانی الذکر دونوں کی ماں ذالہ بنت ذی منشان ہے اور اسی کو مذحج کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو اس نے ایک مذحج نامی نیلے کے پاس جتنا تھا اس لیے وہ مذحج کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ بنا بریں مالک اور طے کی ساری اولاد تو مذحج کہلاتی ہے لیکن مرہ کی اولاد میں سے کسی کو مذحج نہیں کہا جاتا۔

(”عجم البلد ان جلد 5“)

قحطانی عربی قبیلہ مذحج، کہلان میں سے ہے اور حارث، بجیلہ اور خولان اس کی شاخیں ہیں۔ (المعجم فی الاعلام)



سیرت علی (سعودی عرب) میں حاتم طائی کے گھر کے آثار
یکن کاؤرا لکھنؤ میں متناہ



سرّیہ عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ ”جناب“ کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)

یہاں عذّوہ اور بنلی کے قبائل رہتے تھے لہذا آپ ان کے علاقے میں پہنچے جسے ”جناب“ کہا جاتا تھا اور ان کی سرکوبی کی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

حضرت عکاشہ کا یہ سرّیہ (9ھ) مدینہ منورہ کے شمال میں عذّوہ اور بنلی کے قبائل میں پیش آیا تھا جو جناب کے پاس رہتے تھے۔ ان سے پہلے جمادی الآخرہ 8ھ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ایک سرّیہ کے ساتھ ان قبائل کی طرف گئے تھے۔

عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ دیکھیے سرّیہ عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ (الغمر)

عذّوہ: یہ قحطانی قبیلہ قضاہ کی ایک شاخ ہے اور عذّوہ بن سعد بن مذہم بن زید بن لیث بن سود بن اسلم بن الحانف بن قضاہ سے نسبت رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ عذّوہ نامی قضاہ کی ایک شاخ عذّوہ بن زید الملات بن زبدہ بن ثور بن کلب سے منسوب ہے۔ بنو عذّوہ کا ایک وفد صفر 9ھ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قبول اسلام سے بہرہ ور ہوا۔


(معجم قبائل العرب - جلد 2)

بلیّی: یہ قحطانی قبیلہ بھی قضاہ کی ایک شاخ ہے اور بنلی بن عمرو بن الحانف سے نسبت رکھتا ہے۔ اس کی بستیاں مدینہ اور وادی القرّی (العلّا) کے مابین اور نیک صہنا (بحیرہ احمر کے ساحل پر) جو کہ ’جبال شراة‘ معان (اردن) اور ایلہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ارج اور غران کی وادیوں میں بھی بنلی آباد تھے یہ دونوں ندیاں حرہ بنی سلیم سے نکل کر سمندر میں گرتی ہیں۔ ابن خلدون کے بقول بنلی صعید مصر، نو بیہ اور حبشہ کے علاقوں میں بھی پھیل گئے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے ہند کے گرم مسالوں وغیرہ کی تجارت انہی کے ذریعے ہوتی تھی۔ غزوہ موّتہ میں قبیلہ بنلی کے دستے ہرقل کی فوج میں شامل تھے۔ 9ھ میں بنلی کا ایک وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔

(معجم قبائل العرب - جلد 1)

جناب: اصمعی کے بقول ”جناب“ فزارہ اور عذّوہ قبائل کی سرزمین ہے۔





غزوہ تبوک (غزوہ عُسْرہ) (رجب 9 ہجری)

اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ رومیوں نے جنوبی شام میں بہت سے لشکر جمع کیے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ عربی قبائل غم، جذام، عاملہ اور عسسان بھی مل گئے ہیں حتیٰ کہ رومیوں کے کچھ دستے تو بلقاء تک پہنچ گئے ہیں۔ ادھر سخت گرمی اور خشک سالی کے دن تھے اور انتہائی تنگی کا وقت تھا۔ رسول اللہ ﷺ تمام صحابہ کو ساتھ لے کر تبوک پہنچے۔ مگر رومی واپس چلے گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے تبوک ہی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومۃ الجندل بھیجا۔ جب رومیوں سے لڑائی کے امکانات ختم ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ سمیت واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ غزوہ تبوک رسول اللہ ﷺ کے غزوات میں آخری غزوہ ہے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ رومیوں نے شام میں لشکر کثیر جمع کر لیا ہے بلکہ انہوں نے کچھ لشکر بلقاء (اردن) میں بھی بھیج دیا ہے۔ اب دو ہی طریقے تھے یا تو ان کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا کھلا موقع دیا جاتا یا شام جا کر ان سے دفاعی جنگ لڑی جاتی۔ رسول اللہ ﷺ نے دوسرا طریقہ پسند کیا کیونکہ یہ قوت و غیرت اور عزت والا راستہ تھا۔ آپ نے تبوک کی طرف نکلنے کا اعلان عام فرما دیا۔ صورت حال یہ تھی کہ انتہائی تنگدستی کا وقت تھا، گرمی شدید تھی اور قحط سالی بھی تھی مگر تیس ہزار مجاہدین کا لشکر تیار ہو گیا جن کے ساتھ دس ہزار شہسوار تھے۔

رسول اللہ ﷺ رجب 9 ہجری میں چلے اور تبوک میں خیمہ زن ہوئے۔ اس وقت تک رومی مسلمانوں کی جرأت دیکھ کر واپس جا چکے تھے اس لیے آپ نے ارد گرد کے علاقے میں کارروائی شروع کر دی اور تبوک کو مرکز قرار دیا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومۃ الجندل کی طرف بھیجا۔ ایلہ کا حکمران ”یُوْحَنَّا بن دُوْبہ“ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کیا۔ اسی طرح ”جَرْبَلاء“ اور ”أَذْرَح“ (اردن) کے حکمران بھی خود حاضر ہوئے اور جزیہ پر مصالحت کی۔

تبوک مدینے سے دمشق کے نصف راستے پر ہے۔ تبوک میں جہاں نبی ﷺ نماز ادا فرمایا کرتے تھے وہاں اب ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو 1245ھ میں ایک ترک فوجی افسر نے اپنے خرچ پر بنوائی تھی۔ اسی جگہ پہلے لکڑی کی بنی ہوئی مسجد تھی۔ ان دنوں اس مسجد میں ادارہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا مرکز بھی قائم ہے۔ اور اس سے متصل ایک پرانا ترکی قلعہ ہے جو اب جیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ (سفر نامہ ارض القرآن..... سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ)


چشمے کا معجزہ: مسجد کے قریب ہی ایک چشمہ ہے جس کے گرد وسیع منڈیر بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ چشمہ ہے جس کے متعلق صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابھی تبوک کے راستے میں تھے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”کل تم تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے۔ تمہارے وہاں پہنچتے پہنچتے چاشت کا وقت ہو جائے گا۔ تم میں سے جو شخص وہاں پہلے پہنچ جائے اس چشمہ کے پانی کو استعمال نہ کرے۔“ جب لشکر اسلام وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دو آدمی پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور چشمہ سے قطرہ قطرہ کر کے پانی نکل رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں آدمیوں سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس چشمہ کا پانی استعمال کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ جی ہاں! آپ ﷺ نے ان دونوں پر فحشگی کا اظہار فرمایا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چلوؤں سے ایک برتن میں اس چشمہ کا پانی جمع کیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے اور اسے چشمہ میں ڈال دیا۔ اس کے گرتے ہی چشمے سے بے تحاشا پانی ابل کر نکلنا شروع ہو گیا جسے تمام اسلامی لشکر نے استعمال کیا۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا: ”اے معاذ! اگر تمہاری زندگی رہی تو تم اس علاقہ کو باغوں سے بھرا ہوا پاؤ گے۔“..... (سفر نامہ ارض القرآن 1959ء)

مولانا مودودی کے شریک سفر محمد عاصم الحداد لکھتے ہیں: تبوک کے محکمہ شریعہ کے رئیس شیخ صالح نے بتایا کہ یہ رُمہ دو سال پہلے تک پونے چودہ سو سال سے مسلسل ابلتا رہا۔ بعد میں نشیبی علاقوں میں ٹیوب ویل کھودے گئے تو اس چشمے کا پانی ان ٹیوب ویلز کی طرف منتقل ہو گیا۔ تقریباً چھپیس ٹیوب ویلز میں تقسیم ہو جانے کے بعد اب یہ چشمہ خشک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شیخ صالح ہمیں ایک ٹیوب ویل کی طرف بھی لے گئے جہاں ہم نے دیکھا کہ چار انچ کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بغیر اس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے۔ قریب قریب یہی کیفیت دوسرے ٹیوب ویلز کی بھی ہمیں بتائی گئی۔ یہ نبی ﷺ کے معجزے ہی کی برکت ہے کہ آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے کہ مدینہ اور خیبر کے سوا ہمیں کہیں اتنا پانی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس پانی سے فائدہ اٹھا کر اب تبوک میں ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں اور نبی ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق تبوک کا علاقہ باغوں سے بھرا ہوا ہے اور دن بدن بھرتا جا رہا ہے۔

پھر ہم شیخ صالح کے ساتھ تبوک کا شہر دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ یہ شہر نہایت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ہر طرف پختہ اور جدید طرز کی عمارتیں بن رہی ہیں۔ کوئی اہم یا غیر اہم چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے بازاروں میں نہ مل سکتی ہو۔ پھل تو یہاں سعودی عرب کے تمام دوسرے مقامات کی نسبت سستے اور وافر ملتے ہیں، کیونکہ لبنان اور فلسطین کی طرف سے پھلوں کے جوڑک سعودی عرب آتے ہیں سب کے آنے کا راستہ یہی ہے۔ اب تبوک سعودی عرب کا بہت بڑا فوجی مرکز ہے۔

(سفر نامہ ارض القرآن ص: 220-224)

تبوک کی آبادی 75 ہزار سے زیادہ ہے۔ (المجہدی الاعلام)



غزوة تبوك (غزوة العُسْرَة) (رجب ۵۹)

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ...﴾ "توبہ فرمائی اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر وہ مہاجرین و انصار کہ جنہوں نے اتباع کیا آپ کا ٹکڑی کی کمزری میں" (التوبہ: 117/9)

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ اور (توبہ فرمائی اللہ نے) ان میں جنہوں پر جو چھوڑ دیئے گئے تھے (عکرم الہی کے انتظار میں) " (التوبہ: 118/9)

﴿كُلُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ تَقِيضُ مِنَ الدَّامِنِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ "تو وہ لوگ جسکا ان کی آنکھیں بہتی تھیں آنسوؤں سے اس غم سے کہ میں ہاتھ پاؤں نہ دوں اور ترقی کریں" (التوبہ: 92/9)

تبوک میں ایک جامع مسجد



صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کی ہستی کے آثار



يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

9 ہجری ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ آپ کے ساتھ تین سو آدمی تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے ان کے ساتھ بیس اونٹ قربان کرنے کے لیے بھیجے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عرج کے مقام پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان سے جا ملے تاکہ کافروں سے اعلان براءت کریں جو سورہ براءۃ (توبہ) کی ابتدائی آیات میں مذکور ہے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر (دس ذوالحجہ) ہے کیونکہ اس میں حج کے اکثر اعمال سرانجام دیے جاتے ہیں۔ عوام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے یہ بے اصل ہے۔ (احسن البیان ص: 468)

غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری میں جب سورہ توبہ نازل ہوئی جس میں مشرکین سے براءت کا ذکر ہے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس حکم کی تبلیغ کے لیے امیر الحج مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ آپ خود اس لیے نہ گئے کہ وہاں مشرکوں سے اختلاط کا خطرہ تھا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا نائب بنا کر بھیج دیا تاکہ یوم الحج الاکبر (یوم النحر) کو اللہ کا یہ حکم پہنچادیں۔



حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا جو منی میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہ کرے اور کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف بھی نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ (مشرکوں سے) براءت کا اعلان کرتے رہے۔

(صحیح البخاری، التفسیر، باب واذان من اللہ ورسولہ حدیث: 4656 و تفسیر ابن کثیر: 2/1266، 1267)




یوم الحج الاکبر (ذی الحجۃ ۱۰ھ)

﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سُوْرَةُ الرَّسُولِ إِلَى الْكَافِرِينَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَشَرَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَشِيرَةٌ فَمِنْهُمْ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ أَكْبَرُ مِنْهُمْ﴾
اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لئے نذرانہ کبر کے کہ یہ کفار نہ ہوں
برابر ہے شرکین سے اور اس کا رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے (النورہ: 219)



﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سُوْرَةُ الرَّسُولِ إِلَى الْكَافِرِينَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَشَرَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَشِيرَةٌ فَمِنْهُمْ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ أَكْبَرُ مِنْهُمْ﴾
اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لئے نذرانہ کبر کے کہ یہ کفار نہ ہوں
برابر ہے شرکین سے اور اس کا رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے (النورہ: 219)



سن وفود (9 ہجری)

مؤرخ ابن اسحاق فرماتے ہیں:

”جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ فتح فرمالیا اور غزوہ تبوک سے فارغ ہو گئے اور ثقیف جیسا اکھڑ قبیلہ بھی بیعت کر کے مسلمان ہو گیا تو ہر طرف سے عربوں کے وفد آنے لگے۔ چونکہ اکثر وفود 9 ہجری میں آئے اس لیے اسے سن وفود کہا جاتا ہے۔

قریش کا مسلمان ہو جانا وفود کے آنے کا فوری سبب بنا کیونکہ قریش عربوں کے قائد رہنما نیز بیت اللہ اور حرم کے خادم تھے۔ عرب ان کی اس فضیلت کو تسلیم کرتے تھے نیز قریش ہی نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف زور و شور سے جنگ بھڑکا رکھی تھی اور اب پورا مکہ مکرمہ ہی مسلمان ہو چکا تھا نیز مکہ کے تمام بت ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔


بدرواحد اور خندق کی جنگوں کے بعد عرب یہ کہنے لگے تھے: ”اے اور اس کی قوم کو آپس میں جنگ کرنے دو۔ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو لازماً سچا نبی ہوگا۔“

مؤرخ ابن سعد نے اپنی کتاب ”طبقات کبریٰ“ میں 70 سے زائد وفود کا تذکرہ کیا ہے۔^① ہم ان میں سے زیادہ مشہور اور اہم وفود کا ذکر کر رہے ہیں:

① وفد مزینہ: یہ رجب 5 ہجری میں آیا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا: ”تم جہاں بھی رہو مہاجرین میں شمار ہو گے لہذا واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔“ اس لیے وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔^② وفد بنی عبد القیس۔ وفد بنی حنیفہ۔ وفد بنی نجران۔ وفد بنی عامر۔ ضام بن ثعلبہ کی اپنی قوم بنو سعد بن بکر کی طرف سے آمد۔ وفد بنو طے: ان میں زید الخیل (زید الخیر) اور عدی بن حاتم بھی شامل تھے۔ وفد اہل یمن: یہ اشعر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وفد فروہ بن مسیک مرادی۔ وفد زید: اس وفد کی قیادت عمرو بن معدی کرب زبیدی کر رہے تھے۔ وفد کندہ: اس وفد کی قیادت اشعث بن قیس کے ہاتھ میں تھی۔ ضرہ بن عبد اللہ ازدی کی اپنی قوم کے چند افراد کے ہمراہ آمد۔ شاہان جشمیہ کے قاصد کی آمد۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بن جحلی کی آمد۔ وائل بن حجر بن ربیعہ کی آمد۔ یہ حضرموت کے شاہی خاندان کے فرد تھے۔ زیاد بن حارث ضہائی کی آمد۔ وفد بنی اسد: ان میں ضرار بن اذ و راوٹکچہ بن خویلد بھی شامل تھے۔ وفد بنی فزارہ۔ وفد بنی مرہ۔ وفد بنی ثعلبہ۔ وفد بنی محارب۔ وفد بنی کلاب: ان میں مشہور شاعر لبید بن ربیعہ بھی شامل تھے۔ وفد کنانہ۔ وفد بابلہ۔ وفد بنو سلیم۔ وفد بنو ہلال بن عامر۔

① الطبقات الکبریٰ: 1/291-359 والسیرۃ النبویۃ لابن کثیر: 76/4

② الطبقات الکبریٰ: 1/291



❁ وفد اہل یمن: ان کا تعلق تحجیب اور خولان قبائل سے تھا۔ ❁ وفد ازد۔ ❁ وفد شحج۔ ❁ وفد بنی یغلا۔ ①

اضافی توضیحات و تشریحات

عبدالقیس کا وفد: یہ لوگ مشرقی عرب (بحرین) کے باشندے تھے اور اہل مدینہ کے علاوہ پہلے پہل انہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا جو بحرین کے ”جوائی“ نامی گاؤں میں بنی تھی۔ بنو عبدالقیس کا وفد دومرتبہ آیا۔ ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفد کے سال۔ پہلی بار آنے والوں کی تعداد تیرہ یا چودہ تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی ﷺ کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنے آپ کو سوار یوں سے دے پھینکا اور لپک کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص عبداللہ بن عوف الانشج تھا۔ جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سوار یوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا۔ سامان اکٹھا کیا۔ دوسفید کپڑے نکال کر پہنے۔ پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی ﷺ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا:

”تم میں دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں..... دور اندیشی اور بردباری۔“

نبی ﷺ نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا: ”تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اور اپنا توشہ ختم کیا۔ اے اللہ! عبدالقیس کو بخش دے۔“

پھر جب وفد آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”خوش آمدید نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔“

انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا جو یہ ہیں:

❁ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ کی گواہی دینا۔ ❁ نماز قائم کرنا۔

❁ زکوٰۃ دینا۔ ❁ رمضان کے روزے رکھنا۔

ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے نبی ﷺ نے اس کا حکم نہیں دیا البتہ ان سے یہ کہا کہ مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کریں اور انہیں نشہ آور مشروبات سے منع کیا جنہیں وہ کمبشرت پیتے تھے اور ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں وہ یہ شراب بنایا کرتے تھے۔

دوسری بار وفد میں چالیس آدمی آئے جن میں جارود بن علاء، عبدی بھی تھے۔ یہ نصرانی تھے۔ یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔ (تجلیات نبوت، مولانا صفی الرحمن مبارکپوری)

بنو حنیفہ کا وفد: یہ وفد 9 ہجری میں آیا۔ اس میں مسیلہ کذاب سمیت سترہ افراد تھے۔ یہ لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر اترے، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، البتہ مسیلہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا اور اس نے کہا تھا:

”اگر محمد (ﷺ) نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔“

اس سے قبل نبی ﷺ یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں اور ان میں سے سونے کے دو ٹکٹن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے، چنانچہ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔“

اس کی تعبیر آپ ﷺ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد دو کذاب (پر لے درجے کے جھوٹے) نکلیں گے۔ چنانچہ نبی ﷺ مسیلہ کے پاس آئے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ ثابت بن قیس جعفی تھے۔ آپ مسیلہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے، جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا، اور اس سے گفتگو کی۔

مسیلہ نے کہا: ”اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرمادیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم مجھ سے (کھجور کا) یہ ٹکڑا چاہو گے تو یہ بھی تمہیں نہ دوں گا اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے گئے فیصلے سے آگے نہیں جاسکتے۔ اور اگر تم نے پیچھے پھیر لی تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ واللہ! میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے (خواب میں) پوری تفصیل سے دکھلایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔“ پھر آپ پلٹ آئے۔

نجران کا وفد: ”نجران“ یمن کی حدود پر واقع سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے جس کا دارالحکومت نجران ہے۔ عہد نبوی میں نجران 73 بستیوں پر مشتمل تھا اور اس میں ایک لاکھ بیس ہزار جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے ”اسقف“ کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا اور پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا۔ رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کریں جو اس مسئلے کو حل کرنے، چنانچہ انہوں نے ساٹھ ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ یہ لوگ نبی ﷺ کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یعنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے۔ ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ نبی ﷺ نے بات نہ کی۔ انہیں بعض کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹھیاں اتار دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں اسلام سے تین چیزیں روکتی ہیں:

✽ صلیب کی عبادت

✽ سور کھانے کی عادت

✽ اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے۔“

انہوں نے کہا ”تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟“ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں:

﴿وَإِنْ مَثَلٌ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ الْحَقُّ مِنَ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾
 ”بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس (عیسیٰ علیہ السلام) کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ! ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو پھر مباہلہ کریں (اللہ سے گڑبڑا کر دعا کریں) پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔“
 (آل عمران: 61-59)

رسول اللہ ﷺ نے یہ آیتیں انکے سامنے پڑھیں اور انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ انہوں نے مہلت مانگی، باہم مشورہ کیا اور کہا کہ ”اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے اس سے ”ملاعنت“ (لعنت گوئی) کی تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔“ چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے: ہزار جوڑا صفر میں اور ہزار جوڑا رجب میں اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ چاندی (یعنی چالیس درہم) اور آپ ﷺ نے ان کے لیے ذمہ امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ”ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں۔“ آپ نے ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور یہیں سے ان کا لقب ”امین الامت“ پڑ گیا۔

نجران واپسی کے دوران میں وفد کے دو آدمی مسلمان ہو گئے۔ پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔
 (تجلیات نبوت رمولانا صفی الرحمن مبارکپوری)

بنو عامر بن صعصعہ کا وفد: اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن بھی طفیل تھا جس نے اصحابِ بزمِ معونہ کے ساتھ دھوکا کیا تھا اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم بھی تھے۔ یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے نبی ﷺ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا: ”میں آپ کو تین باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔“

آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے۔

یامیں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں۔

ورنہ میں غطفان کو ایک ہزار گھوڑوں اور ایک ہزار گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھاؤں گا۔

رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی کہ ”اے اللہ! عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔“

ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی ﷺ کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالشت نکالی، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونپنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔

جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے ہاں اتر اور اس کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران میں اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گھٹی نکل آئی۔

اس نے کہا ”اونٹ کی گھٹی جیسی گھٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت؟ میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔“ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا۔ ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ﴾

”وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔“ (الرعد: 13/13)

ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلہ بنو عامر کے ایک صحابی مولدہ بن جمیل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی نبی ﷺ کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر بیس سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی، آپ کا داہنا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے دو سالہ مادہ اونٹنی صدقہ میں لی۔ اس کے بعد وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام سو سال زندہ رہے۔ انہیں ان کی فصاحت کے سبب ”دو زبانوں والا“ کہا جاتا تھا۔

(تجلیات نبوت رمولانا صفی الرحمن مبارکپوری)

سعد بن بکر کے رئیس ضمنا بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی آمد: یہ بادیہ (جنگل) کے رہنے والے اکھڑ مزاج تھے۔ دو چوٹیاں رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی بٹھا کر باندھی، پھر کہا:

”تم میں ابن عبدالمطلب کون ہے؟“

لوگوں نے بتایا تو وہ نبی ﷺ کے قریب آئے اور کہا:

”اے محمد (ﷺ)! میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا۔ مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ کریں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو چاہو سو پوچھو۔“

انہوں نے کہا: ”ہمارے پاس آپ (ﷺ) کا قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے سچ کہا۔“

انہوں نے کہا: ”اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیے؟“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے۔“

انہوں نے کہا: ”اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے۔“

انہوں نے کہا: ”اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے؟ اور ان میں جو کچھ بنایا کس نے بنایا؟“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے۔“

انہوں نے کہا: ”تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“

انہوں نے کہا: ”آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے سچ کہا۔“

انہوں نے کہا: ”تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“

انہوں نے کہا: ”آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال کی زکوٰۃ فرض ہے۔“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے سچ کہا۔“

انہوں نے کہا: ”تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!“

انہوں نے کہا: ”آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے سچ کہا۔“

انہوں نے کہا: ”تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!“

انہوں نے کہا: ”آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک سفر کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے سچ کہا۔“

انہوں نے کہا: ”تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟“
آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“

پھر انہوں نے پیٹھ پھیری اور کہا: ”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔“

نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔“

پھر جب وہ مسلمان ہو کر اور بتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم کو بتایا کہ نبی ﷺ نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے تو ان کی قوم میں کوئی بھی مرد اور عورت ایسے نہ تھے جو مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے اذان کہی لہذا (دُود میں) کوئی بھی آنے والا ضام بن ثعلبہ سے بہتر نہ تھا۔

(تجلیات نبوت رمولانا صفی الرحمن مبارکپوری)

بنو طے کا وفد: رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں طے کا وفد حاضر ہوا، ان میں ان کا سردار زید الخلیل بھی تھا۔ گفتگو کے دوران میں آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عرب کے جس آدمی کی میرے سامنے فضیلت بیان کی گئی، جب اس سے ملاقات ہوئی، تو وہ اس سے کم نکلا“ اس کے برعکس زید الخلیل کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ آپ ﷺ نے زید الخلیل کے بجائے ان کا لقب زید الخیر رکھا اور فید کا علاقہ اور اس سے ملحقہ زمین ان کو جاگیر میں دی اور اس کی دستاویز بھی ان کو لکھ دی۔

(طبقات ابن سعد: 1/321)

اشعریوں اور اہل یمن کا وفد: اشعری قبیلے کا پچاس افراد پر مشتمل وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا جن میں ابو موسیٰ اشعریؓ بھی شامل تھے۔ جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے تو کہنے لگے: ”کل ہم اپنے پیاروں محمد ﷺ اور اس کی جماعت سے ملیں گے۔“ جب یہ آئے تو نبی ﷺ خیر تشریف لے جا چکے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اشعری ان تھیلیوں کی طرح ہیں جو کستوری سے بھری ہوئی ہوں۔“

بنو اشعر اور اہل یمن اکٹھے نہیں آئے تھے۔ بنو اشعر توفیق خیر کے وقت 7ھ میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے ساتھ آئے تھے۔ اور اہل یمن 9ھ میں عام الوفود میں آئے تھے۔

فروہ بن مسیک مرادیؓ کا وفد: ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ فروہ بن مسیک مرادی شاہان کندہ سے الگ ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا: ”جنگ روم (اسلام سے پہلے قبائل مراد اور ہمدان کی باہمی جنگ) میں تیری قوم کو جو صدمہ پہنچا، وہ تجھے ناگوار گزار ہے؟ بولے: یا رسول اللہ! میری قوم جیسا صدمہ کس کو ناگوار نہیں گزرے گا؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ یہ صدمہ تیری قوم کو بھلائی میں زیادہ کرے گا۔ اور آپ نے ان

کو مراد زبید اور مذبح قبائل پر عامل مقرر کیا اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ مصدق بنا کر بھیجا جو رسول اللہ ﷺ کی وفات تک وہیں رہے۔

عمر و بن معد یکرب رضی اللہ عنہما کی آمد: عمرو بن معد یکرب رضی اللہ عنہ نے زبید قبیلے کے لوگوں کی معیت میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے دربار نبوت میں حاضر ہونے سے پہلے قیس بن مکشوح مرادی سے کہا تھا: ”اے قیس! تم قوم کے سردار ہو۔ ہمارے پاس قریش کے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا ہے جسے محمد (ﷺ) کہتے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی حقیقت جان لیں۔“ قیس نے انکار کیا اور اس کی رائے کو غلط قرار دیا۔ عمرو بن معد یکرب کے اسلام قبول کرنے کے متعلق جب قیس بن مکشوح کو پتا چلا تو اس پر بہت گراں گزرا۔

(سیرۃ ابن ہشام: 4/239)

اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی آمد: اشعث بن قیس بنو کنندہ کا 80 افراد پر مشتمل وفد لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے بالوں کو کنگھی کی ہوئی تھی سر مڈالا ہوا تھا اور ریشمی جے پہن رکھے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تم نے اسلام قبول نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: ”پھر یہ جے کیوں پہن رکھے ہیں؟“ انہوں نے فوراً وہ جے اتار دیے۔

ضر بن عبد اللہ ازدی رضی اللہ عنہ کی آمد: ضر بن عبد اللہ ازدی رضی اللہ عنہ نے بنو ازد کے ایک وفد کی معیت میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام بڑا اچھا ثابت ہوا۔ نبی ﷺ نے حضرت ضر رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کے مسلمان افراد پر امیر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ یمن کی جانب ان کے قریب قریب جو مشرک ہیں ان سے جہاد کریں۔

(سیرت ابن ہشام: 4/242)

جریر بن عبد اللہ بکلی رضی اللہ عنہ کی آمد: حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی رضی اللہ عنہ 10ھ کو اپنے قبیلے کے ڈیڑھ سو افراد کی معیت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی آمد سے پہلے فرمایا: ”تمہارے پاس کچھ بہترین لوگ آ رہے ہیں جن کے چہرے بادشاہوں جیسے ہیں۔“ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہم سے اس بات پر بیعت لی: ”ہم کلمہ توحید اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار کریں گے نماز پڑھیں گے زکوٰۃ ادا کریں گے رمضان کے روزے رکھیں گے مسلمانوں سے خیر خواہی کریں گے اور والی کی اطاعت کریں گے اگرچہ وہ جہشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔“

وائل بن حُجْر رضی اللہ عنہ کا وفد: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ایک وفد لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں اسلام اور ہجرت میں رغبت رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نبی ﷺ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نبی ﷺ نے ان کی آمد کی خوشی میں لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو نبی ﷺ نے انہیں ایک تحریر لکھ کر دی..... ”یہ محمد ﷺ کی وائل بن حجر کے لیے تحریر ہے: تم مسلمان ہو گئے ہو جو قلعے

اور زمینیں تمہارے قبضے میں تھیں، میں تمہارے پاس ہی رہنے دیتا ہوں۔ ان زمینوں میں سے عشر وصول کیا جائے گا۔ اور میں تم پر لازم قرار دیتا ہوں کہ اس میں ظلم نہیں ہوتا چاہیے۔“ (طبقات ابن سعد: 1/349)

زیاد بن حارث صدائے نبی ﷺ کا وفد: 8ھ میں بنو صداء کا وفد زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آیا جو پندرہ افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آپ ﷺ سے اسلام پر بیعت کی اور اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ ان کی مساعی سے ساری قوم مسلمان ہو گئی اور حجۃ الوداع میں ان کے ایک سو آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

(طبقات ابن سعد: 1/326)

بنو اسد بن خزیمہ کا وفد: 9 ہجری کے شروع میں ان کے دس آدمی آئے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا:

”اے اللہ کے رسول (ﷺ)! ہم نے شہادت دی کہ اللہ ”وحدہ لا شریک“ ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اے اللہ کے رسول! آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آپ کو اسلام قبول کر لیا اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔“ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿يَسْمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَسْمُنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ
لِلْإِيمَانِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

”وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم واقعی سچے ہو۔“ (البحر: 49/17)

انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلاً: ”قال گیری کے لیے چڑیا بھگانا، کہانت کرنا اور کنکری مارنا۔“ آپ نے ان سب باتوں سے منع کیا۔

انہوں نے دل کے متعلق پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے ایک نبی جانتے تھے۔ اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا ہونا محال ہے اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں۔“

اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا۔ اسے تحائف سے بھی نوازا گیا۔

(تجلیات نبوت، مولانا صفی الرحمن مبارکپوری)

بنی فزارہ کا وفد: یہ وفد نبی ﷺ کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ میں سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے۔ نبی ﷺ نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی اور عرض کی کہ ”اللہ سے دعا کریں ہم پر بارش برسائے اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے

سفارش کر دے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! تم پر افسوس! یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اعلیٰ و عظیم ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چڑھ چڑھتے ہیں جیسے نیا کجاوہ چڑھتا ہے۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے منبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔

(تجلیات نبوت رسولنا صلی الرحمن مبارکپوری)

بنی مرہ کا وفد: قبیلہ بنی مرہ کا تیرہ آدمیوں پر مشتمل وفد آیا۔ ان کا امیر حارث بن عوف تھا۔ آپ ﷺ نے ان سے ان کے وطن کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا: ”ہمارے ملک میں سخت قحط پڑا ہوا ہے آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”الہی! ان پر باران رحمت نازل فرما۔“ یہ چند دن کے بعد تحائف لے کر واپس ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ ان کے علاقے میں اسی دن بارش ہوئی تھی جس دن آپ نے ان کے لیے بارش کی دعا کی تھی۔

(طبقات ابن سعد: 1/298)

بنی ثعلبہ کا وفد: جب رسول اللہ ﷺ جعرانہ سے واپس آئے تو بنو ثعلبہ کے چار افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں: ”ہم نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے نمائندے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے ہماری ضیافت کا حکم دیا۔ ہم کئی دن وہاں مقیم رہے پھر ہم بنی ثعلبہ کو الوداع کہنے آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو بھی تحائف دو جس طرح دیگر وفد کو تحائف دیا کرتے ہو۔ انہوں نے ہم میں سے ہر آدمی کو پانچ اوقیہ چاندی دی۔ (طبقات ابن سعد: 1/298)



سریہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نجران کی طرف (ربیع الاول 10 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نجران میں بنی عبد المذان کی طرف بھیجا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ربیع الاول 10ھ میں نجران کے علاقے میں بنی عبد المذان کی طرف بھیجا۔
(طبقات ابن سعد: 2/169)

نجران: سعودی عرب کا یہ شہر وادی نجران میں حدود یمن کی طرف واقع ہے۔ اس کی آبادی 70 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ شہر نجران صناعہ سے تقریباً 250 کلومیٹر شمال میں ہے۔ سن 9ھ میں نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس موقع پر سورۃ آل عمران کی آیت مباہلہ نمبر 61 نازل ہوئی مگر وہ نجرانی عیسائی مباہلے سے کئی کترا گئے تھے جس سے ثابت ہو گیا کہ نجرانی عیسائی جن عقائد کے پیروکار تھے ان کی صداقت پر انہیں خود کامل اعتماد نہیں تھا۔
(تفہیم القرآن)

وادی نجران مسیحیت کی تاریخ میں ان شہداء کی وجہ سے مشہور ہے جنہیں ذنواں نے 523ء میں آگ کے گڑھوں میں جلایا تھا۔ یہاں تاریخی ٹیلے معابد و یواریں اور سبائی و معینی کتبے پائے جاتے ہیں۔
(المجذبی الاعلام)



حجة الوداع (حجة الاسلام)

(10 ہجری)


رسول اللہ ﷺ نے اس حج میں لوگوں کو ارکان و اعمال حج کی تعلیم دی۔ لوگوں نے آپ کو پورا حج کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس حج میں اپنا مشہور خطبہ ووداع (الوداعی خطبہ) ارشاد فرمایا۔ مؤرخ ابن ہشام^① کی روایت کے مطابق اس خطبے کے چند الفاظ یہ ہیں:

”اے لوگو! میری بات سنو! یوں لگتا ہے کہ اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات اس مقام پر نہیں ہو سکے گی۔ اے لوگو! تمہاری اپنے رب سے ملاقات تک تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح یہ مہینہ اور یہ دن قابل احترام ہیں۔ خبردار! تم ضرور اپنے رب کے پاس جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ سن لو! میں نے تمہیں ہر بات پہنچادی ہے۔

اور سنو! ہر قسم کا سود ختم ہے لیکن تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا۔ نہ کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے کہ سود باقی نہیں رہے گا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا عباس کا سب سود معاف ہو چکا ہے۔ اے لوگو! تمہاری عورتوں کے ذمے تمہارے حقوق ہیں اور تمہارے ذمے ان کے حقوق ہیں لہذا اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔

اے لوگو! میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو۔ بے شک میں نے تمہیں شریعت کی ہر بات پہنچادی ہے۔ اے اللہ! گواہ رہنا۔“






↑ کعبہ شریف اور مسجد حرام کا فضائی منظر

↓ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا منظر




محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



↓ کعبہ شریف کا نیا دروازہ

↑ ملترزم







اضافی توضیحات و تشریحات

حجۃ الوداع

فتح مکہ کے بعد جب یہ فرمان نازل ہوا:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝﴾

”جب اللہ کی مدد آگئی اور مکہ فتح ہو چکا اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھیں اور استغفار کریں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔“
(النصر: 110/1-3)

تو نبی کریم ﷺ سمجھ گئے کہ وقت رحلت قریب آ گیا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ شریعت اور اخلاق کے تمام اساسی اصول مجمع عام میں پیش کر دیے جائیں۔ ہجرت کے بعد اب تک 9 برس گزر چکے تھے مگر آپ ﷺ نے فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا چنانچہ ذی قعدہ 10ھ میں اعلان ہوا کہ امام الانبیاء ﷺ حج کے ارادہ سے مکہ مشرفہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی اور شرف ہمرکابی کے لیے تمام عرب اُٹھ آیا۔ ہفتہ کے دن 26 ذی قعدہ کو آپ ﷺ نے غسل فرمایا اور احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے روانگی ہوئی۔ تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ مدینہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کا میقات ہے پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے جسم پر عطر افشانی کی۔ بعد ازاں آپ ﷺ نے نماز ظہر دو رکعت اور فرمائی احرام کی نیت فرمائی اور قصواء اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پکارا:

(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبَهْجَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)

”اے اللہ! ہم تیرے سامنے حاضر ہیں! اے اللہ! تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم حاضر ہیں۔ بے شک تعریف اور نعمت اور سلطنت سب تیرے ہی لیے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔“

انسانوں کا ایک تلامذہ فیز سمندر آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ کم و بیش لاکھ سوا لاکھ کا جم غفیر تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب سرف (وادی فاطمہ) میں پہنچ کر نبی ﷺ نے غسل فرمایا۔ اگلے دن اتوار 4 ذوالحجہ کو صبح کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا یہ سفر 9 دن میں طے ہوا۔ جب کعبہ شریف پر نظر پڑی تو فرمایا: یا اللہ! اس گھر کے عز و شرف کو دوبالا کر دے۔ پھر کعبہ کا طواف ادا فرمایا۔ پہلے تین چکر دل (کندھے ہلا کر اور اکڑا کر چلنا) کے ساتھ اور باقی چار چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِرِ بُرْجِهِمْ مَعْصًى﴾ ”اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔“

یہاں دو نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی۔ پھر سعی کے لیے صفا و مروہ پر تشریف لائے۔ سات چکر ادا کر لینے کے بعد اعلان فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی آدمی حجامت بخوار احرام کھول دیں۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جنہیں یمن سے نبی کریم ﷺ کے لیے قربانی کے اونٹ لانے کو بھیجا گیا تھا وہ ایک سوانٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعرات کے روز آٹھ ذوالحجہ کو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ ﷺ منیٰ میں تشریف لے گئے جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نویں تاریخ کی نماز صبح ادا فرمائیں۔ جمعہ کے دن نویں تاریخ کو منیٰ سے عرفات روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد ناقہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور ناقہ پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ پھر موقف میں تشریف لائے۔ دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بیچھے بٹھالیا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائیں۔ رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے منیٰ واپس تشریف لے گئے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اونٹنی پر بیچھے بیٹھے تھے۔ وادی حُسر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن دیں۔ حجرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر میدان منیٰ میں تشریف لائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ناقہ کی مہار تھا مے ہوئے تھے۔

منیٰ میں آپ ﷺ نے ایک سوانٹوں کی قربانی ادا فرمائی۔ 63 اونٹ آپ نے خود اپنے دستِ اطہر سے اور 37 اونٹ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ قربانی سے فارغ ہو کر سر مبارک معمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے منڈوایا۔ فرط محبت سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو اپنے دستِ مبارک سے کچھ بال عنایت فرمائے اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو دو کر کے تقسیم کر دیے۔ بعد ازاں طواف زیارت کیا۔ پھر چاہ زمزم پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ذول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ ﷺ نے قبلہ رو کھڑے ہو کر نوش فرمایا اور منیٰ واپس تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ 13 ذی الحجہ سہ شنبہ تک منیٰ میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد منیٰ سے چل کر وادی حُصب (معاہدہ) میں قیام کیا۔ رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ شریف تشریف لائے۔ کعبہ شریف کا الوداعی طواف ادا فرمایا اور نماز صبح کے بعد مدینہ منورہ کو روانگی فرمائی۔

(صحیح مسلم، باب حجة النبیؐ ابو داؤد، باب حجة النبیؐ الأشهر الحرم وغیرہ)



جیش اسامہ رضی اللہ عنہ بقاء کی طرف (صفر 11 ہجری)

یہ آپ ﷺ کی زندگی کی آخری لشکر کشی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”لشکر لے کر اس جگہ جاؤ جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا۔ (جنوبی بقاء میں موتہ کے مقام پر) اور ان کو گھوڑوں کے نیچے روند ڈالو۔“ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے مدینہ منورہ سے تین میل باہر شام کی جانب ”جرف“ کے مقام پر پڑاؤ ڈال لیا۔ لوگ تیاری کر کے ساتھ شامل ہو رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ آپ ﷺ نے وصیت فرمائی: ”اسامہ کا لشکر لازمی بھیج دینا۔“

رسول اللہ ﷺ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی وصیت کے مطابق اس لشکر کو بھیج دیا اور لشکر فتح مند ہو کر واپس آیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے ربیع الاول 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سات سو فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ علاقہ بقاء (اردن) اور ”داروم“ کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے تین میل دور ”جرف“ میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے متعلق تشویش ناک خبروں کے سبب وہیں رک کر انتظار کرنے لگا۔ اس دوران میں اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی اور یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم پر روانہ ہوا۔

صحابہ کرام بشمول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ابھی اس لشکر کو بھیجنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ ایک طرف مرتدین ہیں اور دوسری طرف مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے ہیں۔ مدینہ خود خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے جس لشکر کو رسول اللہ ﷺ نے خود تیار کیا تھا میں اسے نہیں روکوں گا چاہے ہمیں کیسے بھی حالات سے دو چار ہونا پڑے۔ اس لشکر کا بہت اچھا اثر پڑا باقی قبائل یہ جان کر مرعوب ہو گئے کہ اگر یہ لوگ کمزور ہوتے تو یہ لشکر روانہ نہ کرتے۔ (لخص البدایہ والنہایہ۔ بخاری۔ ابن ہشام)

بقاء: اس کا نام بنی عمان بن لوط علیہ السلام میں باقی نامی شخص کی وجہ سے ہے جس نے اسے آباد کیا یا بنی عسل بن لوط علیہ السلام میں بقاء بن سؤیدہ کی وجہ سے ہے۔ بقاء کی گندم کی نفاست ضرب المثل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بقاء ہی میں وہ بستی ہے جس کے متعلق بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا:

﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ (المائدہ: 22) ”اے موسیٰ! اس میں ایک جاہل قوم ہے۔“ (معجم البلدان)

البلقاء کا نام اردن کے اس علاقے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے جس کا مرکزی شہر مختلف وقتوں میں غمان (موجودہ دارالحکومت) حسان یا السلط رہا ہے۔ جغرافیائی مفہوم میں بلقاء شمال میں وادی زرقا سے لے کر جنوب میں وادی الموجب (Arnon) کے مابین واقع ہے۔ کوہ نبی یوشع کی چوٹی (1096 میٹر) اور مادبا کے علاقے میں کوہ نبیو (835 میٹر) یہیں واقع ہیں۔ عہد فاروقی میں جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بلقاء فتح کیا تب اس میں عجلون، اربد، موت اور ماب کے شہر بھی شامل تھے۔ یعقوبی بلقاء کو ”دمشق کی نوآبادی“ اور مقدسی ”فلسطین کے ماتحت“ قرار دیتا ہے۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 4)

داروم: فلسطین میں ساحل بحیرہ روم کے قریب ایک مسطح میدان کا نام ہے۔ خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں فلسطینی شہریت جبرین فتح ہوا تو داروم کا علاقہ اس میں شامل تھا۔ صلیبی جنگجوؤں کا قلعہ داروم اس سڑک پر واقع تھا جو غزہ سے مصر کو جاتی ہے اور اس کی جائے وقوع وہی ہے جس کی نشاندہی آج کل دیرالبلح کے کھنڈر کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے پر خاص طور پر حملہ کیا اور 583ھ/1187ء میں اسے فتح کر لیا۔ پھر تیسری صلیبی جنگ میں 588ھ/1192ء میں برطانوی شاہ رچرڈ ”شیر دل“ اور فرانکوں نے اسے مسخر کر لیا اور اس کے مورچے تڑوا دیے لیکن مملوک عہد تک اس کا شمار دفاعی قلعوں میں ہوتا رہا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 9/158)


حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی ہاشمی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد اور لقب حب رسول اللہ ﷺ یعنی رسول اللہ ﷺ کے محبوب ہے۔ حضرت برکہ ام ایمن کے بطن سے پیدا ہوئے جو کہ نبی ﷺ کی دامیہ تھیں۔ والد زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے محبوب اور منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ نے اسلام ہی میں آنکھ کھولی اور کفر و شرک کی آلودگیوں سے کبھی ملوث نہیں ہوئے۔ بقول صاحب تہذیب العہد یب ”آپ صرف اسلام جانتے تھے۔“

11ھ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس جیش کا سردار مقرر فرمایا جو موتہ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔

عہد فاروقی میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ مقرر کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس پر اعتراض ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”وہ رسول اللہ ﷺ کو تجھ سے زیادہ عزیز تھے اور ان کا باپ تیرے باپ سے زیادہ عزیز تھا۔“

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی وفات 54ھ میں ہوئی جب آپ جرف میں مقیم تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 58ھ میں انتقال فرمایا۔ مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ (تہذیب العہد یب، اسد الغابہ، الاصابہ ابن سعد)

نوٹ: حضرت موسیٰ نے کوہ نبیو (”کتاب مقدس“ میں ”نبو“ لکھا ہے) کے دامن میں وفات پائی تھی اور بیت فغور (مناب، اردن) کے مقابل دفن ہوئے۔



جیشِ اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

(نبی ﷺ کی نبوت کے آخری ایام میں)

صفر 11ھ

رسول اللہ ﷺ کے امراء اور عمال

رسول اللہ ﷺ نے صدقات کی وصولی کے لیے بہت سے امراء اور عمال مقرر فرمائے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- حضرت مہاجر بن ابی امیہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کو صنعاء کی طرف بھیجا۔
- حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ کو حضرموت کا عامل مقرر فرمایا۔
- حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو بنو طے اور بنو اسد کے صدقات کے لیے بھیجا۔
- حضرت مالک بن نویرہ یرویعی رضی اللہ عنہ کو بنو حنظلہ کی طرف بھیجا۔
- حضرت زبرقان بن بدر رضی اللہ عنہ کو بنو سعد کے علاقے میں بھیجا۔
- حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو بنو سعد کے ایک دوسرے علاقے کی طرف بھیجا۔
- بحرین کی طرف پہلے حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔
- حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف بھیجا۔ اس سے قبل آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران کے وفد کے ساتھ امیر مقرر فرما کر بھیج دیا تھا تاکہ وہ انہیں دین اسلام کی تعلیم دیں مسائل سمجھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں۔ آپ نے انہیں ایک تحریر بھی بھیجی تھی جس میں صدقات کے مسائل تفصیل سے لکھوائے تھے۔^①

اضافی توضیحات و تشریحات

مہاجر بن ابی امیہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ: مہاجر بن ابی امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کا نام پہلے ولید تھا نبی ﷺ نے تبدیل کر کے مہاجر رکھ دیا۔ نبی ﷺ نے انہیں یمن (صنعاء) کی طرف بھیجا۔ مہاجر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی ﷺ ان سے ناراض ہوئے تو ان کی بہن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سفارش کی۔ نبی ﷺ نے ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ نبی ﷺ نے انہیں کندہ اور صدف کے صدقات پر عامل مقرر کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی ذمہ داری شروع نہیں کی تھی کہ نبی ﷺ فوت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں یمن میں مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا۔

صنعاء: یمن کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ اس کا نام اس کے بانی صنعاء بن ازال کے نام پر رکھا گیا یا جب اہل حبش نے اس

پر قبضہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھروں سے بنایا گیا ہے تو وہ کہنے لگے **هَذِهِ صُنْعَةُ** (یہ بڑی کاریگری ہے) اس وجہ سے اس کا نام **صنعا** ہو گیا۔
(معجم البلدان: 3/426)

صنعا جمہوریہ یمن کا دار الحکومت ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2196 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کی آبادی 5 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کی چوڑی فصیل ایوبی دور (1174ء تا 1250ء) سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں دسیوں تاریخی مسجدیں ہیں، صنعا صوبائی دار الحکومت بھی ہے۔ محافظہ (صوبہ) صنعا میں صنعا، عمران، الجوف، حوث، محویت، ریحہ، کوکبان اور حراز نامی اضلاع ہیں۔ عہد اسلام سے قبل صنعا میں غمدان کے دو محل اور **قُلَيْس** نامی گرجا مشہور تھے۔ (المعجم فی الاعلام)
زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ زیاد بن لبید بن ثعلبہ انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ یہ نبی ﷺ کی طرف گئے اور آپ کے پاس مکہ میں ہی قیام پذیر رہے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ انہیں مہاجر انصاری کہا جاتا تھا۔ یہ نبی ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ نبی ﷺ نے انہیں حضرموت کا عامل مقرر کیا۔

(اسد الغابہ: 2/339)

حضرموت: بلاد عرب میں یمن کے مشرق میں ایک قدیم مملکت جس کی جنوبی سرحد پر سمندر ہے، مشرق کی سمت میں مہرہ کا علاقہ، شمال مشرق، شمال اور شمال مغرب میں وسطی عرب کا صحرائے اعظم (ربع الخالی) ہے۔ عرب روایت کی رو سے حضرموت کا نام حضرموت بن حمیر بن یرب بن قحطان کے نام سے ماخوذ ہے۔ قدیم زمانے میں حضرموت کی وجہ شہرت لوبان کی وجہ سے تھی۔ یونانی روایت کے مطابق جہاں لوبان پیدا ہوتا تھا، اسے لوبان کی مہلک بو کے باعث ”موت کی سرزمین“ کہا جاتا تھا، چنانچہ عرب لغت نویس یہی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں حضرموت میں جو بادشاہ حکومت کرتے تھے ان کا لقب ”عباہہ“ تھا۔ آپ ﷺ کے وقت میں حضرموت میں آباد کنندہ کے سردار قیس بن اشعث نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جب نبی اکرم ﷺ وفات پا گئے تو وہ منحرف ہو گیا، لیکن بعد میں جلد ہی اس پر قابو پایا گیا۔

بیسویں صدی عیسوی کے ربع اول تک یہ ملک ترکیہ کے زیر سیادت تھا، لیکن یہ سیادت برائے نام ہی تھی۔

حضرموت جمہوریہ جنوبی یمن (اب متحدہ یمن) کا حصہ ہے۔ 1961ء میں اس کی آبادی تقریباً تین لاکھ تھی۔ اس کا اہم ترین شہر اور بندرگاہ **المُکَلَّا** ہے۔
(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: جلد 8)

حضرموت یمن کا ایک صوبہ ہے جس کا دار الحکومت **مُکَلَّا** ہے۔ اس کے دیگر شہر **شرعیون**، **تریم** اور **شہوہ** ہیں۔ حضرموت کی سب سے مشہور وادی (ندی) حضرموت ہے جو سحوت کے قریب بحیرہ عرب میں گرتی ہے۔ دیگر ندیاں شمال میں ربع الخالی کی ریت میں گم ہو جاتی ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، سمسم (Sesame) اور کپاس کی کاشت ہوتی ہے۔ (المعجم فی الاعلام)
عاد اولی (قوم ہود علیہ السلام) کا مسکن اقطاف حضرموت اور ربع الخالی کے درمیان واقع تھا۔ قوم نوح علیہ السلام کی طرح ان کے معبودان باطل بھی وڈ سواع، یغوث، یعوق اور نسر تھے۔ یمن کے موجودہ شہر **مُکَلَّا** سے تقریباً 200 کلومیٹر شمال کی جانب

حضرموت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مزار بنا رکھا ہے اور وہ قبر ہود کے نام ہی سے مشہور ہے۔ علاوہ انہیں حضرت ہود کے مزار کا نام بھی ہے۔ وادی برہوت نامی ریت کے وسیع و عریض سمندر میں کہیں قوم عاد کا وہ شہر دبا پڑا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: او نچے او نچے ستونوں والا ایسا شہر ارم جیسا اور ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ (الفجر: 7، 8)

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ: عدی بن حاتم بن عبد اللہ بن سعد الطائی، ابو طریف، نبی ﷺ کے صحابی، مشہور شاعر اور غنی حاتم طائی کے بیٹے اور اسی کی طرح پہلے عیسائی تھے۔ انہیں قبیلہ کی سرداری اپنے باپ سے ورثے میں ملی۔ 9ھ میں اسلام قبول کیا۔ نبی ﷺ نے ان کو قبیلہ اسد اور طے کے محاصل وصول کرنے پر مقرر کیا۔ انہوں نے عراق کی فتح میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے تقریباً 120 سال عمر پا کر 68ھ/687ء میں وفات پائی۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 13/13)

مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ مالک بن نویرہ بن یزید بن یزید کا سردار تھا۔ یہ خاصا بڑا قبیلہ تھا۔ مالک سخاوت، عروت اور انخصوص بہادری کی وجہ سے ہجرت نبوی سے پہلے ہی بہت مشہور ہو چکا تھا۔ مالک کے ہم عصر بہادری میں اسے لاثانی سمجھتے تھے چنانچہ کہتے: **فَتْسَى وَلَا كَمَالِكٍ** یعنی وہ بہادر تو ضرور ہے، لیکن مالک جیسا نہیں۔ یہ عربوں کے ہاں ایک مثل بن گئی تھی، تاہم اس کی شہرت کا اصلی سبب اس کی المناک موت سے پیدا شدہ تاثر اور اس کے بھائی متمم کے وہ مرثیے ہیں جو اس نے مالک کے متعلق کہے۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہی میں تمیم کے دیگر اکابر کی معیت میں اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے بنو تمیم کے صدقات اکٹھا کرنے کا کام سپرد کر دیا، یعنی آپ نے مالک کو اس کے اپنے علاقے کا والی اور عامل مقرر فرما دیا۔

بدقسمتی سے مالک فتنہ ارتداد کی زد میں آ گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور مالک نے خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کو اپنی فوج کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور دیکھا تو وہ جنگ کرنے سے باز رہا۔ اس نے اس بات کا یقین دلانے پر اطاعت کر لی کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور آخر میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا تاہم غلط فہمی کے باعث قیدیوں کو مالک رضی اللہ عنہ سمیت قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا حکم سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ علاقائی زبانوں کا اختلاف تھا۔

(مختص اسد الغابۃ الکامل فی التاریخ، سیرت ابن ہشام)

زبرقان بن بدر رضی اللہ عنہ زبرقان بن بدر تمیمی سعدی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عیاش یا ابو شذرہ اور ان کا نام حسین تھا۔ ان کو زبرقان ان کے حسن کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ زبرقان کا معنی ہے چاند۔

یہ جاہلیت میں بھی بڑے سردار اور اسلام میں بھی بڑے عظیم المرتبہ تھے۔ بنو تمیم کے وفد میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی ﷺ نے انہیں ان کی قوم بنی عوف کے صدقات پر عامل مقرر کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے عہدے پر بحال رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ان کے عہدے پر بحال رکھا۔

(اسد الغابہ: 2/303، 304)

قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ: قیس بن عاصم بن سنان تمیمی منقری رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو علی تھی۔ ان کی ماں کا نام ام اسفر بنت خلیفہ تھا۔ قیس رضی اللہ عنہ یومئذ کے وفد میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ہجرت کے 9 ویں سال مسلمان ہوئے۔ جب نبی ﷺ نے انہیں دیکھا تو فرمایا: یہ دیہاتیوں کا سردار ہے۔ یہ انتہائی عقلمند اور حلیم تھے۔ احنف بن قیس سے پوچھا گیا تو نے علم کس سے سیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا قیس بن عاصم سے۔ میں نے اسے دیکھا کہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا گردن میں تلوار ڈالے اپنی قوم کے افراد کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھا۔ اچانک اس کے پاس ایک مقتول اور ایک بندھا ہوا شخص لایا گیا۔ اس سے کہا گیا تیرے بھتیجے نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر نہ اس نے اپنے گھٹنے کھولے نہ کلام منقطع کیا۔ جب اس نے کلام مکمل کر لیا تو اپنے بھتیجے کی جانب متوجہ ہو کر کہا: تو نے انتہائی برا کام کیا ہے اپنے رب کے ہاں گنہگار بنے ہو قطع رحمی کی ہے اپنے ہی چچا زاد کو قتل کیا ہے اپنے اوپر ہی تیر چلایا ہے اور اپنی تعداد ہی کو کم کیا ہے۔ پھر اپنے دوسرے بیٹے سے کہا اپنے چچا زاد کے کندھے کھول دو اپنے بھائی کو دفن کرو اور اپنی ماں کے پاس 100 اونٹ دیت لے جاؤ۔

(اسد الغابہ: 4/411، 412)

علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ: علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ یہ حضرموت کے رہنے والے اور حرب بن امیہ کے حلیف تھے۔ نبی ﷺ نے انہیں بحرین کا والی مقرر کیا۔ یہ نبی ﷺ کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی تمام خلافت کے دوران میں انہیں برقرار رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا۔

حضرت علاء رضی اللہ عنہ اس عامر بن الحضرمی کے بھائی تھے جو بدر والے دن کافروں کی جانب سے قتل ہوا۔ عمرو بن حضرمی بھی آپ کا بھائی تھا جو مشرکوں کا پہلا مقتول تھا جسے مسلمانوں نے قتل کیا اور اس کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا۔

حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ اہل بحرین کے مرتدین کے خلاف انہوں نے بڑا موثر حصہ لیا۔ آپ 14 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 21 ہجری میں بحرین کے والی ہونے کی حالت میں فوت ہوئے۔

(اسد الغابہ: 4/71)

ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ: ابان بن سعید بن عاص قرشی اموی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند یا صفیہ بنت مغیرہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ ابونعیم کہتے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے اور اس میں حاضر بھی ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ وہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف گئے۔ وہاں ایک راہب سے ملے اور اس سے نبی ﷺ کے متعلق دریافت کیا۔ راہب نے نبی ﷺ کی مکمل صفات بیان کرتے ہوئے کہا: ”اللہ کی قسم! وہ ضرور عرب پر غالب آئے گا“ پھر ساری روئے زمین پر غالب آئے گا۔ اس نیک آدمی کو میرا سلام کہنا۔“ واپس آ کر ابان مسلمان ہو گئے۔ جب حدیبیہ والے دن نبی ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تھا تو ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے انہیں پناہ فراہم کی تھی۔ نبی ﷺ نے انہیں بحرین کا والی مقرر کیا۔ ابان رضی اللہ عنہ نے معرکہ اجنادین میں شہادت پائی۔

(اسد الغابہ: 1/148، 150)

بحرین: زمانہ قبل از اسلام اور ابتدائے اسلام میں اس نام کا اطلاق مشرقی عرب (موجودہ سعودی صوبہ الاحساء) پر ہوتا تھا جس میں القطیف اور الجفر کے نخلستان شامل ہیں۔ آگے چل کر یہ نام محض اس مجمع الجزائر کے لیے مخصوص ہو گیا جو ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ آج کل البحرین یا بحرین (خلیج فارس کی) ایک ریاست ہے جو جزیرہ نمائے قطر اور سعودی عرب کے درمیان واقع اسی نام کے ایک مجمع الجزائر پر مشتمل ہے۔ اس میں جزیروں کا ایک اور مجموعہ بھی شامل ہے جو قطر کے مغربی ساحل پر واقع ہے اور جس کا سب سے بڑا جزیرہ حواری ہے۔ امارت بحرین کا سب سے بڑا جزیرہ عربی کے قدیم مآخذ میں اَوَال یا اَوَال اور آج کل البحرین کہلاتا ہے۔ یہ تقریباً 30 میل لمبا اور زیادہ سے زیادہ 12 میل چوڑا ہے۔ امارت بحرین کا دارالحکومت منامہ ہے۔

نعمیری دور میں جزائر بحرین کو دلمون یا دمن کہا جاتا تھا۔ (المنجذ فی الاعلام)

عمرو بن حزم بن حنیف: عمرو بن حزم بن زید بن لوذان انصاری رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ضحاک تھی۔ غزوہ خندق اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ نبی ﷺ نے انہیں نجران کا عامل مقرر کیا۔ آپ نے انہیں ایک کتاب لکھوا کر دی جس میں فرائض، زکوٰۃ اور خون بہا کی تفصیلات تھیں۔ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔

(اسد الغابہ: 4/202، 203)





جی

جھوٹے مدعیانِ نبوت


مسیلمہ کذاب: اس کا پورا نام ابو ثمامہ مسیلمہ بن ثمامہ تھا۔ یہ بنو حنیفہ (یمامہ) کا جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ اس نے آنحضرت ﷺ کی زندگی ہی میں جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ سن 9 ہجری میں جب مختلف وفود آئے تو یمامہ سے بنو حنیفہ کا وفد بھی آیا جس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ جب یہ مسلمان ہو کر واپس گئے تو مسیلمہ مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا اور من گھڑت الہامات سناتے لگا۔ اس نے مسیح و مقلع کلام بھی کہا۔ مسیلمہ نے ایک خط کے ذریعے رسول اللہ ﷺ سے نبوت اور حکومت میں شراکت کا سوال کیا مگر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تو معمولی سی چیز بھی دینے کو تیار نہیں ہوں اور تو نبوت میں حصہ مانگتا ہے!“

رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے گیارہ لشکر ترتیب دیے تھے جن میں سے ایک لشکر عکرمہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ ان کی پسپائی کے باعث خالد بن ولید اور شریہیل بن حسنہ رضی اللہ عنہما کو روانہ کیا جنہوں نے زبردست جنگ میں مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔

مسیلمہ کذاب کے قتل کے بعد اس کی قوم بنو حنیفہ نے صلح کی خاطر ہتھیار ڈال دیے۔ بنو حنیفہ کا سارا مال اور ہتھیار ضبط کر لیے گئے۔ شرائط صلح طے ہو چکی تھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچا کہ بنو حنیفہ کے تمام بالغ آدمی قتل کر دیے جائیں لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ طے پانے کے بعد ایسا کرنے سے معذوری ظاہر کی کیونکہ یہ بدعہدی کے مترادف تھا۔ مسلمانوں کا یہ طرز عمل دیکھ کر بنو حنیفہ نے اسلام قبول کر لیا۔

جنگ یمامہ میں بڑی خون ریزی ہوئی۔ فریقین کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ چھ سات سو مسلمان شہید ہوئے جن میں بعض اکابر اور نامور قراء اور حفاظ بھی شامل تھے..... جنگ یمامہ کی تاریخ بعض مؤرخوں نے 11ھ اور بعض نے 12ھ لکھی ہے۔ ابن کثیر نے اس کی تطبیق یوں کی ہے کہ 11ھ میں شروع ہوئی اور 12ھ میں ختم ہوئی۔ (تلیخص اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 21/134، 138)

طلحہ اسدی: رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بنو اسد اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ ان کے لشکر کو جو طلحہ کذاب کے تحت مسلمانوں سے لڑنے نکلا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہر باز پر 11ھ میں شکست دی جو بنو اسد یا بنو طے کے علاقہ نجد میں ایک کنواں ہے۔ اس لڑائی میں بنو طے کے ایک ہزار آدمی طلحہ سے الگ ہو کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر سے آ ملے تھے۔ طلحہ کی مدد پر غینہ بن حصن اور غطفان کے قبیلہ فزارہ کے سات سو جوان بھی تھے جو بنو اسد کے پرانے حلیف تھے۔ خونریز لڑائی کے بعد غینہ نے جب دیکھا کہ طلحہ جن پیغمبری قوتوں کا دعویٰ کیا کرتا تھا وہ مسلمانوں کے مقابلے میں عملاً بیکار



ثابت ہو رہی ہیں تو وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ چنانچہ طلحہ کو بھی بھاگنا پڑا۔ بنو اسد نے خالد بن ولیدؓ کی اطاعت قبول کر لی۔ آس پاس کے قبائل جیسے بنو عامر جو جنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے اب اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ (معجم البلدان: 1/408 طبری: 2/482)

طلحہ شکست کھا کر شام کی طرف فرار ہوا اور بنو کلب کے پاس جا ٹھہرا۔ جب پتہ چلا کہ بنو اسد غطفان اور بنو عامر مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ طلحہ بعد میں جنگ نہاوند میں شہید ہوا۔ (المنتظم: 4/25)

سجاح بنت حارث: سجاح بنت حارث عرب کی ایک کاہنہ اور ان چند متنبیوں میں سے تھی جو عرب میں رذہ سے تھوڑی مدت پہلے یا اس کے دوران میں نمودار ہوئے تھے۔ وہ بنو تمیم میں سے تھی۔ ماں کی طرف سے اس کی قرابت داری عیسائی قبیلہ بنو تغلب سے تھی۔ وہ خود بھی عیسائی مذہب رکھتی تھی۔ وہ منبر سے متحنی نثر میں اپنے اعتقادات کا پرچار کیا کرتی اور ایک منادی اور ایک حاجب اس کی خدمت میں حاضر رہا کرتا۔ اس کے نزدیک خدا کا ایک لقب ربُّ الحساب تھا۔

سجاح نبی ﷺ کی وفات کے بعد منظر عام پر آئی۔ اس نے مسیلہ کذاب سے شادی کر لی تو اس کی ساری سرگرمیاں پس منظر میں چلی گئیں۔ ابن الکلبی کے مطابق اس نے تابہ ہو کر اس وقت مذہب اسلام اختیار کیا جب اس کے خاندان نے بصرے میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا جو بنو امیہ کے تحت بنو تمیم کا صدر مقام بن گیا تھا۔ اس نے وہیں اسلام کی حالت میں وفات پائی۔ (ملخص اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 10/738، 739)

البطحاح: یہ بنو اسد بن خزیمہ کے علاقے میں پائے جانے والے ایک چشمے کا نام ہے جہاں مسلمانوں کی حضرت خالد بن ولیدؓ کی قیادت میں مرتدین سے لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں ضرار بن ازور اسدیؓ نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا۔ (معجم البلدان: 1/445)

مہرہ: یہ عرب کے جنوب میں بحر ہند (بحیرہ عرب) کے کنارے ایک علاقہ ہے جو حضرموت اور ظفار کے درمیان واقع ہے۔ لیکن عرب جغرافیہ نگار خود ظفار کو بھی مہرہ ہی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ (معجم البلدان: 5/234 اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 21/898) آج کل مہرہ، یمن میں شامل ہے اور مشرق میں خلیج قمر تک وسیع ہے۔

تریم: مہرہ کے شمال مغرب میں وادی حضرموت میں تریم کا تاریخی شہر ہے جو صنعاء سے 735 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اسے مسجدوں کا شہر کہتے ہیں جہاں 365 مساجد پائی جاتی ہیں۔ آبادی 70 ہزار ہے۔ اس شہر کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد یمن میں یہی ایک شہر تھا جو ارتداد کا شکار نہیں ہوا تھا۔ تریم کے دروازوں پر مرتدین سے فیصلہ کن معرکہ ہوا تھا اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا تھا اور اہل ایمان کو فتح ہوئی تھی۔ ان اصحاب النبی کے مدفن کو یہاں ”الشہداء“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکرؓ نے اس شہر اور اس کے باسیوں کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ (ارض الاحقاف کا سفر اور مشاہدات..... سید حامد عبدالرحمن الکاف بحوالہ قرآن انٹرنیٹ نیٹ)

دُومۃ الجندل: یہ وادی سرحان کے سرے پر ایک نخلستان ہے۔ وادی سرحان سعودی عرب اور اردن میں جنوب مشرق

سے شمال مغرب کی طرف پھیل ہوئی ہے۔ اس کے ایک سرے پر دومۃ الجندل اور دوسرے سرے پر حوران اور شام کا کوہستان ہے۔ دومۃ الجندل کا نخلستان ایک وسیع نشیبی زمین (الجوف) میں ہے جس کا طول تین میل، عرض آدھ میل اور گہرائی پانچ سو فٹ ہے۔ عرب مصنفین نے کہا ہے کہ جب تہامہ اسمعیل علیہ السلام کے کثیر التعداد گھرانوں کے لیے کافی چراگاہیں مہیا نہ کر سکا تو ان کا ایک فرزند ”دوم یا دومان یا دوما“ نامی ہجرت کر کے اس علاقے میں چلا آیا اور اسی کے نام پر اس علاقے کا نام دومہ پڑ گیا۔ اس نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا جس کی وجہ سے اس کا نام دومۃ الجندل ہو گیا۔ قبل اسلام یہاں وڈ بہت کی پرستش ہوتی تھی۔

دومۃ الجندل کے باشندے بنو کلب کی شاخ بنو کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت محمد ﷺ نے اسے فتح کرنے کے لیے تین غزوات کیے: پہلا غزوہ 5ھ میں ہوا جس میں خود نبی ﷺ قائد اکھش تھے۔ اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا کیونکہ نخلستان کے باشندے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی تہتر ہتھ ہو گئے تھے۔ دوسرا غزوہ 6ھ میں پیش آیا جس کے قائد اکھش حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سردار اصبغ بن عمرو کلبی نے اسلام قبول کر لیا۔ تیسرے غزوے کی آنحضرت ﷺ نے تبوک سے تیاری کی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دومۃ الجندل پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی آبادی پر تاوان جنگ عائد کیا اور سردار اُکسندر بن عبدالملک الکندی السکونی پر زور ڈالا کہ مدینہ منورہ جا کر نبی ﷺ سے معاہدہ صلح کرے۔ (فتوح البلدان، طبقات ابن سعد، معجم البلدان)

1855ء میں دومۃ الجندل حائل کے تحت ایک ریاست بن گیا۔ 1909ء میں قبائل روالہ کے سردار نوری ابن شعلان اور 1920ء میں امیر شمر نے اس پر قبضہ کر لیا اور آخر کار عبدالعزیز بن سعود نے اسے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ نومبر 1925ء میں ابن سعود اور انگریزوں کے درمیان حد بندی کا معاہدہ ہوا تو اس میں سرحدیں معین کر دی گئیں۔ اس وقت سے وادی سرحان مع دومۃ الجندل اور قریات الملع نجد (سعودی عرب) کا حصہ قرار پا گئے۔ (تفہیم اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 473/9، 476) (الحمقین: یہ شام کی سطح مرتفع میں واقع ہے جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ معجم البلدان: 305/2)

آٹھ ہجری میں نبی ﷺ نے العلماء بن عبداللہ الحضرمی کو اہل بحرین کو دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ اسلام قبول کر لیا جائے جو یہ دینے پر آمادہ ہو جاؤ۔ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ نبی ﷺ کی وفات کے بعد اہل بحرین نے ارتداد اختیار کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی بغاوت کا قلع قمع کیا۔ (معجم البلدان: 1/348)

بحرین: عہد نبوی میں اور اس کے بعد جزیرہ نمائے عرب کا شرقی ساحل البحرین کہلاتا تھا جسے ان دنوں الاحساء (سعودی عرب) کہتے ہیں۔ معجم البلدان جلد اول میں لکھا ہے: ”یہ اس علاقے کا نام ہے جو بصرہ اور عمان کے درمیان بحر ہند (خلیج فارس) کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔“ آج کل مملکت بحرین خلیج فارس کے چند جزائر پر مشتمل ہے جو قطر اور سعودی عرب کے درمیان واقع ہیں اور ان میں سب سے بڑا جزیرہ بھی بحرین کہلاتا ہے۔ اب سعودی ساحل (الخبر) کو 35 کلومیٹر

لے سمندری پل کے ذریعے جزیرہ بحرین سے ملا دیا گیا ہے۔
 تہامہ یمن: یہ بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ باب المندب اور خلیج عدن تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں حدیدہ مناخہ بیت الفقیہ
 زبید عک، مٹھا اور بعر وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔

(اطلس العالم، مکتبہ لبنان بیروت)



حروب الردۃ (ارتداد کی جنگیں)

شریعت اسلامی کی اصطلاح میں الردہ یا ارتداد سے مراد ہے اسلام سے پھر جانا اور دوبارہ کفر اختیار کر لینا۔ تاریخ اسلام میں خلافت صدیقی کے زمانے میں بعض بدوی قبائل اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ ایک جماعت نے یہ کہہ کر ارتداد اختیار کیا کہ ”اگر محمد ﷺ نبی ہوتے تو آپ کو موت نہ آتی۔“ دوسری جماعت نے کہا: ”آپ (ﷺ) کی وفات سے نبوت ختم ہو گئی، اس لیے ہم اب کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔“ بعض نے کہا: ”ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔“ بعض مدعیان نبوت بھی نمودار ہو گئے تھے، مثلاً مسلمہ کذاب، طلحہ اسدی، سجاح اور مالک بن نویرہ وغیرہ۔ اس قسم کے عناصر مل کر قبائل کے ارتداد کا باعث بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتہائی جرأت و تدبر اور عزیمت کے ساتھ ان فتنوں کا استیصال کیا۔



خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں (۵۱۱)

﴿وَمَا مَعْشَرُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ أَفَإَنْتَ مَكِينٌ أَوْ تُرْسِلَ إِلَيْكُمُ عَنْ أَصْفَاءِ كُتُبِهِ
وَمَنْ يَتَّقِلْ يَلْقَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَلَنْ يُغْنِيَ اللَّهُ شَيْئًا
وَيَسْخَرِي اللَّهُ الشُّكْرَ مِنْكُمْ﴾ اور میں نے جو تم کو ایک رسول بنا
تھیں، تو کچھ یہ بات کہ پہلے بھی رسول بنا کر دیا اور تم نے انہیں
نہ مانے، تو میں تم پر عذاب کرتا ہوں، اور تم کو اپنے رسول کے پیچھے
پر تو رہو، انھیں تم سے بھی نہ مانو، اللہ کو تم سے کچھ اور شے۔ یہ ارادہ کہ اللہ

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



فتنہ ارتداد کی جنگیں

گیارہ لشکروں کی تفصیل (نمبر شمار اور نقشہ کی مدد سے)

نمبر شمار	امیر لشکر	لشکر کی سمت
۱	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ	ان کو بڑا نجد کی طرف بھیجا گیا جہاں طلحہ بن خویلد اسدی موجود تھا۔ پھر وہ بطاح گئے جہاں مالک بن نویرہ کی سرکوبی مقصود تھی۔ پھر یرامہ گئے جہاں مسیلہ کذاب کا مرکز تھا۔
۲	حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل	پہلے یرامہ کی طرف مسیلہ کذاب کے مقابلہ کے لیے گئے۔ ان کو احتیاطاً بھیجا گیا تھا تا کہ یرامہ میں بڑی جنگ کے لیے تیاری کی جاسکے۔ اصل معرکہ حضرت خالد بن ولید کے ذمے تھا۔ حضرت عکرمہ کے ساتھ دو ہزار جنگجو تھے۔ پھر وہ یرامہ کی طرف گئے جہاں ذوالتاج لقیط بن مالک ازدی کی سرکوبی مقصود تھی۔
۳	حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ	یہ تبوک اور دومۃ الجندل گئے جہاں قضاۃ و ولیدہ اور حادث کے قباہل تھے۔
۴	شرضیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ	یہ حضرت عکرمہ کے بعد احتیاطاً یرامہ بھیجے گئے تا کہ مسیلہ کذاب سے فیصلہ کن لڑائی لڑی جاسکے۔ پھر وہ حضرموت گئے۔
۵	خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ	انہیں شامی سرحد پر حمقین کی طرف بھیجا گیا۔
۶	طریقہ بن حازم رضی اللہ عنہ	انہیں مکہ اور مدینہ کے مشرق میں ہوازن اور بنو سلیم کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔
۷	علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ	انہیں بحرین کی طرف بھیجا گیا جہاں مغرور منذر بن نعمان بن منذر کی سرکوبی مقصود تھی۔
۸	حذیفہ بن محسن قلعی رضی اللہ عنہ	ان کو عمان میں ذوالتاج لقیط بن مالک ازدی کی طرف بھیجا گیا۔ پھر وہ مہرہ حضرموت اور یمن گئے۔
۹	عرفہ بن ہرثمہ باریقی رضی اللہ عنہ	ان کو پہلے عمان، پھر مہرہ حضرموت اور یمن بھیجا گیا۔
۱۰	مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ	ان کو یمن بھیجا گیا جہاں اسود غسی کے کچھ حامی باقی تھے۔ پھر انہیں سند و اور حضرموت کی طرف بھیجا گیا۔
۱۱	نویہ بن مقرن مزی رضی اللہ عنہ	انہیں تہامہ (یمن) اور بحر احمر کے ساحل کی طرف بھیجا گیا۔

حدیث

تدوین حدیث — مراتب حدیث



اصولِ ستہ اور ان کے مؤلفین



علمی سفر کے نقشوں کی تفصیلات

حدیث نبوی کی تعریف و تدوین اور مراتب حدیث

لغت میں صحیح سے مراد وہ چیز ہے جو ہر عیب اور شک و ریب سے محفوظ ہو نیز تمام نقائص اور بیماریوں سے پاک ہو۔ علم اصول حدیث کے لحاظ سے صحیح مقبول حدیث کو کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابل ضعیف حدیث ہوتی ہے جسے مردود کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان حسن حدیث ہوتی ہے جس میں صحت کے اعتبارات کے ساتھ ضبط کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو۔ علمائے اصول حدیث کے نزدیک صحیح حدیث کی تعریف یوں ہے: ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غیر معلل ولا شاذ۔

”وہ حدیث (اور حدیث بول کر عموماً مرفوع حدیث مراد لی جاتی ہے) جس کی سند متصل ہو اور پورے ضبط کا حامل اپنے جیسے ثقہ سے بیان کرے اور سند آخر تک متصل ہو نیز وہ شدوذ اور علت سے محفوظ ہو۔“

”مرفوع“ سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی ہو۔ ”شدوذ“ سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے تمام راوی عادل اور مضبوط حافظے کے مالک ہوں نیز راوی اپنے سے زیادہ ثقہ اور معتبر راویوں کی روایت کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ ”علت“ سے مراد کوئی خفیہ عیب یا خلل ہے۔ بسا اوقات ایک حدیث ظاہراً عیوب سے پاک ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی پوشیدہ عیب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی روایت بھی صحیح نہیں ہوتی۔^①

جب کسی روایت کے بارے میں ”متفق علیہ“ یا ”رواہ الشیخان“ کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسے امام بخاری اور مسلم رحمہما نے اپنی اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ جب دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہوں تو ”متفق علیہ“ ورنہ ”رواہ الشیخان“ لکھا جاتا ہے۔

صحیح حدیث کے سات مرتبے ہیں:

- 1- سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہما دونوں بیان کریں۔
- 2- جس حدیث کو صرف امام بخاری رحمہما بیان فرمائیں۔
- 3- جس روایت کو صرف امام مسلم رحمہما بیان فرمائیں۔
- 4- جو حدیث امام بخاری و مسلم رحمہما دونوں کی شرائط پر پوری اترتی ہو مگر انہوں نے اسے بیان نہ کیا ہو۔
- 5- جو حدیث صرف امام بخاری رحمہما کی شرط کے مطابق ہو مگر انہوں نے اسے بیان نہ کیا ہو۔
- 6- جو حدیث صرف امام مسلم رحمہما کی شرط کے مطابق ہو مگر انہوں نے اسے بیان نہ کیا ہو۔
- 7- وہ صحیح حدیث جسے امام بخاری و مسلم رحمہما کے بجائے دوسرے ائمہ میں سے کسی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہو نیز وہ

بخاری و مسلم میں سے کسی کی شرط کے مطابق نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے ایسے صحابہ کو جو اچھی طرح کتابت جانتے تھے حدیث لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ اسی طرح ان صحابہ کو بھی لکھنے کی اجازت عطا فرمائی جو زبانی حفظ کرنے پر اچھی طرح قدرت نہ رکھتے تھے۔ پھر کتابت حدیث عام ہو گئی کیونکہ کتابت کا دور آ گیا، اسی لیے بے شمار تابعین حضرات صحابہ رحمہم کے سامنے احادیث لکھا کرتے تھے۔


- حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے کئی مجموعے موجود تھے۔
- حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے کے پاس بھی بکثرت احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں۔
- حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ”صحیفہ صادقہ“ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں مدون فرمایا تھا۔
- حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا صحیفہ دو صحابہ میں مدون ہوا۔ اس کا کچھ حصہ رسول اللہ ﷺ کے دور ہی میں مدون ہو گیا تھا۔

- حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت (99-101 ہجری) میں مدینہ منورہ کے علماء کو لکھا: ”رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو تلاش کرو اور لکھو۔ مجھے خطرہ ہے کہیں اہل علم کی رحلت سے علم مٹ ہی نہ جائے۔“
- حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے احادیث جمع کرنے اور لکھنے کا حکم دیا تو ہم نے کئی نسخے تیار کیے اور انہوں نے اپنی حدود مملکت میں وہ نسخے ایک ایک کر کے بھیج دیے۔“



مشہور ائمہ حدیث شریف

- 1- ابو عبد اللہ محمد بن مسلمہ بخاری
- 2- ابو یوسف یحییٰ بن یحییٰ بخاری
- 3- ابو داؤد سجستانی
- 4- ابی نعیم حماد بن عمار قزوینی
- 5- ابو عبد الرحمن احمد بن علی نائی
- 6- ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ ترمذی
- 7- ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل
- 8- ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ ترمذی
- 9- ابو عبد اللہ امام ربیع بن شعیب مالکی



اصول ستہ

- 1- بخاری
- 2- مسلم
- 3- ابوداؤد
- 4- ترمذی
- 5- نسائی
- 6- ابن ماجہ

بکیرہ عرب

- 7- سند امام احمد بن حنبل
- 8- دارق
- 9- مؤطا امام مالک

صحیح البخاری

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری رحمہ اللہ

پیدائش: بخارا 194ھ بمطابق 810ء وفات: خرتک (سمرقند کی ایک بستی) 256 ہجری 870ء
 شیخ الاسلام امام بخاری "الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سنتہ و آیامہ" معروف صحیح بخاری کے مؤلف ہیں۔ اس کے علاوہ اسمائے رجال کے بارے میں ان کی دو مشہور کتابیں "التاریخ" اور "الضعفاء" ہیں۔ یتیمی کی حالت میں نشوونما پائی۔ 210 ہجری میں طلب حدیث کے سلسلے میں لمبا سفر شروع کیا اور خراسان، عراق، مصر، شام اور دوسرے علاقوں کا سفر کیا۔ تقریباً ایک ہزار اساتذہ سے حدیث سنی اور تقریباً چھ لاکھ احادیث جمع کیں جن میں انتہائی قابل اعتماد حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق (7397) احادیث اپنی صحیح میں درج کیں۔ تکرار حذف کر دیا جائے تو (2602) احادیث رہ جاتی ہیں۔ اس قسم کی اولین کتاب لکھنے والے آپ ہی ہیں۔






صحیح مسلم

امام ابوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری رحمہ اللہ

پیدائش: نیشاپور 204 ہجری برطانیق 820ء وفات: نیشاپور 261 ہجری برطانیق 875ء
آپ ائمہ حدیث میں مشہور حافظ حدیث ہیں۔ حجاز، مصر، شام اور عراق کے سفر کیے۔ آپ کی سب سے مشہور تالیف ”صحیح مسلم“ ہے۔ اس میں تکرار کو حذف کریں تو (3033) احادیث ہیں 15 سال میں یہ تالیف ہوئی۔ آپ کی اکیس مؤلفات میں سے چند ایک یہ ہیں ”المسند الکبیر علی الرجال“ ”الجامع علی الأبواب“ اور ”الکنی والاسماء“۔



حصول علم کے لیے امام مسلم بن الحجاج کے سفر جائزہ سفر شام عراق.....



سنن ابی داود

امام ابو داود سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر از دی بختانی رحمہ اللہ

پیدائش: بختان 202 ہجری بمطابق 817ء وفات: بصرہ 275 ہجری بمطابق 889ء

آپ اپنے دور میں امام اہل حدیث تھے۔ بغداد بصرہ اور دیگر اسلامی شہروں کے لیے سفر کیے۔ ان کی مشہور کتاب ”السنن“ ہے جس میں مصنف کے قول کے مطابق 14800 احادیث ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کی تالیفات میں ”المرا سیل“ اور ”کتاب الزہد“ زیادہ مشہور ہیں۔



جامع الترمذی

امام محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ سلمیٰ بوغی رحمہ اللہ


پیدائش: ترمذ 209 ہجری بمطابق 824ء وفات: ترمذ 279 ہجری بمطابق 892ء

آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اساتذہ سے تلمذ میں ان کے ساتھی بھی ہیں۔ خراسان عراق اور حجاز کے لیے سفر کیے۔ حافظے میں ضرب المثل تھے۔ مشہور تالیفات ”الجامع الکبیر“ (صحیح ترمذی) ”الشمائل النبویہ“ ”التاریخ“ اور ”العلل“ ہیں۔



حصول علم کے لیے امام ترمذی کے سفر

بخارا خراسان عراق حجاز.....



سنن النسائی


امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار نسائی رحمۃ اللہ علیہ

پیدائش: 215 ہجری بمطابق 830ء وفات: القدس 303 ہجری بمطابق 915ء

آپ قاضی اور حافظ حدیث تھے۔ کئی شہروں میں گھومے پھرے۔ آخر کار مصر کو وطن بنا لیا۔ رملہ میں فوت ہوئے "بیت المقدس" میں دفن ہوئے۔ بعض کہتے ہیں حج کرنے گئے تو مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے۔ مشہور تالیفات: السنن الکبریٰ، "المجتبیٰ" (السنن الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے) الضعفاء والمتروکون، مسند علی، مسند مالک۔



معمول علم کے لیے
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر
شہزادوں میں پھرے مسکروں کو بنایا رملہ میں
وفات پائی اور القدر میں دفن ہوئے)



سنن ابن ماجہ


امام ابن ماجہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ربیع قزوینی رحمہ اللہ

پیدائش: قزوین 209 ہجری 824ء وفات: قزوین 273 ہجری 887ء

آپ قزوین کے رہنے والے تھے۔ طلب حدیث کے لیے بصرہ بغداد، شام، مصر، حجاز اور رے کے طویل سفر کیے۔ ان کی مشہور کتاب ”سنن ابن ماجہ“ ہے۔ اس میں کل 4341 احادیث ہیں۔ ان میں 3002 دیگر کتب خمسہ میں موجود ہیں۔ 1339 زائد ہیں جن میں 613 کی سند میں کمزوری ہے۔ 99 ناقابل اعتبار یا جھوٹ ہیں۔ اس لیے اس سنن سے کوئی حدیث لینے سے پہلے اس کا درجہ جان لینا ضروری ہے۔




حصولِ علم کے لیے
امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے سفر
بصرہ بغداد شام مصر حجاز رے.....



مسند احمد امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی واکلی رحمہ اللہ

پیدائش: بغداد 164 ہجری بمطابق 780ء وفات: بغداد 241 ہجری بمطابق 855ء
آپ کے آباء و اجداد ”مزق“ کے رہنے والے تھے۔ امام صاحب بغداد میں پیدا ہوئے۔ اوائل عمر سے ہی طلب علم کے شائق تھے۔ طلب علم کے لیے کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام، ثغور (سرحدی علاقہ ترکی)، مغرب (مراکش)، الجزائر، عراق، ابواز، فارس، خراسان اور جبال (ایران) کے طویل سفر کیے۔ ”مسند“ تالیف فرمائی جس میں تکرار سمیت تیس ہزار احادیث ہیں۔ دیگر کتب بھی ہیں۔ حنبلی مذہب کے امام ہیں۔ معتزلہ کے عقائد میں معتصم عباسی کے دور میں عظیم الشان جرأت کا مظاہرہ فرمایا۔





قیردان (دولس) محل مسجد خدیجہ بن خدیج واط




سنن الدارمی

امام ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن فضل بن بہرام تمیمی دارمی سمرقندی رحمہ اللہ

پیدائش: سمرقند 181 ہجری بمطابق 797ء وفات: سمرقند 255 ہجری بمطابق 869ء
آپ نے حجاز، شام، مصر، عراق اور خراسان میں بے شمار محدثین سے احادیث سنیں۔ انتہائی سمجھ دار صاحب علم و فضل
مفسر قرآن اور فقیہ تھے۔ علم حدیث میں ان کی مشہور کتب ”المسند“ اور ”الجامع الصحیح“ ہیں۔ جامع کو ”سنن
دارمی“ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور کتاب ”الغلیات“ بھی قابل ذکر ہے۔



حصوں علم کے لیے امام دارمی رحمہ اللہ کے سفر جہاد شام عراق خراسان.....




موطا امام مالک

امام ابو عبد اللہ مالک بن انس بن مالک اصبحی حِمیری رحمۃ اللہ علیہ

پیدائش: مدینہ منورہ 93 ہجری بمطابق 712ء وفات: مدینہ منورہ 179 ہجری بمطابق 795ء

آپ ”امام دار الہجۃ“ کے لقب سے معروف ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ ”مالکی“ مسلک آپ کی طرف منسوب ہے۔ دین میں بڑے مضبوط تھے۔ مشہور کتاب ”موطا“ تالیف فرمائی۔ علاوہ ازیں وعظ کے بارے میں ایک کتاب، مسائل کے بارے میں ایک کتاب، قدریہ کی تردید میں ایک رسالہ اور ستاروں کے متعلق ایک کتاب لکھی، نیز ایک کتاب ”تفسیر غریب القرآن“ بھی ان کی مفید تالیفات میں سے ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں ایک بہترین کتاب ”تزیین الممالک بمناقب الامام مالک“ کے نام سے لکھی ہے۔ دیگر کتب احادیث: مذکورہ کتب کے علاوہ بھی علم حدیث میں بہت سی مسانید، موطاء، مستدرکات اور معاجم لکھی گئی ہیں۔ جیسے مستدرک حاکم نیشاپوری، ابن حبان، سنن دارقطنی، سنن بیہقی، بغوی، طبرانی اور دیگر مصنفین کی کتب ہیں۔





<p>ائمہ ابو داؤد بیہیہ</p> <p>پیدائش: بخستان (افغانستان)</p> <p>وفات: بصرہ (جنوبی عراق)</p>	<p>ائمہ مسلم بیہیہ</p> <p>پیدائش: نیشاپور</p> <p>وفات: مضافات نیشاپور (ایران)</p>	<p>ائمہ بخاری بیہیہ</p> <p>پیدائش: بخارا</p> <p>وفات: خرقہ (سرقد کی ایک لہی)</p> <p>(ازبکستان)</p>
<p>ائمہ ابن ضہل بیہیہ</p> <p>پیدائش: بغداد</p> <p>وفات: بغداد (عراق)</p>	<p>ائمہ نسائی بیہیہ</p> <p>پیدائش: نسا (ترکمانستان)</p> <p>وفات: القدس (فلسطین)</p>	<p>ائمہ ترمذی بیہیہ</p> <p>پیدائش: ترمذ</p> <p>وفات: ترمذ (ازبکستان)</p>
<p>ائمہ ابن ماجہ بیہیہ</p> <p>پیدائش: قزوین</p> <p>وفات: قزوین (ایران)</p>	<p>ائمہ مالک بیہیہ</p> <p>پیدائش: مدینہ منورہ</p> <p>وفات: مدینہ منورہ (سعودی عرب)</p>	<p>ائمہ دارمی بیہیہ</p> <p>پیدائش: سرقد</p> <p>وفات: سرقد (ازبکستان)</p>

نوٹ: ائمہ نسائی کی رملہ میں وفات اور القدس میں تدفین والی بات کمزور ہے۔ درست یہ ہے کہ ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور وہ صفا اور مرہ کے مابین دفن ہوئے۔

(مقدمہ سنن النسائی الصغریٰ، دار السلام، الرياض)

راویان حدیث کے مقامات کا تعارف

بخارا: یہ دریائے زرافشاں کی زیریں گزرگاہ پر ایک بڑے نخلستان میں واقع ہے۔ بخارا آج کل ازبکستان میں شامل ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 722 فٹ ہے۔ بخارا کا قدیم ترین ذکر ساتویں صدی عیسوی کے چینی مآخذ میں ملتا ہے لیکن شہر کے مقامی نام ”پوھو“ (پوہر؟) سے جو سکوں پر ثبت ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نام اس سے بھی صدیوں پہلے مستعمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بخارا سنسکرت لفظ وہارا (خافاہ) کی گڑی ہوئی شکل ہے۔ مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے بخارا کو 91ھ میں فتح کیا۔ بخارا عباسی، سامانی اور غزنوی ادوار میں اور اس کے بعد بھی تہذیب و تمدن کا مرکز رہا۔ تاتاریوں نے یلغار کی تو بخارا نے 4 ذوالحجہ 616ھ (1220ء) کو چنگیز خان کے لشکر کی اطاعت قبول کی (ابن اثیر)۔ قلعے پر قبضہ بارہ دن کے بعد ہوا۔ شہر کو تاراج کیا گیا اور جامع مسجد اور چند محلات کو چھوڑ کر پورا شہر نذر آتش کر دیا گیا۔ لیکن بخارا جلد ہی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ چنانچہ چنگیز خان کے جانشین کے عہد میں اس کا ذکر ایک منجانب آباد شہر کے طور پر ملتا ہے۔ امیر تیمور کے ایک جانشین الغ بیگ نے 1449ء میں یہاں ایک مدرسہ تعمیر کیا۔ بخارا کو صدیوں شاہراہ ریشم پر اہم تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ 19ویں صدی عیسوی میں بار بار شکست کھانے کے بعد امیر بخارا مظفر الدین (85-1860ء) نے روسیوں کی اطاعت قبول کر لی۔

1887ء میں ایک ریلوے لائن کی ابتداء کی گئی جو امیر بخارا کی مملکت میں سے گزرتی تھی۔ بخارا کے لیے جو شیشیں دس میل کے فاصلے پر بنایا گیا تھا وہ بجائے شیشیں خود ایک شہر بن گیا ہے اور کاغان کے نام سے موسوم ہے۔ انقلاب روس (1917ء) کے بعد بخارا جمہوریہ شورائیہ اشتراکیہ ازبکستان کا ایک جزو بن گیا جس کا صدر مقام تاشقند تھا۔

(اروودائرہ معارف اسلامیہ: 4)

1991ء میں سوویت روس (شورائی روس) کی شکست و ریخت ہوئی تو ازبکستان بھی آزاد ہو گیا۔ بخارا ازبکستان کے کپاس پیدا کرنے والے ضلع میں واقع ہے اور قراقلی اون کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ اس کی آبادی اڑھائی لاکھ سے زائد ہے۔ (آکسفورڈ انگلش ریفرنس ڈکشنری)

خرننگ یا خرننگ: خرننگ نامی بستی اور سمرقند کے درمیان 3 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ یہاں امام الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری کی قبر ہے۔ اس بستی سے ابو منصور غالب بن جبرائیل خرننگی منسوب ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے گھر میں امام بخاری فوت ہوئے۔ اس نے امام بخاری سے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ (معجم البلدان: 2/356)

نیشاپور: نیشاپور قرون وسطیٰ میں ایران کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس کی بنیاد شاپور اول بن اردشیر اول نے ڈالی تھی۔ اس کے

شمال مغرب میں برزین مہر کا آتشکدہ ریوند کی پہاڑیوں میں واقع تھا جس کا ساسانیوں کے تین مقدس آتشکدوں میں شمار ہوتا ہے۔ 30 یا 31ھ میں بصرہ کے عامل عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نیشاپور کو فتح کر لیا۔ شہر کے شمال میں پہاڑوں کے اندر ایک چھوٹی سی جھیل چشمہ ہزن نامی تھی جس میں سے دو ندیاں نکلتی تھیں۔ شمال مغرب میں فیروزے کی مشہور کانیں تھیں۔ جنوب مشرق میں اس شہر کے دو شہرہ آفاق فرزندوں عمر خیام اور فرید الدین عطار رحمہما اللہ کے مقابر ہیں۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 22)

نیشاپور قدیم زمانے میں خراسان کا دار الحکومت تھا۔ یہ بلخ، ہرات اور مرو کے ساتھ قرون وسطیٰ کی اسلامی تہذیب کا ایک مرکز تھا۔ یہاں نظام الملک طوسی (ملک شاہ سلجوقی کے وزیر اعظم) نے مشہور مدرسہ نظامیہ قائم کیا تھا۔ مغلوں (تاتاریوں) نے اسے 1221ء میں برباد کیا۔ اس کے بعد یہاں کئی زلزلے آئے۔ نیشاپور کی آبادی 75 ہزار سے زیادہ ہے۔ اس کے پاس فیروزے کی کانیں ہیں۔ نیشاپور مشہد کے مغرب میں (تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر) واقع ہے۔

(المجدنی الاعلام)

بجستان یا سیستان کا قدیم نام سکستان ہے۔ یہ افغانستان اور ایران کے درمیان سرحدی علاقہ ہے۔ اس کا رقبہ کم و بیش 7006 مربع میل ہے جس میں سے 2847 مربع میل ایرانی علاقے میں اور 4159 مربع میل افغانی علاقے میں شامل ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 2,05,000 ہے۔

یہ سرزمین 1872ء کے ”سیستانی مشن“ کی مجوزہ کاغذی حد بندی کی وجہ سے دو ملکوں میں منقسم ہے۔ اس مشن کے صدر F.J. Goldsmid نے سیستان خاص اور بیرونی سیستان میں امتیاز قائم کیا ہے۔ سیستان خاص وہ حصہ ہو سکتا ہے جو ایران سے تعلق رکھتا ہے۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 11)

بصرہ: زیریں عراق کا ایک قصبہ جو شط العرب پر بغداد کے جنوب مشرق میں 279 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مرو راہیام سے اس کی جگہ کچھ بدل گئی ہے۔ قدیم بصرہ کی بنیاد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یزید بن غزوہ نے رکھی تھی۔ جدید بصرہ کی بنیاد گیارہویں صدی ہجری میں قدیم شہر ’الابُلہ‘ کے پاس رکھی گئی تھی۔ قصبے کے اتنی جلدی ترقی کر جانے کا سبب تیل کے چشموں کی دریافت ہے۔ 1948ء میں یہاں تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا۔ عراق پر برطانوی قبضے کے دوران میں بصرہ بڑی تیزی سے ایک جدید شہر کا روپ دھار گیا۔ بندرگاہ کو نہایت وسیع اور جدید ترین طریقوں کے مطابق تعمیر کیا گیا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 4)

بصرہ کی آبادی تقریباً 6 لاکھ ہے۔ یہ صوبائی صدر مقام ہے جس میں بصرہ، ابوالخصب، الزبیر، شط العرب، الفاؤ، قوسہ اور اتم قصر کے اضلاع (اقضیہ) شامل ہیں۔

(المجدنی الاعلام)

ترند: ازبکستان کا ایک شہر ہے جو دریائے آمو (جیون) کے کنارے حدود افغانستان پر واقع ہے جس کی آبادی تقریباً 65,000 ہے۔

(المجدنی الاعلام)

نسا: یہ خراسان کے زرعی علاقے میں اس سلسلہ کوہ کے شمال میں ہے جو خراسان کو ترکمان صحرا سے علیحدہ کرتا ہے۔ سکندر اعظم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ”نسا“ میں اپنی ایک یادگار عمارت تعمیر کرائی تھی۔ نسا کے کھنڈر بگر شہر (ترکمانستان) کے قریب پائے جاتے ہیں جو اشخاباد سے 12 میل اور باسنین کے اسٹیشن سے جو ٹرانس کیسپین ریلوے پر ہے آٹھ میل دور ہے۔ اس کی وجہ شہرت مشہور محدث امام نسائی رحمہ اللہ کا یہاں پیدا ہونا ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 22)

القدس: دیکھئے باب ”الامراء“

قزوین: ایران کا ایک شہر جو تہران سے 100 میل کے فاصلے پر کوہ البرز کی جنوبی جانب سطح سمندر سے 4 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کی بنیاد شاہ پوراول نے رکھی تھی اور اس کا نام شادشاہ پور رکھا تھا۔ 24ھ میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اسے فتح کیا۔ یہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا۔

ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں مغلوں کے حملے کی وجہ سے قزوین بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر شاہان صفوی کے زمانے میں اسے دوبارہ عروج نصیب ہوا۔ تبریز اور رشت سے تہران جانے والی سڑکیں یہاں ملتی ہیں۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 16/2)

قزوین صفوی دور میں 1555ء تا 1593ء فارس کا دار الحکومت رہا۔ اس کی آبادی ڈیڑھ لاکھ ہے۔

(المختصر فی الاعلام)

بغداد: دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ اس کی بنیاد آٹھویں صدی عیسوی میں رکھی گئی اور اس وقت سے خلافت عباسیہ کے خاتمے تک وہ برابر دار الخلافہ اور صد ہا سال تک عالم اسلام کا ثقافتی مرکز رہا۔ 1258ء میں ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہ ایک صوبے کا صدر مقام اور عثمانی ترکوں کے تحت ولایت بغداد کا مرکز رہا۔ 1921ء میں یہ جدید مملکت عراق کا دار الحکومت ہو گیا۔ موجودہ بغداد اس قدر پھیل گیا ہے کہ شمال کی طرف اعظمیہ اور کاظمین سے مشرق میں بند سے جنوب میں دجلہ کے بڑے موڑ سے اور ادھر اعطار المدنی اور قریبی مضافات مثلاً منصور اور مامون کے شہروں سے جا ملا ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 4)

بغداد کی آبادی 32 لاکھ 5 ہزار ہے۔ یہ ملکی اور صوبائی صدر مقام ہے۔ محافظہ (صوبہ) بغداد میں بغداد اعظمیہ کاظمیہ محمودیہ اور مدائن شامل ہیں۔ (المختصر فی الاعلام)

سمرقند: ماوراء النہر کا بڑا شہر زمانہ حال میں روسی ترکستان میں اسی نام کے صوبے کا صدر مقام جو دریائے سندھ (زرافشان) کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس کے متعلق مشرقی نیز روسی اور یورپی سیاحوں کا بیان ہے کہ وہ بلاشبہ جنت الفردوس ہے۔ اس شہر کا نام پہلے پہل سکندر کی مشرقی مہموں کے تذکروں میں ”مارا کنڈا“ کی صورت میں ملتا ہے۔ 91ھ میں قتیبہ بن مسلم نے اسے فتح کیا۔ شہر کی خوش حالی کا دور جدید اس وقت شروع ہوا جب تیمور کا 771ھ میں ماوراء النہر میں بول بالا ہوا۔ اس نے سمرقند کو اپنی روز افزوں مملکت کا صدر مقام بنایا اور اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ آراستہ کرنا شروع کیا۔

14 نومبر 1868ء کو روسی جرنیل کاٹمان (Kauffmann) قدیم تیموری دارالسلطنت سمرقند میں داخل ہوا اور یہ شہر مظفر الدین امیر بخارا کے قبضے سے نکل گیا۔ 1871ء میں قدیم شہر کے مغرب میں ایک نیا روسی شہر آباد ہوا جسے ٹرانس کیپین ریلوے سے ملا دیا گیا۔ 1882ء میں قلعے کو از سر نو بحال کر دیا گیا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 11)

سمرقند دریائے زرافشاں پر واقع ہے۔ اس کی آبادی سوا پانچ لاکھ ہے۔ یہ اسلامی تہذیب کا مرکز رہا۔ 1220ء میں چنگیز خاں نے اسے تباہ و برباد کیا۔ تیمور لنگ یہیں مدفون ہے۔ یہ ازبکستان کا مشہور شہر ہے۔ (المنجد فی الاعلام)



سیرت اور مغازی سے متعلق کتب

رسول اللہ ﷺ کی سیرت اور مغازی (جنگیں اور دیگر مہمات) سے متعلق کتابوں کی تدوین بھی تدوین حدیث کا ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے۔ محدثین نے اپنی کتب میں آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کو بھی خوبصورتی سے داخل کر دیا ہے۔ مثلاً: صحیح بخاری میں کتاب المغازی، صحیح مسلم میں کتاب الجہاد و السیر، مسند احمد میں کتاب المغازی۔ سیرت کے اولین مؤرخین (تیسری صدی ہجری کے آغاز تک) کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں:

1- سیر و مغازی کے مصنفین کے طبقہ اولیٰ کے مؤرخین:

✽ حضرت ابان بن عثمان بن عفان (وفات 105 ہجری) انہوں نے سب سے پہلے مغازی کی تحریر و کتابت شروع کی۔ وہ اس کے علاوہ حدیث اور فقہ کے بھی جید عالم تھے اور وہ بہت ثقہ راوی تھے۔

✽ حضرت عروہ بن زبیر (وفات 92 ہجری): مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں سے ایک تھے۔ کبار صحابہ سے حدیث حاصل کی اور خوب بیان کی۔ ابن ہشام اور ابن شہاب زہری ان کے مشہور شاگرد تھے۔

✽ حضرت وہب بن منبہ (وفات 110 ہجری): آپ اعلیٰ درجہ کے تابعی انتہائی سچے اور معتبر راوی تھے۔

2- طبقہ ثانیہ کے مؤرخین: ان میں سے چند مشہور مندرجہ ذیل ہیں:

✽ حضرت عبداللہ بن ابوبکر بن حزم (وفات 135 ہجری): سیرت اور تاریخ کے تمام مؤرخین نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ مشہور مؤرخین ابن اسحاق، ابن سعد اور طبری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

✽ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری (وفات 120 ہجری): محدثین نے انہیں ثقہ اور معتبر قرار دیا ہے۔

✽ محمد بن شہاب زہری (وفات 124 ہجری): آپ محدث بھی تھے مؤرخ بھی۔ ان کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ خلیفہ راشد نے دیگر شہروں کے علماء کو لکھا: ”حضرت ابن شہاب سے فائدہ اٹھاؤ سنت اور گزشتہ تاریخ میں تم ان سے بڑا کوئی عالم نہ پاؤ گے۔“

3- طبقہ ثالثہ کے مؤرخین:

✽ موسیٰ بن عقبہ (وفات 141 ہجری)

✽ معمر بن راشد (وفات 150 ہجری)

✽ محمد بن اسحاق (وفات 152 ہجری): سیرت و مغازی کے تمام مؤرخین کے نزدیک ”شیخ“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دو مؤرخین نے ان سے خوب علم حاصل کیا۔ زیاد بکائی اور ابن ہشام۔

✽ محمد بن عمرو واقدی (وفات 207 ہجری): ان کو علم حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔

✽ عبد الملک بن ہشام بن ایوب حمیری بصری (وفات 218 ہجری): انہوں نے امام محمد بن اسحاق کی کتاب "سیرت ابن اسحاق" ان کے دوسرے شاگرد زیاد بکائی سے نقل کی۔

✽ محمد بن سعد بن منیع بصری زہری (وفات 230 ہجری): یہ حضرت واقدی کے کاتب تھے۔ لیکن اپنے استاذ سے بھی بڑھ گئے۔ نیز یہ ثقہ اور معتبر راوی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کتاب "طبقات کبریٰ" ہے۔ میں نے غزوات و سرایا کے بیان میں اس کتاب اور ابن ہشام کی کتاب "السیرۃ النبویہ" پر اعتماد کیا ہے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے۔ ان کی والدہ کا نام ام عمرو بنت جندب تھا۔ ابان جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمرکاب تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے انہیں مدینے کا والی مقرر کر دیا تھا اور وہ اس منصب پر سات سال تک فائز رہے۔ ان کا شمار مدینے کے دس فقیہوں میں ہوتا ہے۔ 105ھ میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔

عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ: یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزند اور مدینہ منورہ کے قدیم ترین محدثین میں سے ہیں۔ ان کا شمار مدینہ کے سات فقیہاء میں ہوتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا ہیں۔

وہ اپنے بڑے بھائی عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے تقریباً بیس بچپن برس چھوٹے تھے اور اپنے زمانے کی سیاست سے الگ تھلگ رہ کر علمی مشاغل میں منہمک رہے۔ انہوں نے ایک کتاب المغازی تالیف کی تھی، لیکن ان کی مرویات صرف بعد کی کتب تاریخ، مثلاً تالیفات ابن سعد الطبری اور ابن اسحاق میں ملتی ہیں۔

(لخص از طبری، ابن سعد، وفیات الاعیان، صفۃ الصفوة)

وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ: ابو عبد اللہ، جنوبی عرب کے ایک داستان گو ایرانی نسل سے تھے۔ 34ھ میں ذمار میں جو ضعاء سے دو دن کی مسافت پر رہے پیدا ہوئے۔ وہب اہل کتاب کی روایات کے بارے میں سند اور حجت سمجھے جاتے ہیں اور اپنے بھائیوں ہمام، غیلان اور معقل کی طرح ان کا شمار بھی تابعین میں ہوتا ہے۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 23)

محمد بن شہاب زہری رضی اللہ عنہ: محمد بن مسلم بن عبید اللہ المعروف بابن شہاب، ایک مشہور فقیہ اور محدث تھے۔ غالباً 50 یا 51 ہجری میں پیدا ہوئے۔ قریش مکہ کے مشہور قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق کی وجہ سے ان کی نسبت زہری ہوئی، ان کا پردادا عبد اللہ ابتدا میں اسلام کے مخالفین میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابن شہاب کا شمار اکابر حفاظ حدیث اور فقیہاء میں ہوتا ہے۔ بقول عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ وہ اپنے زمانے میں سنت کے سب سے بڑے عالم تھے۔

زہری رحمہ اللہ نے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف سنت رسول ﷺ کو منضبط کرنے کی کوشش کی بلکہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی محفوظ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیث کی تدوین کی۔ ان کے شیوخ میں ہم خاص طور پر عروہ بن زبیر اور سعید بن مسیب رحمہما اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ زہری دس سال تک باقاعدگی سے سعید بن مسیب کے ساتھ رہے۔


محققین نے کہا ہے کہ انہوں نے صرف ایک کتاب یعنی نسب قومہ لکھی تھی۔ سب سے پہلے حاجی خلیفہ نے کتاب المغازی ان کی طرف منسوب کی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ زہری کی تالیفات احادیث و آثار جمع کرنے تک محدود تھیں۔

(تہذیب الاغانی، ابن سعد، ابن ہشام)


محمد بن اسحاق رحمہ اللہ ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ یہ عبد اللہ بن قیس کے مولیٰ تھے۔ ان کے دادا یسار پہلے قیدی تھے جو عراق سے مدینہ آئے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے مغازی پر کتاب تالیف کی۔ آخری عمران کا قیام بغداد میں رہا یہاں تک کہ بغداد میں ہی 150 یا 151ھ میں انتقال ہوا اور خیزران کے قبرستان میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے قریب دفن ہوئے۔



(معجم الادباء: 5/219، 220)





”مستبر رسول ﷺ“ اور ”ریاض الجنۃ“ کا مبارک مقام





- توسیع سلطان عبدالعزیز عثمانی (1265ھ/1848ء)
- توسیع شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود (1372ھ/1952ء)
- توسیع خادم الحرمین الشریفین شاہ عبدالعزیز (1406-16ھ/1985-95ء)
- شاہ فہد کی توسیع سے درندہ کا سارا مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا ہے۔

مسجد نبوی کی مرحلہ وار توسیع (تاریخ اور رنگوں کے آئینے میں)

- نبی ﷺ کے مبارک ہاتھوں مسجد نبوی کی بنیاد (سن 1ھ)
- نبی ﷺ نے توسیع فرمائی (7ھ/628ء میں فتح خیبر کے بعد)
- توسیع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ (17ھ/638ء)
- توسیع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (29ھ/649ء)
- توسیع ولید بن عبدالملک اموی (88ھ/707ء)
- عبدالملک بن عبدالملک (86ھ/96ء، 705ء، 715ء)
- میں گورنر مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں
- مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے دوران پہلی مرتبہ چاروں کونوں پر چار چار تعمیر کیے گئے پہلی بار مسجد کی محراب نئی نیر اسماء المومنین کے حجرے مسجد کی توسیع میں شامل کر لیے گئے۔
- توسیع مہدی بن منصور عباسی (161ھ/777ء)
- توسیع سلطان الشرف قاہجی (883ھ/1483ء)

ضمیمہ

کعبہ مشرفہ

(البيت، بيت الله، البيت الحرام، البيت العتيق، القبلة)

مکہ مکرمہ اور مواقیت کا درمیانی فاصلہ (تقریباً)


قرن المنازل	80 کلومیٹر	یہ نجد اور ادھر سے آنے والوں کے لیے میقات ہے
ذات عرق	90 کلومیٹر	یہ عراق اور ادھر سے آنے والوں کے لیے میقات ہے
یللم	100 کلومیٹر	یہ یمن اور ادھر سے آنے والوں کے لیے میقات ہے
جحفہ	187 کلومیٹر	یہ مہر شام اور ادھر سے آنے والوں کے لیے میقات ہے
ذوالخلیفہ	410 کلومیٹر	یہ مدینہ منورہ والوں کے لیے میقات ہے

مسجد حرام اور حرم کی حدود کا درمیانی فاصلہ

نخلة	7.5 کلومیٹر	یہ حرم کی قریب ترین حد ہے
نخلہ	13 کلومیٹر	یہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ اسے نخلہ یمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا نخلہ شامیہ ہے جس کا نام ”مضیق“ بھی ہے۔ وہ 45 کلومیٹر دور ہے۔
أضاعة لبن (عکیشیہ)	16 کلومیٹر	
جعرانہ (مستوفرہ)	22 کلومیٹر	
خدیبہ (شَمْسِی)	22 کلومیٹر	
جبل عرفات (ذات السليم)	22 کلومیٹر	

حرم کی حدود سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق مقرر فرمائیں اور پھر

نصب فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے تمیم بن اسد خزاعی کو بھیجا تو انہوں نے حرم کی حدود کی تجدید کی۔ حرم کے نشانات کی تعداد 943 تھی۔ جن میں سے کچھ پہاڑوں پر تھے کچھ گھاٹیوں پر۔ اکثر نشانات مٹ چکے ہیں۔ حرم کا کل رقبہ 550 مربع کلومیٹر ہے۔^①



① تاریخ مکہ المکرمہ قدیماً و جدیداً، ڈاکٹر محمد الیاس عبدالغنی

○ کوہ صفا سے کوہ مردہ تک سب کی جگہ جو ملک سعودی تو سیاح کے وقت جہز حرام میں شامل کر دی گئی

رود

سجد حرام کی مرحلہ وار توسیع (تاریخ اور مقاموں کے آئینے میں)

تغیر قریش کہ 604ء

توسیع عربین خطاب جثثہ 17ھ/639ء

توسیع عثمان بن عفان جثثہ 26ھ/648ء

توسیع عبداللہ بن زبیر جثثہ 65ھ/685ء

دہین بن عبداللہ اسوی 91ھ/709ء

توسیع ابو حفص منصور عباسی 137ھ/754ء

توسیع محمد عبدالعباسی 160ھ/777ء


توسیع معتز بن عبدالعباسی 284ھ/897ء


توسیع معتز بن عبدالعباسی 306ھ/918ء


توسیع ملک سعود بن عبدالعزیز آل سعود 1375ھ/1955ء (گزشتہ تمام توسیعات سے 6 گنا زیادہ)

توسیع خادم الحرمین الشریفین فہد بن عبدالعزیز 1409ھ/1988ء


(سعودی عہد کی مجموعی توسیع سے گزشتہ تمام توسیعات کی نسبت رقبہ 9 گنا ہو گیا ہے جبکہ مقتدر باشاہ کی توسیع کے بعد 1069 برس تک کوئی توسیع نہیں ہوئی تھی)







کعبہ شریف کی دیواروں کی موٹائی اور درمیانی فاصلے




مسعی (صفا اور مروہ)

مسحور کی لمبائی	394.5 میٹر	چوڑائی:	20 میٹر
پہلی منزل کی بلندی:	11.75 میٹر	دوسری منزل کی بلندی:	8.5 میٹر

اس نقشے میں کعبہ اور حرم شریف کے کونوں اور طواف کرنے کی جگہ کی نشان دہی کی گئی ہے۔ مزید برآں عثمانی دور حکومت کی عمارت اور اس پر سعودی حکومت کی پہلی اور دوسری توسیع کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح مسکنی (مضافہ و مدہ کے درمیان سعی کی جگہ) سات رتی ٹیڑھیاں اور ۹ عدد منار بھی نقشے میں واضح ہیں۔

کعبہ کی جدید توسیع (عثمانی دور حکومت کی اور سعودی حکومت کی پہلی اور دوسری توسیع)



زم زم کنویں کی پیمائش

17 میر	چشموں سے کنویں کی گہرائی:	1.56 میر	محاف (طواف کی جگہ) کے نیچے کنویں کا دہانہ:
1.46 میر سے 2.66 میر	کنویں کا قطر: قطر ہر جگہ ایک جیسے نہیں کم و بیش ہے	30 میر	دبانے سے کنویں کی گہرائی:
21 میر	حجر اسود سے کنویں کا فاصلہ:	4 میر	دبانے سے اپنی کی سطح کی گہرائی:
		13 میر	چشموں کی گہرائی:

مسجد حرام کی پیمائش اور گنجائش

توسیع	رقبہ	کل رقبہ	گنجائش	کل گنجائش
پہلی سعودی توسیع سے قبل مسجد (مطاف اور عثمانی عمارت) کی پیمائش	29,000 مربع میٹر	29,000 مربع میٹر	50,000 نمازی (مطاف میں موجود عمارات کی موجودگی میں)	72,000 نمازی (مطاف میں موجود عمارات ہٹا دینے کے بعد)
پہلی سعودی توسیع (تہہ خانہ + چلی منزل + اوپر والی منزل)	31,000 مربع میٹر	60,000 مربع میٹر	3,27,000 نمازی	3,99,000 نمازی
1406 ہجری میں پہلی توسیع کی چھت کو نماز کے قابل بنانے کے بعد	42,000 مربع میٹر	2,02,000 مربع میٹر	1,05,000 نمازی	5,04,000 نمازی
دوسری توسیع (تہہ خانہ + چلی منزل + اوپر والی منزل + چھت)	76,000 مربع میٹر	2,78,000 مربع میٹر	1,90,000 نمازی	6,94,000 نمازی
مسجد کے ارد گرد کے صحنوں کو نماز کے قابل بنانے کے بعد	88,000 مربع میٹر	3,66,000 مربع میٹر	2,20,000 نمازی	9,14,000 نمازی بھیڑ کے اوقات میں 10 لاکھ نمازیوں سے بھی زائد

ضروری نوٹ: (۱) گنجائش معلوم کرنے کا طریقہ: فی میٹر میں 2.5 نمازی آتے ہیں (۲) سعودی توسیع سے پہلے مطاف میں کئی چیزیں بنی ہوئی تھیں۔ مثلاً: چار مصلے، زمزم کی عمارت، مقام ابراہیم، منبر اور باب بنی شیبہ، ان عمارات کی وجہ سے صحنوں میں رکاوٹ پڑتی تھی اور گنجائش کم ہو جاتی تھی۔ جب یہ عمارات ہٹا دی گئیں تو مطاف اور عثمانی عمارت کی گنجائش 50 ہزار سے بڑھ کر 72 ہزار نمازی ہو گئی۔

